


کاروان سیف

مع
قاعدہ بغدادی سے صحیح بخاری تک

خود نوشت
سوانح حیات



مُؤْرِخِ اسلام کے چھتر مولانا فاضلی اعظم بخاری کپوری

کاروانِ حیات (خودنوشت سوانح)

مُعَمَّل

قاعدہ بغدادی سے صحیح بخاری تک

مؤلف

مورخ اسلام حضرت مولانا قاضی اطہر صاحب مبارکپوری
(م: ۱۶ جولائی ۱۹۹۶ء)

مرتب

مولانا ضیاء الحق خیرآبادی

ملنے کے پڑے

☆ مکتبہ ضیاء الکتب، خیرآباد، ضلع منو (یوپی) 9235327576

☆ کتب خانہ نعیمیہ دیوبند

☆ مکتبہ لفہیم صدر چوک منوناٹھ بھنجن 9236761926

☆ مولانا محمد خالد قادری مکتبہ دار الرقم، اسلام آباد (ڈکھا) جون پور 9554983430

ناشر

فرید بک ڈپو (پرائیویٹ لمبڈی) نئی دہلی

FARID BOOKDEPOT(pvt)Ltd

New Delhi-110002

﴿فہرست مضمون﴾

۱۲	مولانا ضیاء الحق صاحب خیر آبادی.....	تمہید.....
۱۷	حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب عظمی.....	پیش لفظ.....

﴿قاعدہ بغدادی سے صحیح بخاری تک﴾

۲۰	خاندانی سلسلہ اور پیدائش.....
۲۲	با قاعدہ تعلیم کی ابتداء.....
۲۲	والدہ کا انتقال اور پریشانیوں کی ابتداء.....
۲۲	میرا علیمی ماحول.....
۲۲	مولانا عبدالعزیز صاحب رسول پوری.....
۲۵	مولانا عبدالسلام صاحب مبارک پوری.....
۲۵	شمس العلاماء مولانا ناظر حسن صاحب فاروقی.....
۲۵	مولانا عبدالحق صاحب املوی.....
۲۵	مولانا محمد احمد صاحب لہڑاوی.....
۲۵	مولانا محمد شریف صاحب مصطفیٰ آبادی.....
۲۶	مولانا احمد حسین صاحب رسول پوری (میرے نانا).....
۲۶	مولانا محمد حبیحیٰ صاحب رسول پوری (میرے ماموں).....
۲۶	مولانا حکیم محمد صابر صاحب.....
۲۶	ملرحمت علی اسماعیل مبارک پوری.....
۲۷	دار المصنفین اعظم گلہڑ میں آمد و رفت.....

۲۷	مدرسہ کا ماحول اور اساتذہ.....
۲۸	مدرسہ احیاء العلوم کے اساتذہ.....
۲۹	مدرسہ قاسمیہ (شاہی) مراد آباد کے اساتذہ.....
۲۹	جمعیۃ الطلبہ کا قیام.....
۳۱	درس نظامیہ کی افادیت.....
۳۱	قوت مطالعہ کی برکت.....
۳۲	ذہن ساز کتابیں جن کا میں نے مطالعہ کیا.....
۳۶	مناظرہ و مباحثہ.....
۳۶	شعر و شاعری.....
۳۷	مطبوعات کی خریداری اور مخطوطات کی فراہمی.....
۳۹	چند اہم کتب مع قیمت اور سن خریداری.....
۴۵	مضمون نگاری اور تصنیف و تالیف.....
۴۷	مضمون نگاری کی ابتداء.....
۴۸	مولانا سید محمد میاں اور رسالہ "قائد".....
۵۱	مضمون نگاری اور شاعری کے ابتدائی نمونے.....
۵۵	عربی ادب کی تعلیم.....
۵۶	طبعی رہنمائی.....

﴿کاروان حیات﴾

۶۰	فراغت کے بعد ملازمت کی تلاش.....
۶۱	احیاء العلوم کی مدرسی.....
۶۱	مولانا شکر اللہ صاحب کا حسن انتظام.....

۶۲	مولانا شکر اللہ صاحب کی وفات
۶۲	زیریدر میں کتابیں
۶۳	معاشی اور خانگی دشواریاں
۶۳	رباطہ الادباء کا قیام اور ”مرآۃ العلم“ کی تالیف
۶۶	مدرسہ کی تxonah میں برکت
۶۷	احیاء العلوم سے علیحدگی

﴿امر تسر کا سفر﴾

۶۸	مرکز تنظیم اہل سنت میں ملازمت
۷۲	ایک لطیفہ

﴿امر تسر سے لاہور﴾

۷۵	”منتخب التفاسیر“ کا منصوبہ
۷۶	”منتخب التفاسیر“ کی ابتداء
۷۷	مکان آنا اور انور جمال کا انتقال
۷۷	لاہور والپسی اور مشاہرہ میں اضافہ
۷۷	لاہور کی ایک خصوصیت ”منتخب التفاسیر“ کی تکمیل
۷۹	ابوسعید برزنی
۸۰	مدرسہ احیاء العلوم میں عارضی مدرسی
۸۰	روزنامہ ”زمزم“ میں
۸۱	مولانا فارقلطی کا مشورہ
۸۲	اصلاح کابل
۸۲	علامہ محمد روچی

۸۳	مولانا آزاد سے ملاقات
۸۵	مولانا فارقلطی صاحب
۸۶	احسان دانش
۸۶	علامہ صابری کے ذریعہ تعارف
۸۷	ہم عصر شعراء
۸۸	علامہ تاجور نجیب آبادی
۸۹	ظفر ملتانی
۹۰	غازی خاں کابلی
۹۰	مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری
۹۰	مولانا احمد علی لاہوری
۹۱	علامہ محمد روچی سنیا نگ
۹۱	نصر اللہ خاں عزیز
۹۲	مولانا حبیب الرحمن
۹۲	میوپل لاہوری سے کتابیں
۹۳	خریداری کتب
۹۳	”الصالحات“
۹۵	”علمائے اسلام کی خونین داستانیں“
۹۸	”منتخب التفاسیر“ اور ”علمائے اسلام کی خونین داستانیں“ آزادی کی نذر
۹۸	”ائمه اربعہ“
۹۹	طبع عربی
۹۹	کتب اور کتب خانے
۹۹	حیات امام احمد بن حنبل

۹۹ حیات لیث بن سعد
۱۰۰ اقوال حکماء
۱۰۰ مشکلات القرآن اور کلمات اکابر کی اشاعت
۱۰۱ اسیر ادروی اور پرواز اصلاحی
۱۰۱ مولوی محمد عنان ساحر مبارکپوری
۱۰۱ مولانا بشیر احمد و مولانا نجم الدین
۱۰۱ والد صاحب لاہور میں
۱۰۲ وطن کے لوگ
۱۰۲ لدھیانہ
۱۰۲ حضرت داتا تکنخ کے دربار میں
۱۰۳ شاہی مسجد لاہور
۱۰۳ پکنک
۱۰۳ روزنامہ "زمزم" کی نائب اڈیٹری
۱۰۴ ارجون لے ۷ کو وطن واپسی
۱۰۴ احسان دانش اور مولانا نور الحسن بخاری کا خط
۱۰۴ جامع مسجد (مبارکپور) کیلئے کتبے
۱۰۴ عہدِ رفتہ کی جستجو

﴿اخبار "النصار" بہراچ﴾

۱۰۵ مولانا محفوظ الرحمن نامی
۱۰۵ مولانا عبدالحقیظ بلایوی
۱۰۸ تذکرہ مشاہیر عظام گلڈھ و مبارکپور

﴿جامعہ اسلامیہ ڈا بھیل میں﴾

۱۰۹ ڈا بھیل میں زیر تدریس کتابیں اور یہاں کے احوال
۱۱۰ مولانا محمد یوسف بنوری اور مولانا محمد مالک کاندھلوی
۱۱۰ ایک اصولی بات
۱۱۱ "کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ"
۱۱۱ مجلس علمی
۱۱۲ جامعہ کاظمیہ الشان کتب خانہ اور "رجال السندا و الہند" کی ابتداء

﴿سفر بمبنی﴾

۱۱۶ میری پہلی کتاب "اسلامی نظام زندگی"
۱۱۸ روزنامہ "جمهوریت"
۱۲۰ وفات شریف انور
۱۲۰ روزنامہ "جمهوریت" سے "انقلاب" میں
۱۲۳ شیخ الحبیر کی تخلیقی
۱۲۶ مدرسہ مقتحم العلوم بھیونڈی کا اجراء
۱۲۸ عبدالصمد شرف الدین سے تعلق
۱۲۸ حیات النبی کو سمجھی بلایا
۱۲۸ میری تیسرا کتاب "مسلمان"
۱۳۰ قادری صاحب سے تعلق
۱۳۱ ماسٹر الحاج سید محمد الدین صاحب
۱۳۲ مدرسہ احیاء العلوم کے چندہ کی ابتداء
۱۳۲ مرحوم احمد غریب اور احمد بن خدام النبی سے تعلق

کاروان حیات مع قاعدہ بغدادی سے صحیح بخاری تک

۹

۱۳۳	”البلاغ“ کا اجراء.....
۱۳۵	مولوی محمد عثمان صاحب بمبئی میں.....
۱۳۵	رجال السنداں والہند کی جمع و ترتیب.....
۱۳۶	سلطان مکلا.....
۱۳۷	مولانا محمد اسحاق بنarsi.....
۱۳۷	استاذ احمد فرید یمانی.....
۱۳۸	مولانا غلام محمد خطیب جامع مسجد بمبئی.....
۱۳۹	البلاغ کا ”علیمی نمبر“.....
۱۳۹	معارف القرآن کی اشاعت.....
۱۴۰	البلاغ ”شاہ سعود نمبر“.....
۱۴۱	الخاج جعی الدین منیری اور الخاج مختار احمد.....
۱۴۲	پہلا سفرنگ.....
۱۴۲	رجال السنداں والہند کی طباعت.....
۱۴۳	رسالہ معارف سے تعلق.....
۱۴۴	ابن حممن اسلام ہائی اسکول میں.....
۱۴۵	ڈاکٹر شیخ عبدالمنعم اندر اور شیخ عبدالعال العقاوی.....
۱۴۶	علی و حسین.....
۱۴۷	دیوان احمد.....
۱۴۸	مولانا عبد العزیز میمنی راجکوٹی.....
۱۴۹	نارجیل سے سخیل تک.....
۱۴۹	جده میں سعودی سفارت خانہ میں دعوت.....
۱۵۰	مزید انہا ک.....

کاروان حیات مع قاعدہ بغدادی سے صحیح بخاری تک

۱۰

۱۵۳	عرب و ہند عبد رسالت میں.....
۱۵۵	ڈاکٹر عبد العزیز عزت مصری.....
۱۵۶	شیخ صلاح ابو سمعیل اور مصری قراء.....
۱۵۷	ادارہ احیاء المعارف مالیگاؤں.....
۱۵۹	اہل بمبئی کی پیشکش اور میری بے رخصتی.....
۱۵۹	محمد علی زنیل علی رضا جوہری.....
۱۶۱	فلم والوں کی پیشکش.....
۱۶۳	دائرۃ المطبوعات والنشر ”کویت“.....
۱۶۴	امیر کویت عبد اللہ السالم الصباح.....
۱۶۵	استاذ سعید رمضان اخونی.....
۱۶۵	مصطفیٰ احمد سباعی.....
۱۶۵	جمال عبد الناصر اور قولصل عام عبد المنعم انبار.....
۱۶۶	مدرسہ کویتیہ اور استاذ مدحت اسمعیل.....
۱۶۶	مصر کا مرکز شفافی بمبئی میں.....
۱۶۶	مصریوں کا جھگڑا.....
۱۶۷	قصصیہ تصاویر.....
۱۶۸	ریاست ججیرہ کی تاریخ.....
۱۶۹	عبد الحمید بوہرے.....
۱۶۹	زادہ علی شوکت.....
۱۶۹	وجد حیدر آبادی.....
۱۶۹	سید اشfaq حسین.....
۱۷۰	مولانا شہاب مہر مالیہ کوٹلوی.....

۱۷۰	میعن الدین حارت جامعی
۱۷۰	علامہ احمد شبیلی
۱۷۱	سلطان مسقط سعید تیمور
۱۷۱	امیر قطر ہندوستان میں
۱۷۱	شاہ حسین ولی اردن
۱۷۲	رضا شاہ پہلوی
۱۷۲	شاہ افغانستان
۱۷۲	شکری قوتلی صدر شام
۱۷۲	ڈاکٹر عبد الحق مدراسی اور مولانا عبدالوهاب بخاری
۱۷۳	مولانا محمد یوسف کوکنی عمری مدراسی
۱۷۳	مولانا عبدالباری حاوی
۱۷۳	مولانا ناصبۃ اللہ بختیاری مدراسی
۱۷۵	دینی و علمی اسفار
۱۷۸	جن اداروں سے تعلق تھیا ب بھی باقی ہے

☆☆☆☆☆☆☆

۱۸۰	اہل حرمین سے ملاقاتیں
-----	-------	-----------------------

☆☆☆☆☆☆☆

۱۹۳	قاضی صاحب کے علمی کارناموں کی مکمل فہرست
-----	-------	--

☆☆☆☆☆☆☆

۲۰۲	مولانا عباز احمد صاحب عظیمی
-----	-------	-----------------------------

☆☆☆☆☆☆☆

۲۲۹	مولانا ضیاء الحق صاحب خیر آبادی
-----	-------	---------------------------------

☆☆☆☆☆☆☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مُهِیْد

اس خط اعظم گڑھ پر مگر فیضانِ تجلی ہے یکسر
جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیز اعظم ہوتا ہے
”خط اعظم گڑھ سے متعدد تاریخ ساز شخصیتیں اٹھیں، ان کی انفرادیت اور
امتیاز کو علمی دنیا نے تسلیم کیا، وہ آسمانِ شہرت پر نیز اعظم بن کر چمکیں، ان کی روشنی دور
دور تک پھوٹھی، مگر طلوع کے غروب بھی قانون، قدرت ہے“
حضرت مولانا قاضی اطہر صاحب مبارکبوری بھی اسی سلسلہ الذهب کی
ایک سنہری کڑی تھے، اللہ تعالیٰ نے انھیں علم و فضل کے جس مرتبہ بلند پر فائز کیا
تھا، اسے ایک دنیا جانتی ہے، خصوصاً عرب و ہند کے تعلقات پر وہ ایک سند اور اتحاری تھے، اس موضوع پر ان کی تصانیف سب سے مستند آخذ کی حیثیت رکھتی ہیں، تقریباً
نصف صدی تک تحریر و تصنیف کے ذریعہ علم و تحقیق کے بیش قیمت موتی لٹانے کے بعد
بالآخران کے لئے بھی انک میت و انہم میتوں کا ”ناگزیر وقت“ آہی گیا، اور
آج سے سات سال قبل ۱۹۹۶ء میں ماوجو لائی کی ۱۲ ارتاریخ کو انہوں نے داعی اجل
کو بیک کہا، اور تلاش و تحقیق کی بزم سونی ہو گئی۔

قاضی صاحب نے ایک طویل علمی زندگی گذاری، ان کے زندگی میں بڑے
نشیب و فراز آئے، بسا اوقات تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ معاشی تنگیاں اور خانگی
دشواریاں ان کے قدم کو علم و تحقیق کے کاموں سے ہٹا دیں گی، مگر دست قدرت نے
یاوری کی اور قاضی صاحب کو وہ ہمت و حوصلہ بخشنا کہ انہوں نے راہ کی تمام دشواریوں

کا نہایت خندہ پیشانی اور پورے صبر و استقامت کے ساتھ مقابله کیا، اور اپنے آپ کو شمع علم کے لئے پگھلاتے رہے، اور یہ ثابت کر دیا کہ انسان چھوٹی جگہ رہ کر اورنا موفق اور نامساعد حالات میں گھر کر بھی اپنا شخص و انتیز قائم کر سکتا ہے، اور اپنا ایک منفرد مقام بن سکتا ہے، چنانچہ وہ وقت بھی آیا جب انہیں تاریخ ہند کا سب سے معتبر و مستند مورخ تسلیم کیا گیا اور انہیں ”محسن سنده“ جیسے خطابات سے نوازا گیا، قاضی صاحب کے علم و فضل اور انکی علمی خدمات کا اعتراف علماء عرب و عجم ہر ایک نے کیا، ان کی عربی تصانیف قاہرہ اور ریاض سے نہایت آب و تاب کے ساتھ شائع ہوئیں، اور یورپ و امریکہ کے علمی حلقوں میں ہاتھوں ہاتھ لی گئیں، خود عربوں نے ان کی اردو کتابوں کا عربی میں ترجمہ کر کے شائع کیا۔

قاضی صاحب کا سفر تلاش و تحقیق کی دنیا میں تادم آخریں جاری رہا، انہوں نے جس بے سرو سامانی کے عالم میں اپنے علمی سفر کا آغاز کیا تھا، اور انکی جہد مسلسل اور سعی و کاوش کی وجہ سے اس کا جس قدر شاندار اور قابلِ رشک اختتام ہوا، وہ بعد کے لوگوں کے لئے ایک نمونہ راہ اور منارہ نور ہے، جس کی روشنی میں مستقبل کے محققین کے لئے منزلوں تک رسائی بڑی سہل ہو جائے گی،

قاضی صاحب جس پا یہ کے عالم اور محقق تھے، اور علم و فضل کے جس بلند مقام پر فائز تھے اگر کسی زندہ قوم کے درمیان ہوتے تو نہ جانے انکی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر کتنے مجلدات تیار ہو چکے ہوتے، مگر ہمارے علم کے مطابق ان کی یاد میں صرف ایک مجلہ ”ترجمان الاسلام“ بنارس کا خاص نمبر ”مورخ اسلام نمبر“ شائع ہوا ہے، جس کے مدیر قاضی صاحب کے دیرینہ و مغلص رفیق جناب مولانا اسیر ادروی صاحب ہیں، انہیں اس بات کی شکایت رہی کہ اس نمبر کیلئے اہل علم کی طرف سے انہیں خاطر خواہ تعاون نہیں مل سکا،

اس کے سات سال بعد ماہنامہ ضیاء الاسلام شیخوپور، عظیم گڑھ نے قاضی

صاحب کی حیات و خدمات پر ایک و قیع نمبر ”قاضی اطہر نمبر“ شائع کیا، اس خاص نمبر کو ایک خاص، بہت ہی خاص چیز شائع کرنے کا شرف حاصل ہوا، وہ قاضی صاحب کی ناتمام خود نوشت آپ بیتی ہے، جس کا ایک حصہ قاضی صاحب نے ”قاعدہ بغدادی سے صحیح بخاری تک“ کے عنوان سے شائع کر دیا تھا، یہ حصہ بہت مقبول ہوا۔ علماء نے بھی، طلبہ نے بھی اسے خوب پڑھا، اور خوب سبق لیا، اس کا دوسرا حصہ کاروان حیات کے نام سے قاضی صاحب لکھ رہے تھے، مگر اسے تمام کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ کاروان حیات کا سفر ہی تمام ہو گیا، لیکن جتنا ہے، وہ خود بہت ہے، اسے شائع کرنے کے بعد خیال ہوا کہ اسے کتابی شکل میں شائع کر دیا جائے تاکہ اس کا فرع عام ہو، اس میں ”کاروان حیات“ کے دوراول کا مطبوعہ حصہ ”قاعدہ بغدادی سے صحیح بخاری تک“ کو بھی شامل اشاعت کر دیا گیا ہے۔ تاکہ ساری خود نوشت داستان حیات کیجا آجائے، اسی کے ساتھ چند مضامین کو اور شامل کر دیا گیا ہے جس سے قاضی صاحب کی علمی زندگی پر روشنی پڑتی ہے، اس میں ایک تو خود قاضی صاحب کا سفر نامہ ”اہل حریم سے ملاقاتیں“ ہے، اس کو شامل اشاعت کرنے کی وجہ یہ ہے:

”ہندوستانی علماء کرام جوزندگی بھر علوم دینیہ کو عربی زبان میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، چونکہ انھیں عربی میں گفتگو کرنے کی مزاجوں نہیں ہوتی، اس لئے جو کم موقع پر گوکہ ان کی ملاقا تیں عرب علماء سے ہوتی ہیں، لیکن عربی گفتگو پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے اظہار خیال نہیں کر سکتے، اور ان کا علم اور ان کی ذہانت ”کنزِ حقیقت“ بن کر رہ جاتی ہے، اس بات کا احساس اکثر و پیشتر علماء کو رہا کرتا تھا۔

اسی تاثر کا اظہار محترم احمد غیرب صاحب نے اپنے ایک خط میں کیا تھا، قاضی صاحب جب جو کو گئے، تو وہ عرب علماء سے بے تکلفانہ ملے، ان سے کھل کر اظہار خیال کیا، یونکہ عربی لکھنے اور بولنے کا انھیں ملکہ تھا۔ اس سے عرب علماء متاثر ہوئے، قاضی صاحب نے اپنے اس مضمون میں اسی کی داستان بیان فرمائی ہے۔“

اس مضمون کو پڑھ کر قاضی صاحب کی عربی زبان پر قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوسرا مضمون ہے ”قاضی صاحب کے علمی کارناموں کی مکمل فہرست“ یہ قاضی صاحب کے صاحبزادے قاضی ظفر مسعود صاحب کا ہے،

”یہ قاضی صاحب کے علمی و تحقیقی کارناموں کی مکمل اور جامع فہرست ہے اس میں ان کی تمام اردو اور عربی تصنیفات کے علاوہ جن زبانوں میں دوسروں نے ان کے ترجمے کئے اور جن اداروں نے اپنے طور پر شائع کیا اور جن مخطوطات کی تصحیح و تحقیق کی ان پر تعلیقات لکھیں یا ان کتابوں کے مسودے حوالہ کا شکار ہو گئے اور شائع نہ ہو سکے، ہر ایک کی نشاندہی کردی گئی ہے۔ یہ فہرست اتنی جامع اور مکمل ہے کہ آئندہ قاضی صاحب کے کارناموں پر تحقیق اور یہ ریچ کرنے والوں کیلئے بہترین رہنمای ثابت ہو گی“

تیسرا مضمون استاذی حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب عظمی کا ہے، ”قاضی صاحب معاصر اہل علم کے خطوط کی روشنی میں“، اس کی تمهید میں حضرت الاستاذ رقم طراز ہیں:

”قاضی صاحب کو معاصرین کس نگاہ سے دیکھتے تھے؟“ قاضی صاحب کا رتبہ ان کے نزدیک کیا تھا؟ اس کی کچھ جھلکیاں ان مکاتیب و مدراسات میں دیکھی جاسکتی ہیں، جو معاصر علماء نے انہیں لکھے ہیں، قاضی صاحب کی عظمت یہاں بھی جھلکتی ہے کہ انہوں نے خطوط کا بڑا ذخیرہ نہایت اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھا، ملک کے بہت سے نامور علماء اور بڑے اصحاب علم نے یہ خطوط لکھے ہیں۔ ہم اس مضمون میں ان معاصر علماء کے خطوط کے کچھ اقتباس نقل کرتے ہیں“

چوتھا مضمون اس خاکسار کا ہے ”قاضی صاحب اور اہل سندھ“، اس کی تمهید میں میں نے لکھا:

”قاضی صاحب کا خصوصی موضوع ”عرب و هند کے تعلقات“ ہیں، ان کی کتابوں میں ہندوستان کے اندر اسلام کی پہلی چار صدیوں کی تاریخ ہے جس کا زیادہ تر تعلق سندھ و مکران وغیرہ سے ہے، اس لئے اہل پاکستان (سندھ) نے اسے اپنی تاریخ قرار دیا، اور اب تک اس علاقہ اور اس دور کی اتنی مفصل و مرتب تاریخ نہیں لکھی گئی تھی اس لئے اس کو ایک نادر ریافت کی حیثیت حاصل ہو گئی، سکھر کی فعال و تحریک تنظیم ”تنظیم فکر و نظر“ نے ان تمام کتابوں کو نہایت اعلیٰ معیار پر شائع کیا اور اس کا سندھی زبان میں ترجمہ کیا، اور اس کے رسم اجراء کے موقع پر مصنف کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کیا اور ان کیحد درجہ عزت افزائی کی، اور انہیں ”محسن سندھ“ کا خطاب دیا، اس مضمون میں ہم اہل سندھ کے مکاتیب، تحریروں اور ان کے بیانات کے اقتباسات پیش کریں گے، جس سے قاضی صاحب کے تین اہل سندھ کی شفیقی و وارثی اور عقیدت و محبت کا پتہ چلتا ہے“

خدا کرے قاضی صاحب کی زندگی کی یہ سبق آموز داستان حیات پڑھ کر ہمارا حوصلہ لہرائے، جذبہ شوق کو مہیز ہو، ہمتوں میں بلندی اور عزائم میں استحکام پیدا

ہو، اور ہمارے اندر بھی کچھ کرگذر نے کاولوں اور جذبہ بیدار ہو جائے۔
میں الحاج ناصر خاں صاحب (میونگ ڈائرکٹر فرید بک ڈپو، دہلی) کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس غیر معمولی اہمیت کی حامل کتاب کو شائع کر کے اس سے استفادے کی راہ آسان کر دی، فجز اکم اللہ احسنالجزا ضیاء الحق خیر آبادی

اویٹر ماہنامہ ضیاء الاسلام و استاذ مدرس شیخ الاسلام شیخنور پور، عظیم گلہڑ
کیم را کتو بر سر ۲۰۰۴ء مطابق ۲۲ ربیعہ بروز چہارشنبہ
☆☆☆☆☆☆☆☆

کثرت عبادت عزیمت یا بدعت؟

”حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب عظمی مدظلہ کے قلم اعجاز رقم سے“
کثرت عبادت کو بدعت کہنے والوں کیلئے نہایت مُسکت اور شافی جواب
ناشر:- فرید بک ڈپو، دہلی

انشاء اللہ عنقریب ہی یہ دونوں کتابیں شائع ہو کر مظہر عام پر آ رہی ہیں
حیات مصلح الامم: حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب عظمی کی مفصل سوانح حیات، تقریباً 500 صفحات پر مشتمل

تذکرہ شیخ ہلیجوی: حضرت مولانا شاہ حماد اللہ صاحب ہلیجوی (سندھی) کی مفصل سوانح حیات، تقریباً 250 صفحات پر مشتمل
مصنف: مولانا اعجاز احمد صاحب عظمی مدظلہ
ناشر:- فرید بک ڈپو، دہلی



پیش لفظ

مولانا اعجاز احمد صاحب عظیمی مظلہ

قاضی اطہر مبارکپوری علیہ الرحمہ

قاضی اطہر مبارکپوری؟ آنے والی نسل کو جاننا چاہئے کہ قاضی اطہر مبارکپوری کون تھے؟ اور کیا تھے؟ وہ سرپا جہد عمل تھے، وہ ایک پیکر صبر واستقامت تھے، حالات نے ان کی مخالفت کی، مگر ان کی ہمت مردانہ اور توفیق الہی نے ہر مخالفت کو موافقت پر مجبور کر دیا۔ ان کا خیر علم و تحقیق سے اٹھا تھا، اور تازیہ کی وہ اس میں تازیگی اور چنتگی پیدا کرتے رہے، وہ طالب علم تھے، اور جب وہ علماء کی صفائول میں پہنچ گئے تھے جب بھی وہ طالب علم ہی تھے، علم کے سمندر میں وہ گھستے رہے، ایک سے بڑھ کر ایک وہ علم و تحقیق کے موتی نکلتے اور طالب علموں کے دامن میں ڈالتے رہے، مگر کہیں رکنہیں، ہر قدم وہ آگے بڑھتے رہے، علم کی آغوش کشادہ ہوتی رہی، اور وہ علم و فن کی جلوہ طرازیوں میں گم ہوتے رہے، زندگی کی آخری سانس تک وہ طالب علم رہے۔

وہ دیار پورب کے لئے مایہ افتخار تھے، نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے علماء کا انھوں نے سراونچا کیا، کتنے لوگوں کو دھوکہ ہوا کہ وہ متقدہ میں میں کی کوئی قد آور شخصیت ہیں۔ حالانکہ وہ ہمارے ہی درمیان رہے، گھل مل کر رہے، بغیر کروفر کے رہے، ہر طبقہ کے لوگوں نے سمجھا کہ وہ ہمیں میں ہیں، اصحاب تحقیق میں پہنچے، تو انھیں پیشوامانا گیا۔ اہل تدریس میں گئے، تو بہترین مدرس سمجھے گئے، شعر و ادب کی وادی میں گئے تو

اسی دنیا کے محسوس ہوئے، تالیف و تصنیف کے میدان میں قدم رکھا، تو معلوم ہوا کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں:

تقریریں بھی خوب کیں! گوکہ ان کی تقریریں سادہ ہوتیں، مگر معلومات سے لبریز ہوتیں، طالب علموں میں ہوتے، تو طالب علم معلوم ہوتے، حد تو یہ ہے کہ عوام میں ہوتے اور ان سے گفتگو کرتے، تو ہر ایک اپنے کو ان کے قریب پاتا۔

ولیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد

(اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ وہ شخص واحد میں ایک دنیا سمیٹ کر رکھ دے) قاضی صاحب کی شخصیت کچھ ایسی ہی نمونہ قدرت الہی تھی۔

۱۲ ار جولائی ۱۹۹۶ء کو ان کا انتقال ہوا۔ علم و تحقیق کی دنیا میں ایک خلا پیدا ہوا، حق یہ تھا کہ اس خلا کو ان کی یادوں سے، ان کے کارناموں کے تعارف و تبصرے سے، ان کے احوال زندگی کی تحریر و تصنیف سے کسی قدر پر کیا جاتا۔ تا کہ اصحاب توفیق انھیں دیکھ دیکھ کر اپنی راہیں درست کرتے، جہد و عمل کا حوصلہ پاتے، صبر و استقامت کی عزیمت سے سرفراز ہوتے، الگوں کے احوال سناتے رہنا چاہئے تا کہ پچھلے راہ میں تھک کر بیٹھنے رہیں۔

ابھی ادارہ ضیاء الاسلام نے قاضی صاحب کی یاد میں ایک خاص نمبر کی اشاعت کا اہتمام کیا، اس میں قاضی صاحب کی غیر مطبوعہ خود نو اشت سوانح ”کاروان حیات“، پہلی مرتبہ شائع ہوئی، اب عزیزم مولانا ضیاء الحق خیر آبادی سلمہ، کی سعی و کاوش سے یہ اور مطبوعہ سوانح ”قاعدہ بغدادی سے صحیح بخاری تک“، یکجا کتابی شکل میں شائع ہو رہی ہے، باری تعالیٰ ان کی اس سعی و کاوش کو حسن قبولیت سے نوازیں اور ان کے علم عمل اور نیک ارادوں میں برکت عطا فرمائیں۔ اعجاز احمد صاحب عظیمی

مدرسہ شیخ الاسلام شیخو پور، عظیم گڑھ،

۱۴۳۲ھ
مر شعبان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قاعدہ بغدادی سے صحیح بخاری تک

نحمدہ، و نصلی علی رسویہ الکریم یتھی
خود اعتمادی اور خود سازی کی یہ طویل داستان ان عزیز طلبہ کی تجویز و تشویق اور ہمت
افزاں کے لئے لکھی گئی ہے، جو بہترین ذہن و دماغ لے کر دارالعلوموں اور جامعات کی اق و
دق اور شاندار عمارتوں میں جاتے ہیں تاکہ وہاں کے بہترین تعلیمی و تربیتی نظام کے ماتحت لا
کُت و فاق اساتذہ کی توجہ سے علم حاصل کریں، مگر عام طور پر ان کو اپنے مقصد میں ناکام ہو
نے کے ساتھ اپنی نالائقی اور بدنامی کی سند ملتی ہے، کیونکہ ان مدرسوں کے ذمہ داروں کی وجہ
سے تعلیم و تربیت کا معیار حد رجھ ناقص بلکہ علم کش ہوتا ہے اور وہ لوگ سارا الزام طلبہ کے سر
رکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں اور اگر کچھ طلبہ اپنے طور پر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان
کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔

ایسے طالب علموں کو ہم جیسے چھوٹے مدرسوں کے طلبہ سے سبق لے کر اپنے بلند
مقاصد میں کامیابی کی جدوجہد کرنی چاہیئے، میں نے اپنی طالب علمی کی یہ کہانی خودستائی اور
خود نمائی کے لئے نہیں لکھی ہے۔ عزیز طلبہ اس تحریر کو اس نقطہ نظر سے نہ پڑھیں بلکہ اس کو
پڑھ کر آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کریں۔

اس سے پہلے میں نے ”تعالیٰ سرگرمیاں عہد سلف میں“ کے نام سے ایک کتاب
لکھی ہے، اس کا مقصد بھی عزیز طلبہ کی تجویز و تشویق ہے۔ اس سلسلہ کی یہ دوسری کتاب ہے
مولانا حبیب الرحمن خان شروانی کی کتاب ”علمائے سلف“، بہت خوب اور بہت مفید ہے،
یہ میری محسن کتابوں میں ہے، اس کا مطالعہ بھی ضرور کرنا چاہئے۔

قاضی اطہر مبارکپوری

کیم ریبغ الاول ۱۴۰۷ھ ۵ نومبر ۱۹۸۶ء

خاندانی سلسلہ اور پیدائش

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين
محمد و آله واصحابه اجمعين .

میری پیدائش ۲۲ ربیع الاول ۱۳۹۸ھ مطابق ۲۲ نومبر ۱۹۷۹ء میں صحیح پانچ بجے ہوئی
، جائے پیدائش مبارک پور کے محلہ پورہ صوفی اور محلہ حیدر آباد کے نقطہ اتصال پر مو
جودہ مسکونہ مکان کے شمال میں سڑک کے بعد چوتھا مکان ہے، بعد میں ہم لوگ اس
سے پہلے تیسرے مکان میں آگئے، جس میں میرے بچپن، جوانی اور طالب علمی کا پورا
دور گذر رہا، باہر والا کمرہ میرے لئے مخصوص تھا میں اپنے والدین کی پہلی اولاد تھا نانا
مرحوم مولانا احمد حسین صاحب رسول پوری متوفی ۲۶ ربیع الاول ۱۳۵۹ھ نے میرانام عبد
الحفیظ رکھا، بعد میں قاضی اطہر مبارک پوری کے نام سے مشہور ہوا، والد مرحوم کا نام شیخ
 حاجی محمد حسن بن شیخ حاجی لعل محمد بن شیخ محمد رضا بن شیخ امام بخش بن
شیخ علی متوفی ۱۱ ربیع الاول ۱۳۹۸ھ ہے اور والدہ مرحومہ کا نام حمیدہ بنت مولانا احمد
حسین بن شیخ عبدالرحیم بن شیخ جمال الدین متوفیہ ۲۲ ربیع الاول ۱۳۵۲ھ ہے، رحمہم اللہ
اجمعین، دادا یہاں اور ناہیاں کے بزرگوں کے حالات ”ماثر و معارف“ اور ”تذکرہ
علمائے مبارکپور“ میں درج ہیں۔

اس زمانہ میں نانا مرحوم ڈھاکہ کی میں مدرس تھے اور وہاں کے مشہور و معمر بزرگ
حضرت شاہ عبداللہ صاحب ساکن رمنہ نے ان کو میری اور میرے ماموں عبد الباری
مرحوم کی ولادت کی خوشخبری دی تھی اور ہم دونوں کے حق میں دعائے خیر بھی کی تھی۔
میرے جد اعلیٰ سلطان نصیر الدین ہمایوں کے دور سلطنت میں کٹراماںک

پورے حضرت راجہ سید مبارک بن راجہ سید احمد بن راجہ سید حامد چشتی مانک پوری متوفی ۹۶۵ھ بانی مبارک پور کے ہمراہ اپنا حساب و نسب چھوڑ کر یہاں آئے، اور اسی زمانہ میں نیابت قضاۓ کا عہدہ ہمارے خاندان میں چلا آرہا ہے، جس کی خواہ، بواب بھی خاندان کے ہر چھوٹے بڑے فرد میں پائی جاتی ہے، اور غیرت و محبت، عزت نفس، صاف گوئی اور خودداری کا لحاظ و پاس بہت زیادہ ہے، انتہائی بچپن کے چند ایسے واقعات مجھ کو بواب تک یاد ہیں جن سے میری غیرت و محبت کو ٹھیک لگی تھی اور آگے چل کر ان سے خودداری کو مدد ملی۔

ہمارا خاندان بہت بڑا تھا، والد مرحوم چار بھائی تھے (عبداللہ، اسداللہ، محمد حسین اور محمد حسن) والد مرحوم ان میں سب سے چھوٹے تھے اور میں ان کی پہلی اولاد تھا، اس نے خاندان کے تمام چھوٹے بڑے مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔

میں خاندان اور محلہ کے لڑکوں کے ساتھ میں ہر قسم کے کھیل کو، صید و شکار، سیر و تفریخ اور طفیل شرارتوں میں شریک رہ کر ان کو غلط حرکتوں سے منع کرتا تھا، اس نے وہ سب مجھے ”مولوی“ کہتے تھے حتیٰ کہ اسی زمانہ میں محلہ کے دوسرے لڑکے اور بڑے لوگ بھی مجھ کو اسی خطاب سے یاد کرنے لگے، کھیل کو دے کے سامان بنانے میں زیادہ دلچسپی رہتی تھی، چڑیے اور مچھلی کے شمار سے خاص شغف تھا اور خاندانی بھائیوں کے ساتھ قصبه کے باہر باغوں، کھیتوں، دیہاتوں اور نادی نالوں کا چکر کاٹتا تھا، فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم تک یہی حال رہا اور کھیل کو دیں زیادہ وقت گذرتا تھا، خاندانی ماہول غیر علمی تھا، چار بھائیوں میں دونوں چھوٹے بھائی معمولی لکھنما پڑھنا جانتے تھے اور دینی زندگی بسر کرتے تھے، میں بچپن میں بہت سیدھا سادا تھا، آشوب چشم کی وجہ سے نگاہ بھی کمزور ہو گئی تھی، والدہ مرحومہ کو خاص طور سے میرے بارے میں بہت فکر رہا کرتی تھی کہ یہ بڑا ہو کر متاحل زندگی کیسے بسر کرے گا، اس کا ذکر دوسروں سے بھی کیا کرتی تھیں، میری نانی مرحومہ ریمہ بنت حافظ شاہ نظام الدین سریانوی متوفیہ ۷۲۶ /

رمضان ۸۳ھ بڑی نیک اور عابدہ زادہ تھیں، میں نے ان کا دودھ پیا ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں، اکثر صبح کو رسول پور مغلوالیا کرتی تھیں اور شام کو مبارک پور واپس کردا یا کرتی تھیں یہ خدمت ان کے یہاں پڑھنے والے بعض اڑکے انجام دیتے تھے۔

میرا حافظہ بچپن میں بہت قوی تھا، چھ ماہ اور رسال بھر کی عمر کے کئی واقعات اب تک یاد ہیں۔ والدہ مرحومہ مجھے گود میں لے کر صبح کو قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتی تھیں اور میں سنتا تھا، نیز محلہ کے لڑکے لڑکیوں کو پڑھاتی تھیں، اس وجہ سے بچپن سے مجھ کو دینی اور مذہبی معلومات سے دلچسپی ہو گئی تھی، اور انبیاء علیہم السلام، رسول اللہ ﷺ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور بزرگان دین رحمہم اللہ کے حالات سے فی الجملہ واقفیت بھی ہو گئی تھی، اور والدہ مرحومہ کی کتابیں اللہ تپڑتا تھا، اس طرح ان کی گود میرا پہلا مدرسہ تھی، نو دس سال کی عمر سے نماز کی پابندی ہو گئی تھی۔ الغرض والدہ مرحومہ اور نانی مرحومہ دونوں کی پرورش اور تربیت میں میرا بچپن لگزرا ہے جن کا ذہن و مزاج اور ماحول سراسر دینی علمی، خدا پرستی اور خدا ترسی کا تھا، جب کہ خاندان اور محلہ کا ماحول اس سے جدا گانہ تھا میں نے ان ہی متفاہ حالات میں آنکھ کھوئی اور ان سے میرا بچپن متاثر ہوا، میرے مزاج کی نرمی اور گرمی ان متفاہ تاثرات کا نتیجہ ہے جس کا ظہور اب بھی کبھی کبھی ہوتا رہتا ہے۔

یا قاعدہ تعلیم کی ابتداء:- ویسے تو میں گھر پر ہی کچھ نہ کچھ پڑھنے لگا تھا مگر با قاعدہ تعلیم کے لئے محلہ کے گھر یا مکتب میں بھیجا گیا، اس زمانہ میں عام طور سے قاعدہ بغدادی، قرآن شریف اور اردو کی ابتدائی تعلیم اور تربیت خانگی مکاتب میں ہوا کرتی تھی، گھر پر والدہ مرحومہ اور والدہ مرحومہ سے پڑھا کرتا تھا، اس کے بعد مدرسہ احیاء العلوم میں داخل کیا گیا، اس وقت تیسرا پارہ پڑھ رہا تھا، حافظ علی حسن صاحب مرحوم سے قرآن شریف پڑھ کر ختم کیا جیسا کہ میں بتاچکا ہوں، مدرسہ جانے سے پہلے

ہی اردو پڑھنے کی شدید پیدا ہوئی تھی، قرآن شریف ختم کرنے کے بعد اردو کی تعلیم منشی عبدالوحید صاحب لاہر پوری مرحوم سے حاصل کی جنہوں نے مبارک پور میں آباد ہو کر پوری زندگی مدرسہ احیاء العلوم میں مدرسی کی، ریاضتی کی تعلیم منشی اخلاق احمد صاحب متوفی ۱۸ ارڈی قعده ۱۴۰۶ھ سے مدرسہ میں حاصل کی۔

اس زمانہ میں مجھے نکنیں کاغذات، نقشہ جات، مختلف قسم کے پیسے اور سکے جمع کرنے کا شوق ہوا، ماچس کی ڈبیاں بھی جمع کرتا تھا، گھر کے صحن میں مختلف قسم کے پودے اور پھول بولیا کرتا تھا، دوسرے کھلیوں کے ساتھ کبوتر بازی کا شوق ہوا تو کئی سال تک یہ مشغله جاری رہا جس کی وجہ سے مدرسہ میں ناغہ ہوتا تھا، ایک مرتبہ الدمرحوم نے خوب خوب مارا، اور گھستیت ہوئے مدرسے لے گئے، اس کے بعد بالکل سیدھا ہو گیا اور باقاعدہ مدرسہ جانے لگا، اسی زمانہ میں اردو کی کتابیں جمع کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور ادھر ادھر سے کتابیں تلاش کرنے لگا ۱۴۲۷ھ میں نانا مرحوم کی کتاب ”سبیل الآخرت“ پہلی بار جھپ کر آئی جس کے پڑھنے اور سننے سے والدہ مرحومہ کی طرح مجھ پر بھی موت، قبر اور قیامت کا خوف طاری ہو گیا جس کا اثراب بھی باقی ہے۔

فارسی کی تعلیم مولانا نعمت اللہ صاحب مبارکپوری متوفی ۱۴۰۸ھ ربيع الثانی ۱۴۲۶ھ سے حاصل کی، اردو عربی کی خوش نویسی بھی ان ہی سے سیکھی، الغرض تقریباً پندرہ سال کی عمر تک کھلیل کو درکار دو فارسی کی تعلیم مکمل کی، اس کے بعد عربی تعلیم کا دور آیا۔

صفر ۱۴۵۹ھ تا شعبان ۱۴۶۰ھ تقریباً دس سال میری عربی تعلیم کا زمانہ ہے جس وقت عربی شروع کی میری عمر چودہ، پندرہ سال کی تھی، جو غفوں شباب کا زمانہ ہوتا ہے اور اس میں بچپن کی تمام بالقوۃ صلاحیتیں بالفعل ہو جاتی ہیں، اگر اس زمانہ میں ماحول ساز گارہ تو انسان سب کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ محرومی ہوتی ہے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی استعداد و صلاحیت، احوال و ظروف کی ناسازگاری کے

با وجود اپنا کام کرتی ہے، میں اپنے کو اسی طبقہ کے خوش نصیبوں میں شمار کرتا ہوں۔

والدہ کا انتقال اور پریشانیوں کی ابتداء: اردو فارسی کی تعلیم تک شہنشاہیت کا دور تھا، والدہ مرحومہ کا ذہن و مزان خالص دینی علمی تھا، گھر میں کفایت شعاری اور سادگی کی وجہ سے بڑی خیر و برکت کا دور تھا کار و بار بھی اچھا خاصا تھا۔

۱۴۲۵ھ میں جب کہ میں کافیہ وغیرہ پڑھ رہا تھا، والدہ مرحومہ کا انتقال ہو گیا جس کے صدمہ سے میری اٹھتی جوانی خاک میں ملنے لگی، سالوں غم و اندوہ کی وادی میں بھکلتا رہا، معلوم ہوتا تھا کہ والدہ مرحومہ کی یاد میں اپنے کو بھول جاؤں گا، والدہ مرحوم بہ سلسلہ معاش و میعادیت باہر آنے جانے لگے، تین بھائی اور ایک بہن میں سب سے بڑا میں تھا، تعلیم کے لئے باہر نکانا مشکل تھا، نیز بعض دوسرے خالگی معاملات پریشان کرن تھے، حتیٰ کہ تعلیم بند کر دینے کی بات ہونے لگی، مگر میں نے گھر کے کام کا ج کے ساتھ بڑے صبر و استقامت اور شوق و محنت سے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، اور مدرسہ احیاء العلوم میں پوری تعلیم حاصل کی، صرف آخری سال دورہ حدیث کے لئے جامعہ قاسمیہ ”گیا“ گیا تھا، مگر مدرسہ شاہی مراد آباد گیا، درمیان میں ۱۴۲۵ھ میں جامعہ قاسمیہ ”گیا“ گیا تھا، مگر دو ماہ کے بعد واپس چلا آیا تھا۔

میرا تعلیمی ماحول: میری تعلیم کا پورا زمانہ مبارکپور میں گذرایا ہے، اس زمانہ میں قصبہ اور سواد قصبہ میں تاجر علماء و مدرسین اور مصنفوں موجود تھے اور تقریباً سب ہی حضرات دوسرے مقامات میں علمی و دینی خدمت انجام دیتے تھے، ان میں سے کسی سے نہ استفادہ کی عمر تھی اور نہ موقع تھا۔ البتہ بعد میں ان کے کاموں اور کارناموں کو دیکھ سکر علمی حوصلہ پیدا ہوا، اور ان سے رہنمائی ملی۔

ان میں مولانا عبد العلیم صاحب رسول پوری (ناما مرحوم کے بڑے بھائی) متوفی ۱۴۳۲ھ صدر المدرسین مدرسہ چشمہ نمازی پور کو دیکھا ہے ان کی صورت ذہن میں باقی ہے، اپنے وقت کے جید عالم، مفتی، مدرس، طبیب اور مصنف تھے۔

مولانا عبدالسلام صاحب مبارکپوری متوفی ۱۳۷۳ھ مصنف سیرہ البخاری، مدرس دارالحدیث رحمانیہ دہلی کی خدمت میں ایک مرتبہ والد مرحوم کے ساتھ نبض دکھانے کیا تھا۔

شمس العلماء مولانا نظر حسن صاحب فاروقی مبارکپوری متوفی ۱۳۷۴ھ ڈھاکہ میں مدرس تھے اور نانا مرحوم کے خاص دوستوں میں تھے، ان کی زیارت نصیب نہ ہو سکی۔

مولانا عبدالحق صاحب المولی متوفی سے مترجم تلپیس ابلیس مستقل طور سے مدرسہ میاں صاحب دہلی میں رہتے تھے اور وہیں فوت ہوئے، ان کی زیارت بھی نصیب نہ ہو سکی۔

مولانا محمد احمد صاحب لہر اوی متوفی ۱۵ ارشوال ۱۳۶۸ھ اس زمانہ میں علماء کی ایک جماعت لے کر ”تحفۃ الاحوذی“ کی تپیض کرنے میں لگے رہتے تھے، ان کی خدمت میں بہ سلسلہ علاج آتا جاتا تھا، کبھی کبھی یوں ہی چلا جاتا تھا، ایک مرتبہ مولانا نے پوچھا کون کون کتابیں پڑھتے ہو، میں نے کتابوں کا نام بتایا تو فرمایا منطق میں بہت پچھے ہو، اس میں محنت کرو، ان کی علمی مشغولیت اور تصنیفی ایشہاک دیکھ کر لکھنے پڑھنے کا حوصلہ ملا۔ ان کی زبان سے پہلی بار عربی کا مقولہ سناتھا، من ساوی یوماہ فهو فی الخسران، یعنی جس انسان کے دونوں دن برابر ہوں وہ نقصان میں ہے، ہر اگلا دن پچھلے سے بڑھا ہونا چاہئے، یہ جملہ آج تک کام دے رہا ہے۔

مولانا محمد شریف صاحب مصطفیٰ آبادی متوفی ۱۳۷۲ھ مصنف ”الافتة القدسیۃ فی المباحث الحکمیۃ“ و ”نسیم الكلام فی تائید شریعتہ خیر الانام“ وغیرہ منطق، فلسفہ اور علم کلام کے بے مثال عالم و فاضل تھے۔ استاذ الاستاذ بھی تھے، اس زمانہ میں اکثر وطن ہی میں رہتے تھے، نانا مرحوم کے مخلص احباب میں تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا وہ بھی کبھی ہمارے گھر بھی آیا کرتے تھے۔ ان کی مجلس

خالص علمی ہوتی تھی۔

میرے نانا **مولانا احمد حسین صاحب رسلوپوری** متوفی ۱۳۷۶ھ رب جمادی ۹۵ھ تھر عالم، مدرس و مصنف اور طبیب حاذق، عربی کے ادیب اور صاحب دیوان شاعر تھے، ڈھاکہ میں پڑھاتے تھے، تعلیمات میں گھر آتے تو رات دن کتب بینی، تصنیف و تالیف اور دوسازی اور کام کا ج میں مصروف رہتے، آخر میں چند سال گھر ہی پر رہے، اس زمانے میں مجھے ان کے علمی مشاغل کے دیکھنے کا زیادہ موقع ملا، اور میرے ذوق کو بہت کچھ روشنی ملی، جو میرے گھر ہی کی چیز تھی، ان کے وصال کے وقت میں مراد آباد میں آخری تعلیم حاصل کر رہا تھا۔

میرے ماموں **مولانا محمد بھی صاحب** متوفی ۱۳۷۸ھ اصفر ۱۹۶۷ء انہیتہ ذہین و طباع اور جامع العلوم عالم تھے۔ ان کی ذات سے مجھے بے حد فائدہ پہنچا اور انہوں نے میرے علمی ذوق کو بڑی جلا بخشی، میرا علمی سرمایہ نانہال کی دین ہے اور وہیں سے میں نے یہ دولت پائی ہے۔

مولانا حکیم محمد صابر صاحب متوفی ۱۳۹۹ھ رب جمادی ۸۷ھ کے خاندان اور میرے نانہال کے درمیان علمی رشتہ بہت پہلے سے تھا، میں ابتدائے طالب علمی ہی سے ان کے یہاں آتا جاتا تھا، انہوں نے مجھے ”وفیات الاعیان لابن خلکان“ کے مطالعہ کا مشورہ دیا، اور اس کی اہمیت و افادیت سے واقف کیا اور اس کتاب سے میں نے خوب خوب استفادہ کیا، اسی زمانہ میں ان کے یہاں سے کئی کتابیں لا کر پڑھیں جس سے عربی شعرو ادب کی مزان شناختی کا ذوق پیدا ہوا۔

ملارجمت علی اسے میل مبارکپوری متوفی ۱۹۲۳ء بوہرہ فرقہ کے بڑے عالم و فاضل تھے، زندگی کا بیشتر حصہ سمبینی میں گزارا تھا، ملasisف الدین طاہر سے اختلافات و بغاوت کے بعد ایک جماعت لیکر ان سے مقدمہ بازی کی جو ۱۹۱۶ء غلہ کیس کے نام سے مشہور ہے، ناکامی کے بعد مبارک پور بازار میں بساطے کی دوکان کر لی تھی۔ عربی

کے زبردست ادیب و شاعر اور کئی مذہبی کتابوں کے مصنف تھے، مصر، شام، ایران، ججاز وغیرہ کا متعدد بار سفر کر چکے تھے، میں ان کی دکان پر بیٹھا کرتا تھا، ان کی باتیں علمی اور مذہبی ہوتی تھیں، وہ مجھے اپنی مذہبی فلسفی کتابیں مطالعہ کے لئے دیا کرتے تھے تھے، میں نے اسی زمانہ میں مشہور فلسفی شاعر ابوالعلاء معری کے ”رسالة الغفران“ کا مطالعہ ان ہی سے لے کر کیا تھا، انہوں نے مجھے جامع ازہر میں داخل کرانے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ خود قاہرہ جا سکے، نہ مجھے جامع ازہر میں داخل کرا سکے، ان کی صحبت سے عربی ادب میں رہنمائی ملی اور بوجہ فرقہ کی باطنی تعلیمات کا علم ہوا۔

دارا مصنفین عظیم گلڈھ میں آمد و رفت :- اس زمانہ میں دارا مصنفین عظیم گلڈھ میں کئی مشہور اہل علم تصنیف و تالیف اور حقیقی کاموں میں مشغول تھے، مولانا مسعود علی صاحب کی وجہ سے دارا مصنفین ضلع کی سیاسیت کا مرکز بھی تھا، میں کبھی کبھی ساتھیوں کے ہمراہ وہاں جاتا تھا، مولانا سید سلیمان ندوی ادھر ادھر آتے جاتے ہم لوگوں کو دیکھ کر رک جاتے اور خیریت دریافت کرتے، بعض اوقات وہ خود بھی مدرسہ احیاء العلوم میں آیا کرتے تھے، مگر ان سے یادا ر مصنفین کے کسی عالم سے استفادہ نہیں ہو سکا، ویسے بھی دارا مصنفین دوسروں کے حق میں شہرمنوعہ ہے پہلتوں وہاں کی تصنیفات اور رسالہ ”معارف“ سے بہت فائدہ ہوا اور ان سے میرے تصنیفی ذوق کو مدد ملی۔

مدرسہ کا ماحول اور اساتذہ :- یہ تھا میر احمد و علی ماحول جس میں میں نے طالب علمی کے دس سال گزار کر وطن کے علماء و مدرسین سے تعلیم حاصل کی، اور خانگی و معاشی الجھن کی وجہ سے باہر نہ جاسکا۔ اس زمانہ میں مبارک پور شیعہ، سنی اور دیوبندی، بریلوی جھگڑے کا اکھاڑا بنا ہوا تھا، ہر فرقہ کے پہلوان لنگوٹ کس کرمیدان میں زور آزمائی کر رہے تھے اور یہاں کے عوام اپنے اپنے علماء کو باہر سے بلا کر اپنے مخالف کو کافروں دین بنارہے تھے، مہینوں مہینوں جانین میں سے سوال و جواب کی تقریبیں ہوتی

تھیں، مناظرے اور مباحثے ہوتے تھے، پھر مار پیٹ اور مقدمہ بازی کی نوبت آتی تھی، عوام و خواص اس میں وقت، صلاحیت اور دولت خرچ کرنے کو عین دین اور کار ثواب سمجھتے تھے، گروہی عصیت اور جماعتی جانبداری کی وجہ سے انفرادی اور شخصی باتیں پارٹی کا مسئلہ بن جاتی تھیں، دیوبندی جماعت کی سرگرمیوں کا مرکز مدرسہ احیاء العلوم تھا، اس کے علاوہ آئے دن جمیعتہ العلماء اور کاغذیں کے جلسے، تحریکیں اور دوسری ملکی و سیاسی اور مذہبی سرگرمیاں اور ہنگامی حالات، جذباتی اور ہیجانی کیفیت پیدا کرتے تھے اور ہم طلبہ ان سب میں شریک رہا کرتے تھے۔ اس خلفشار و انتشار کے دور میں تعلیم و تعلم کا کام بظاہر بہت مشکل معلوم ہوتا تھا اور پڑھنے پڑھانے کے لئے جن پرسکون اور اطمینان بخش حالات کی ضرورت ہوتی ہے وہ مفقود تھے۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ یہی دور مدرسہ احیاء العلوم کا زریں عہد ہے۔ مدرسہ میں اس سے پہلے نہ ایسی رونق و برکت تھی اور نہ بعد میں آئی، یہاں کی تعلیم و تربیت کا شہرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا، اس دور کا ہر طالب علم آگے بڑھنے کی کوشش کر کے اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ بنانا چاہتا تھا۔ یہ سب قصہ کے ان اساتذہ کے خلوص و ایثار کا فرض تھا جو دس بارہ روپے سے بیس روپے تک کے قلیل مشاہرہ پر صبر و قناعت کر کے اور حساب کم و بیش سے لیکسو ہو کر رات دن پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ایک دن میں دس دس بارہ بارہ اسیاں پڑھاتے تھے، مدرسہ کے خارج اوقات میں طلبہ کو اپنے گھروں پر بلا کر عمده تعلیم اور بہترین تربیت دیتے تھے، خود محنت کر کے طلبہ سے محنت کراتے تھے، وہ حریص تھے کہ ان کے شاگردوں کو علم آجائے، استادی شاگردی کے تعلقات بالکل عزیزانہ نوعیت کے تھے۔

مدرسہ احیاء العلوم کے اساتذہ :- مدرسہ احیاء العلوم کے عربی اساتذہ میں مولانا مفتی محمد تیین صاحب مبارکپوری متوفی ۲۲ محرم ۱۴۰۳ھ میرے سب سے پہلے استاذ ہیں اکثر و پیشتر کتابیں انہیں سے پڑھی ہیں، ان کی سادگی، نیک نفسی، خلوص

اور شفقت سے مجھے بہت فیض پہنچا ہے، منطق و فلسفہ کی زیادہ تعلیم مولانا شمسکر اللہ صاحب مبارکپوری متوفی ۵ ربیع الاول ۱۳۶۲ھ سے حاصل کی، میں ان کا آخری شاگرد ہوں جسے نہایت ذوق و شوق سے پڑھایا، میری ہمت افزائی اور ذہنی تربیت میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ مولانا بشیر احمد صاحب مبارکپوری متوفی ۳ ربیع الثانی ۱۳۷۰ھ سے منطق کی بعض کتابیں پڑھی ہیں، مولانا محمد عمر صاحب مظاہری مبارکپوری سے تفسیر جلالین وغیرہ پڑھی ہے۔ ماموں مولانا محمد یحییٰ صاحب رسولپوری متوفی ۱۴ صفر ۱۳۸۷ھ سے عروض و قوافی اور بہیت کے بعض اسماق پڑھے ہیں، میری تربیت میں ان کا بڑا حصہ ہے، میرے مطالعہ کے لئے عربی کی نادر نادر کتابیں مہیا کرتے تھے، ان کے علاوہ میرے اساتذہ کرام میں کوئی ادیب، شاعر، مصنف اور مضمون نگار نہیں تھا، مگر میں ان ہی سے تعلیم حاصل کر کے سب کچھ ہوا، یہ ان کے خلوص اور میری ذاتی کوشش کا نتیجہ ہے۔

جامعہ قاسمیہ (شاہی) مراد آباد کے اساتذہ:- جامعہ قاسمیہ مراد آباد کے اساتذہ و شیوخ میں مولانا سید فخر الدین احمد صاحب متوفی ۱۳۹۲ھ سے تصحیح بخاری، سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد، اور مولانا سید محمد میاں صاحب متوفی ۱۶ ربیع الثانی ۱۳۹۵ھ سے سنن ترمذی اور مولانا محمد اسماعیل صاحب سنبھلی متوفی ۱۳۹۵ھ سے تصحیح مسلم پڑھی، درمیان میں ایک مرتبہ دو ماہ تک جامعہ قاسمیہ میں رہ کر مولانا سید محمد میاں صاحب سے دیوان حماسہ کا پہلا باب اور مقامات زختری پڑھی، مولانا عربی زبان کے ادیب، اردو کے مصنف اور خالص دینی و علمی زماں کے آدمی تھے، ان کے خلوص و محبت اور ہمت افزائی سے مجھے بہت فیض پہنچا ہے۔

جمعیۃ الطلبة کا قیام:- اسی زمانہ میں مدرسہ احیاء العلوم میں طلبہ کی فکری و فہنی تربیت اور وسعت معلومات کے لئے جمعیۃ الطلبة کا قیام ہوا، اس کے لئے عظیم الشان کتب خانہ قائم ہوا جس میں ہر علم و فن خصوصاً تاریخ و ادب کی ہزاروں مستند و معتبر

کتابیں جمع کی گئیں اور بہت سے علمی ادبی، مذہبی اور سیاسی اخبار و رسائل جاری کرے گئے جن سے طلبہ استفادہ کرتے تھے، اس دور کی تقریباً ہر کتاب میری پڑھی ہوئی ہے ہر جمعرات کو طلبہ سے تقریر کرائی جاتی تھی، جمعیۃ الطلبة کی طرف سے "الاحیاء" نام کا فلسفی رسالہ جاری کیا گیا جس کی ادارت میرے ذمہ تھی۔ مدرسہ کے ناظم اور روح رواں مولانا شمسکر اللہ صاحب اپنے عزیز طلبہ کی تعلیم و تربیت پر کڑی نظر رکھتے تھے، ان کے اندر عزت نفس، خود اعتمادی، بلندی کردار و رٹھوں علمی استعداد کا جو ہر دیکھنا چاہتے تھے وہ اپنے طلبہ کو علم کے ہر میدان میں آگے بڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔

میرے مدد و دوسراں اور مخصوص حالات قرب و جوار کے بڑے مدرسون میں جانے کے حق میں بالکل نہیں تھے، بڑی مشکل سے ایک سال باہر رہنا نصیب ہوا اس کے باوجود حوصلہ کی بلندی اور تحصیل علم کی دھن کا یہ حال تھا کہ جامع ازہر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا سودا ہر وقت سر میں سماں یا رہتا تھا بلکہ بعد میں بھی یہ آرزو باقی رہی مگر میں نے اپنے ذوق و شوق کی بدلت ناکامی کو کامیابی سے یوں بدل دیا کہ اپنے گھر اور مدرسہ کو جامع ازہر، جامع زیتون، جامع قربہ، مدرسہ نظامیہ مدرسہ مستنصریہ بنالیا، اور وطن میں ہی رہ کر خدا کے فضل و کرم، اساتذہ کی شفقت و محبت اور اپنی محنت و عزیمت سے بہت کچھ حاصل کیا، اس دور میں مجھ پر عجیب سرستی اور شور یدگی چھائی رہتی تھی، ہر وقت بغداد و بخارا، اندلس و غرناطہ، اور عالم اسلام کی قدیم مشہور درسگاہیں اور ان کے اساتذہ و تلامذہ کے مناظر سامنے رہتے تھے اور میں ان کے حسنات و برکات سے مستفیض ہوتا رہتا تھا۔

طالب علم میں محنت اور کوشش کے ساتھ آگے بڑے کا حوصلہ اور ذوق و شوق ہو تو چھوٹی جگہ رہ کر بڑا ہو سکتا ہے، اور اگر یہ باتیں نہ ہوں تو بڑی جگہ رہ کر چھوٹا ہی رہے گا، مجھے کسی بڑے علمی و تحقیقی اور تربیتی ادارہ کی ہواتک نہیں لگی نہ کسی بڑی شخصیت کی رہنمائی حاصل ہو سکی ساتھ ہی میرے ذاتی اور خانگی حالات بھی سازگار نہیں تھے، اس

کے باوجود میں مطمئن اور خوش ہوں کہ اپنے ذوق و شوق، محنت و حوصلہ اور خود سازی کے بل پر وہ سب کچھ حاصل کیا جو بڑے اداروں اور بڑی شخصیتوں کی سر پرستی میں رہ کر حاصل کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے جیسا کہ ہوتا بھی ہے کہ مجھے کسی بڑی شخصیت یا ادارہ کے سایہ میں جگہ ملتی تو میرا علمی پوادو قوت نموسے محروم ہو جاتا اور کھلی آب و ہوا میں اسے آزادانہ پھلنے پھولنے اور بارور ہونے کا موقع میسر نہ آتا۔

درس نظامیہ کی افادیت:- اس میں شک نہیں کہ درس نظامیہ میں بہت کچھ کتر بیونت کے باوجود اب بھی وہ بہت مفید اور کارامہ ہے، کئی مدارس نے اپنے یہاں نئے نصاب جاری کئے مگر نتیجہ کے طور پر ان سے ایسے علماء پیدا نہیں ہوئے جو درس نظامیہ کے فضلاء کی صفت میں بیٹھ کر ٹھوٹی تعلیمی و تصنیفی خدمات انجام دے سکیں اور دینی علوم و فنون میں مستند فکر اور معتبر نظر رکھتے ہوں، حالات اور تقاضے کے مطابق نصاب میں تغیر و تبدل ہونا چاہئے، مگر طلبہ میں پختہ علمی استعداد و صلاحیت اور اعتقاد و عمل میں صلاحت کا خیال مقدم ہونا چاہئے، کیونکہ دینی مدارس کے وجود کا مقصد یہی ہے، اسی نام سے وہ جاری ہیں، اور یہی ان کا اصل کام ہے، میں نے مجموعی طور سے اسی درس نظامیہ کو پڑھا ہے اور مجھے جو کچھ ملا ہے اسی سے ملا ہے۔

قوت مطالعہ کی برکت:- ابتداء میں عربی تعلیم مجھے سخت اور مشکل معلوم ہوتی تھی، مدرسہ سے اکثر غائب رہا کرتا تھا اس میں اپنی کچھ بے پرواہی اور سمجھ کا قصور اور کچھ طریقہ تعلیم کا قصور تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کئی ماہ تک مدرسہ نہیں کیا، حالانکہ بچپن ہی سے عربی زبان سے یوں مناسبت پیدا ہو گئی تھی کہ روزانہ صح کومترجم قرآن شریف کی تلاوت کرتا تھا اور ترجمہ کی روشنی میں عربی کے اردو معنی پر غور کرتا تھا، میزان، متشعب، علم الصیغہ اور نحو میر پڑھنے کے بعد جمعہ کا خطبہ سمجھنے لگا تھا، نحوی اور صرفی قواعد کی خوب مشق کی، بعد میں بھی کبھی علم الصیغہ اور نحو میر پڑھ لیا کرتا تھا، نیز فصول اکبری کی خاصیت ابواب خوب یاد کر لی تھی۔ ان کتابوں کے قواعد و

مسائل آج بھی تقریباً اسی یاد ہیں اور کام آتے ہیں، بعد میں جب مقامات حیری بحاشیہ مولانا محمد ادریس صاحب^ر کے دس مقامات ان کے پورے حقوق کے ساتھ پڑھے تو عربی زبان و ادب کا صحیح ذوق پیدا ہوا، اس کے متعلقات و مبادی، مثلاً لغت، اشتقاق، ابواب، صلات، نحو، صرف، خاصیات وغیرہ کے بارے میں نظر پیدا ہوئی جس سے درسی اور غیر درسی کتابیں سمجھ میں آنے لگیں اور خود اعتمادی نے ہمت و حوصلہ کو قوت دی۔ ہمارے اساتذہ بغیر مطالعہ کے سبق نہیں پڑھاتے تھے، طلبہ کے لئے ضروری تھا کہ کل کے سبق کا مطالعہ رات میں کر کے خود معانی و مطالب حل کرنے کی کوشش کریں وہ خود بھی رات کو مطالعہ کرتے تھے، چنانچہ رات میں تمام درسی کتابوں کا مطالعہ جو عموماً چار ہوا کرتی تھیں، جم کر کیا کرتا تھا، جہاں کام نہیں چلتا تھا استاذ پر چھوڑ دیتا تھا، اس طرح جب قوت مطالعہ پیدا ہو گئی تو یوں آنکھ ھلکی کی کہ ایک ہی سال میں منیہ الصلی، نور الایضاح، تدروی، کنز الدقائق اور شرح و قایہ پڑھ لی، شرح و قایہ کا سبق ایک دن میں چھ چھ صفحات تک پڑھ لیتا تھا، ان ہی ایام میں تاریخ اخلاقی شروع کی مگر چند اسپاق پڑھ کر چھوڑ دی کیوں کہ وہ کتاب درس کی نہیں بلکہ مطالعہ کی تھی، ایسا بھی ہوتا تھا میں کتاب کی عبارت پڑھ کر کہہ دیتا کہ میں سمجھ گیا اور استاذ آگے پڑھانے لگتے تھے، یہ سب قوت مطالعہ کی برکت تھی جو نحوی و صرفی قواعد کے حفظ و اجراء اور عربی ادب میں محنت کے نتیجہ میں پیدا ہو گئی تھی۔ جس کے لئے میں نے ابتداء میں خوب محنت کی تھی، اس کے باوجود میں نے اپنے اساتذہ کے بارے میں بھی گستاخانہ رائے قائم نہیں کی، اور نہ ان کے علم پر حرف گیری، اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو اسی زمانہ میں اس کی سزا مل جاتی اور ان کے طفیل مجھے یہ علمی فیض نہ پہنچتا۔

نیز زمانہ طالب علمی میں مدرسہ میں دو ایک درسی کتاب پڑھاتا تھا، اور طلبہ نہما یت ذوق و شوق سے پڑھتے تھے جن میں کئی ہمیسر تھے، بعض اوقات میں پڑھانہ نہیں چاہتا تھا تو مجھے زبردستی پڑھانے پر مجبور کرتے تھے اس میں بعض مرتبہ مار پیٹ کی نو

میں فقہ کے درس میں اکثر امام شافعی کی حمایت کرتا تھا، اور استاذ مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے اکثر سوچتا تھا کہ متاخرین ائمہ احناف خصوصاً علماء ما وراء انہر کی کتابیں کیوں نہیں پڑھائی جاتی ہیں۔ قدماء کی امہات کتب کہاں ملیں گی جن میں فقہ حنفی کی صاف سترھی روح موجود ہے اور فروعات کا استخراج احادیث و آثار سے کیا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ بعد میں احیاء المعرف العمانیہ حیدر آباد سے شائع ہونے والی ائمہ احناف کی نادر و نایاب کتابوں سے بے حد شغف رہا، ان سب کو جمع کیا اور دل کھول کر ان پر تبصرہ و تعارف لکھا۔ مولانا ابوالوفاء افغانی متومنی ۱۳۹۵ھ صدر لجنتہ احیاء المعرف العمانیہ حیدر آباد متصلب حنفی تھے جنہوں نے یہ کتابیں تلاش کر کے اپنے تعلیق و تخلیق کے ساتھ شائع کیں، بعد میں انہوں نے ایک مرتبہ میرے سامنے فرمایا کہ میرا بھی چاہتا ہے کہ علماء ما وراء انہر کی ان کتابوں کو جلا دوں ان ہی کے رواج کی وجہ سے امام ابوحنیفہ، امام محمد، امام ابویوسف اور دیگر ائمہ احناف حبهم اللہ کی کتابیں ناپید اور ضائع ہو گئیں اور لوگوں نے ان سے صرف نظر کر کے متاخرین کی کتابوں کو فقہ حنفی کا مأخذ و مدار بنالیا۔ احیاء المعرف العمانیہ کی کتابوں اور جنتہ اللہ البالغہ کے مطالعہ سے مجھے فقہی مسائل کو احادیث و آثار کی روشنی میں سمجھنے کا ذوق پیدا ہوا۔

اسی طرح اکثر خیال آتا تھا کہ قرآن و حدیث جو دین کی بنیاد ہیں ان کو درس نظامیہ میں تیسرا درجہ دیا گیا ہے اور ان کو دور اور عبور کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ اس خیال کی بناء پر اسی زمانہ میں مشکلہ، تفسیر جلالیں اور تفسیر ابن کثیر خرید کر پڑھتا تھا، ساتھ ہی مؤٹا امام مالک اور مؤٹا امام محمد کا مطالعہ کرتا تھا۔

ذہن ساز کتابیں جن کا میں نے مطالعہ کیا۔۔۔ ابتداء مسدس حالی اور علمائے سلف پھر فہرست ابن ندیم اور وفیات الاعیان سے اسلاف کے علمی کارنا میں سے واقفیت ہوئی اور ان کے احوال و سوانح سے ان کی تقلید و تبعیق کا شوق پیدا ہوا، اسی

بت آجائی تھی اس طرح طالب علمی کے ساتھ مدرسی کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا، جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ عربی کی کوئی غیر درسی کتاب ہر وقت لئے رہتا تھا سبق اور تکرار کے بعد اس کے مطالعہ میں لگ جاتا تھا، ہمارے مدارس عربیہ کا یہ تغیر کتنا عجیب اور علمی انحطاط کی پروگری اندازناک ہے کہ اب سے چالیس پینتالیس سال پہلے ہم جیسے طالب علم اپنے شفیق اساتذہ کی نگاہ میں نالائق اور بداستعداد تھے، وہ کہتے تھے کہ تم لوگوں کو کچھ نہیں آتا، اہل علم کی مجلس میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہو، مدرسہ میں آکر وقت اور عمر ضائع کرتے ہو، اور ہم ان سے بعض اوقات طالب علمانہ انداز میں دبی زبان سے کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے بعد ہم کو یاد کریں گے، چنانچہ بالکل یہی ہو رہا ہے۔ قوت مطالعہ پیدا ہو جانے کی وجہ سے پڑھنے میں بڑا انشراح و انبساط پیدا ہو گیا اور غیر درسی کتابوں کے مطالعہ کا شوق جنون و دیوانگی کی حد تک بڑھ گیا، درسی کتابوں میں بس اتنی محنت کرتا تھا کہ امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جاؤں، ممتاز یا اول آنے کی کوشش کبھی نہیں کی، مگر اکثر اول ہی آیا، بعض مرتبہ ممتاز بھی رہا، اس کے مقابلہ میں غیر درسی کتابوں سے شغف بہت رکھتا تھا، چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی کتاب ہاتھ میں ضرور رہا کرتی تھی، حتیٰ کہ کھانا کھاتے وقت بھی کتاب دیکھتا تھا، راتوں کو درسی کتابوں کے مطالعہ کے بعد غیر درسی کتابوں کا مطالعہ کئی کئی گھنٹے تک کیا کرتا تھا، گرمی کی رات میں لالٹین کے سامنے کتاب لئے پڑا رہتا تھا۔ بسا اوقات زبردستی اٹھایا جاتا تھا حالانکہ بچپن سے نگاہ کمزور تھی، عربی شروع کرنے کے بعد عنینک کا ستعال شروع کر دیا تھا بعض اساتذہ از راہ شفقت کہتے تھے کہ اس قدر زیادہ نہ پڑھو ورنہ اندھے ہو جاؤ گے تو میں عرض کرتا کہ اگر ایسا ہو تو خود ہی یہ کام بند ہو جائے گا، کثرت مطالعہ اور کتب بینی سے بعض اوقات آنکھ میں سوژش پیدا ہو جاتی تھی، دانے نکل آتے تھے اور چکر آنے لگتا تھا جس کی وجہ سے دیر تک آنکھوں کے سامنے اندر ہمرا چھا جاتا تھا،

زمانہ میں مامول مرحوم مولانا محمد یحیٰ صاحب فراغت کے بعد دارالملکبگین لکھنؤگئے جو نیانیا قائم ہوا تھا، وہ میرے لئے مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی کی کتابیں روانہ کرتے یا لاتے تھے، اور میں ان کو نہایت ذوق و شوق سے پڑھتا تھا، نیز رد شیعہ کے سلسلہ کی دوسری کتابیں ان ہی سے حاصل ہوئیں۔ اور میرے پاس ان کتابوں کا اچھا خاصاً خیرہ جمع ہو گیا، اس کے بعد وہ مدرسہ چشمہ رحمت غازی پور میں مدرس ہوئے تو وہاں کے کتب خانہ سے میرے لئے کتابیں لاتے تھے اور پھر واپس لے جاتے تھے، ان کے ذریعہ جن کتابوں کے مطالعہ سے مستفیض ہوا ان میں سے یہ چند نام یاد رہ گئے ہیں: الاستیعاب فی معرفة الاصحاب ابن عبد البر، دلائل النبوة اصفہانی، سبحۃ المرجان فی آثار هندوستان غلام علی آزاد بلگرامی، آکام المرجان فی حکام الجان ابو بکر شبیل بغدادی، حیاة الحیوان دمیری، الصواعق اخر قۃ ابن حجر عسکری، العمدة فی الشعروونقدہ ابن رشیق قیروانی، المحاسن والاضداد جاحظ، الشعروالشعراء ابن قتبیہ، المیزان الکبری شعرانی وغیرہ۔

مولانا حکیم صابر خاں صاحب کے یہاں سے یہ کتابیں لا کر پڑھیں، فقه اللہ شعابی، امثال العرب ضبی، نقد اشعار ابن قدامة، کتاب الصناعتين عسکری۔ مدرسہ احیاء العلوم کے کتب خانہ سے یہ کتابیں پڑھیں، سیرت ابن ہشام، وفاء الوفاء للسمهودی، المستطرف، دیوان فرزدق، نیز مختلف طریقوں سے ان کتابوں کے مطالعہ سے فائدہ اٹھایا، وفيات الاعیان ابن خلکان، کتاب الملل والنحل شهرستانی، العقد الفرید ابن عبد ربہ، رسالت الغفران ابوالعلاء معزی، تهذیب التهذیب، توالی التاسیس وغیرہ۔

یہ ان کتابوں کے علاوہ ہیں جن کو میں خریدتا تھا اور رات دن ان کے مطالعہ میں مشغول رہتا تھا، ان کی فہرست آگے آرہی ہے۔ اسی طرح جمعیۃ الطلیبہ کی لائبریری کی تقریباً تمام کتابیں کلی یا جزوی طور پر میرے مطالعہ میں رہ چکی ہیں اور میں نے ان

سے استفادہ کیا ہے۔ جس دن کوئی نئی کتاب ہاتھ آ جاتی، سب کچھ چھوڑ کر اسی کے مطالعہ میں غرق رہتا تھا، ان کتابوں کے پڑھنے کے ساتھ ان کے منتخبات جمع کرتا، مضامین لکھتا تھا، حالانکہ اس وقت تک ان کتابوں کو پوری طرح سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی بلکہ بہت سی کتابیں میری استعداد سے کہیں زیادہ بلند تھیں اور ان کو بہت کم سمجھ سکتا تھا جو کچھ اور جتنا سمجھ لیتا تھا اس سے میرے علمی حوصلہ میں بڑی توانائی آ جاتی تھی، اور مزید مطالعہ کا شوق پیدا ہوتا تھا۔

مناظرہ و مباحثہ: اس زمانہ میں ہر منگل کو بازار میں عیسائی مشری سے تقریری اور تحریری مباحثہ کرتا تھا اور اس سلسلہ میں تورات، انجیل اور ردنصاری کی کتابوں کا گہرہ مطالعہ کیا۔

کثرت مطالعہ اور کتب بینی کی وجہ سے میری معلومات میں بہت اضافہ ہوا اس لئے تقریر و خطابت میں بھی مدرسہ کے طلبہ میں نمایاں حیثیت حاصل تھی، اور قصہ کے اندر باہر جلوسوں میں اساتذہ سے پہلے تقریر کرتا تھا۔

شعر و شاعری: ابتداء ہی سے شعروشاعری کا ذوق پیدا ہوا تو اپنے طور پر اچھی خاصی شاعری کرنے لگا اور میرے اشعار مذہبی، سیاسی اور علمی جلوسوں میں پڑھے جانے لگے بلکہ چھپنے لگے، اسی کے ساتھ مضمون نگاری بھی اپنے طور پر کرنے لگا اور میرے مضامین اخباروں اور رسالوں میں چھپنے لگے۔

الغرض میں نے کثرت مطالعہ، علمی استعداد، مضمون نگاری، تصنیفی ذوق، شعروشاعری، بخش و مناظرہ، تقریر و خطابت میں شہرت کی حد تک کامیابی حاصل کر لی۔ صلاحیتوں کے دروازے کھل گئے، جو لوگ طبع اور علمی انبساط و نشاط ہر میدان میں روای دوال معلوم ہونے لگا اور خود اعتمادی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا۔ میرے اساتذہ ان بالتوں کی وجہ سے بہت خوش رہا کرتے تھے اور میری ہمت افزائی فرماتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ میری یہ تمام صلاحیتیں ان ہی کے خلوص و محبت اور مرتبیانہ تعلیم و

بھی محفوظ ہیں، ان میں فن و ارکتابوں کے نام، مصنف کے نام و نسب، سنہ وفات، کتابوں کے اجزاء اور قیمت کی تفصیل ہوتی تھی، بعض کتابوں کا تفصیلی تعارف بھی ہوتا تھا، اس طور سے پہ فہرستیں بجائے خود عربی مطبوعات اور ان کے مصنفوں کا دائرۃ المعارف معلوم ہوتی تھیں، ان فہرستوں سے مجھے علمائے اسلاف کے تصنیفی کارناموں اور مصر و شام وغیرہ کی مطبوعات کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل ہوئیں اور میرے علمی ذوق کو رہنمائی ملی، ان کو بار بار پڑھتا اور دیکھتا تھا، پھر اپنے ذوق اور وسعت کے مطابق منتخب کرتا تھا، جی چاہتا تھا کہ کل کتابیں خرید لوں مگر سوال پیسے کا تھا، گھر کی اقتضادی حالت کتابیں خریدنے کی بالکل اجازت نہیں دیتی تھی اس لئے میں نے جلد سازی شروع کر دی۔ اور اس کا جملہ سامان مہیا کرے ہر قسم کی جلدیں بنانے لگا، سامان عظیم گڑھ سے لاتا تھا، صح کو کچھ راستے سے پیدل جاتا اور ظہر تک سامان خرید کر آ جاتا، آتے جاتے بارہ میل کی مسافت چند گھنٹوں میں طے ہو جاتی تھی، جلد سازی کی آمدنی کتابوں کی خریداری کے لئے محفوظ رکھتا تھا۔ دوسرا تر کیب یہ نکالی کہ کتب خانہ رشیدیہ سے تاجر انہ نزد پر کتابیں منگانے لگا، عام کتابوں پر روپیہ میں چار آنے، مصری کتابوں پر دو آنے اور قرآن شریف اور پارولوں پر زیادہ گمیش ملتا تھا۔ مدرسے کے طلباء اور تصبه کے لوگوں کی فرمائش پر قرآن شریف اور کتابیں منگا کر فہرست کے دام پر دیا کرتا تھا، محسول وغیرہ کے بعد گمیش کی جو رقم بچ جاتی اسے بحفاظت رکھ دیتا اور جب کتابیں منگا لیتی تھا، ہر مہینہ میں دو تین پارسل ڈاک یا ریل سے آتے تھے جن میں میری بھی کوئی کتاب ہوتی تھی، ایسا بھی ہوتا تھا کہ مطلوبہ کتاب کی رقم جمع نہ ہونے کی وجہ سے کئی کئی مہینہ تک میری کوئی کتاب نہیں آتی تھی۔ اس طرح طالب علمی کے دس سالہ دور میں عربی کی نادرونایا بامہات الکتب اور مصر و شام اور بیروت وغیرہ کی مطبوعات کا اچھا خاصاً خیرہ جمع ہو گیا تھا، ان کتابوں کے بارے میں

ترہیت کا نتیجہ تھیں، وہ خود محنت کر کے اپنے شاگردوں سے محنت لیتے تھے، اور حساب کم و بیش سے یکسو ہو کر اس حرص میں گھلے جاتے تھے کہ ان کے شاگردوں کو علم آ جائے۔ **مطبوعات کی خریداری اور مخطوطات کی فراہمی**:- اردو کی تعلیم کے زمانہ ہی سے مجھے کتابیں جمع کرنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا، ساتھیوں سے کتابیں مانگتا اور خود بھی خریدتا تھا، مقامات مقدسہ کے نقشے، مختلف قسم کے نقشے جو اس چھوٹے سے قصبہ میں کہیں سے مل گئے جمع کیا اور ان سب کو لکڑی کی ایک چھوٹی سی صندوق میں جسے والدہ مرحومہ رسول پور سے لائی تھیں بحفاظت رکھتا تھا، اور ہر دوسرے تیسرا دن ان کوئی ترتیب اور قرینے سے سجا تھا، یہ میرا پہلا کتب خانہ یا اسلامی عجائب خانہ تھا۔ عربی شروع کرنے کے بعد کتابی ذوق میں اضافہ ہوا، درسی کتابیں نانا مرحوم کے کتب خانہ سے لاتا تھا جسے دیکھ کر مجھے کتابیں جمع کرنے کا شوق ہوا تھا اور میزان و منشعب، علم الصیغہ، کافیہ، مرقاۃ، کفایۃ المحتفظ، کنز الدقائق، دیوان تنبی، مقامات حریری، وغیرہ خریدی اور اردو کتابوں میں تواریخ حبیب اللہ، الکلام امین، حدائق البیان، الفاروق وغیرہ منگائیں، رسالہ ”مولوی“، دہلی سے ایک روپیہ سالانہ چندہ میں مستقل طور سے آتا تھا اس کی جلدیں بننا کر رکھتا تھا۔

انتظار اور بے تابی کا یہ حال تھا کہ جس دن کتاب آنے والی ہوتی رات ہی کو خواب میں معلوم ہوتا تھا اور ڈاک خانہ یا اسٹیشن جا کر خود پارسل چھڑا کر لاتا تھا۔ یہ دن میرے لئے روزِ عید ہوتا تھا، کئی دنوں تک ہر وقت کتاب ہاتھ میں لئے پڑھتا اور المتاب پڑھتا تھا اور دور کعت نماز شکرانہ ادا کرتا تھا۔ اس دور کی ہر کتاب پر نماز پڑھی ہے، بلکہ یہ سلسلہ بہت بعد تک جاری رہا۔ پھر اولین فرصت میں اپنے ذوق کے مطابق اس کی جلد بناتا، بعض اوقات جلد ناپسند ہوتی تو دوبارہ جلد بندی کرتا تھا۔ اس دور کی تمام کتابوں کی جلد سازی میرے ہاتھ کی ہے۔ مصنف کا حال تلاش کر کے لکھتا اور کتاب کے اوپر کاغذ کا غلاف چڑھاتا، آج بھی میری تقریباً تمام کتابوں پر کاغذی غلاف چڑھا ہوا ہے۔ نیز ہر کتاب پر اس کی قیمت اور تاریخ خرید لکھتا۔

چند اہم کتب کی خریداری مع قیمت و سن خریداری:— ذیل میں اس زمانہ کی غیر درسی عربی کی کتابوں کی فہرست مع قیمت و تاریخ کے درج ہے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ کس طرح سال بہ سال علمی ترقی اور ہنی تبدیلی ہوتی رہی اور اس زمانہ میں ان کتابوں کی قیمت کیا تھی۔ اور اب کیا ہوئی ہے۔

(۱) مختار الصحاح رازی قیمت ایک روپیہ، شعبان ۱۳۵۳ھ میں آئی، یہ میرے کتب خانہ کی مصری مطبوعات میں پہلی کتاب ہے، مولا ناشکر اللہ صاحب مدرسہ کیلئے میزان الاعتدال، تذكرة الموضوعات اور المستظرف وغيرہ ابناء مولوی محمد بن غلام رسول السوری بسمی سے منگوار ہے تھے ان ہی کے ساتھ یہ کتاب بھی آئی تھی، بعد میں کئی طالب علموں نے میرے ذریعہ سے اس کو خریدا۔

(۲) ادب الکاتب ابن قتیبہ قیمت دو روپیہ (۳) کتاب الاضداد فی اللغة ابن بشار انباری، قیمت ایک روپیہ، یہ کتابیں ایک ساتھ رمضان ۱۳۵۴ھ میں عبدالصمد واولادہ تجارت کتب سوت سے آئیں۔

(۴) کتاب المعارف ابن قتیبہ قیمت ڈیڑھ روپیہ، رب جمادی ۱۳۵۵ھ میں آئی۔

(۵) دیوان نابغہ ذیبیانی، قیمت دس آنے۔ (۶) دیوان زہیر بن ابی سلمی مع شرح اعلم شتری قیمت پانچ آنے (۷) اعلم الحفاظ فی علم الاشتقاء، نواب صدیق حسن خاں قیمت چھ آنے، (۸، ۹) دیوان الحسناء مع دیوان حاتم الطائی قیمت غالباً آٹھ آنے، یہ چاروں کتاب ایک ساتھ شوال ۱۳۵۲ھ میں المکتبۃ العربیۃ الکبری بسمی سے آئی تھیں۔

(۱۰) مقدمہ ابن خلدون، قیمت ایک روپیہ چار آنے، ۱۳۵۲ھ کے سالانہ امتحان میں مقامات حریری میں اول آنے پر مولانا مفتی محمد یوسف صاحبؒ نے ایک روپیہ انعام دیا تھا، چار آنے خود لگا کر یہ کتاب منگائی۔

(۱۱) دلائل الاعجاز عبد القاهر جرجانی قیمت غالباً دو روپیہ۔ (۱۲) العمدة فی الشعر ونقدہ ابن رشیق قیروانی دو جلدوں میں، قیمت دو روپیہ، یہ دونوں کتب خانہ رشیدیہ دہلی سے صفر ۱۳۵۵ھ میں آئیں۔ (۱۳) الاخبار الطوال ابوحنیفہ دینوری، قیمت ڈیڑھ روپیے، (۱۴) طبقات الام ابن صاعد اندلی قیمت ایک روپیہ پانچ آنے، یہ دونوں کتابیں المکتبۃ العربیۃ الکبری بسمی سے ۱۶ ربیع الثانی ۱۳۵۵ھ میں آئیں۔

(۱۵) الاصابة فی تمیز الصحابة، ابن حجر عسقلانی آٹھ جلدوں میں قیمت دس روپیے کتب خانہ رشیدیہ دہلی سے رمضان ۱۳۵۵ھ میں آئی، اصل قیمت بارہ روپیہ تھی، فی روپیہ دو آنے کمیشن کے بعد ساڑھے دس روپیے ہوئی تھی مگر آٹھوں جلد کے آخری سادہ صفحات کا کونا غالب تھا اس لئے آٹھ آنے کی مزید کمی ہو گئی تھی۔ آٹھوں جلدوں کی الگ الگ جلد بندی کی تھی پھر توڑ کر دو جلدوں کی ایک جلد بنائی (۱۶) فتوح البلدان ابو الحسن بلاذری قیمت ایک روپیہ چودہ آنے شوال ۱۳۵۵ھ میں آئی تھی۔ (۱۷) کتاب الغیر ست ابن ندیم قیمت تین روپیہ، ۲۶ ربیع ۱۳۵۵ھ کو ایک دوست کے ذریعہ ابناء مولوی محمد بن غلام رسول السوری بسمی سے منگائی (۱۸) شرح نخبۃ الفکر ابن حجر عسقلانی قیمت ساڑھے تین آنے (زاد المعاف فی ہدی خیر العباد ابن

قیمت: چار جلدیں میں قیمت چار روپیہ (۲۰) دیوان الحماسہ ابو تمام طائی مع مختصر شرح تبریزی دو جلدیں میں قیمت دو روپیہ، یہ تینوں کتابیں کتب خانہ رشیدیہ دہلی سے رجب ۱۳۵۴ھ میں آئیں۔ (۲۱) اکامل فی اللعنة والادب ببرد دو جلدیں میں قیمت ساڑھے تین روپیہ، (۲۲) فقة اللغة مع سر العربیة شعاعی، قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے، یہ دونوں کتابیں رمضان ۱۳۵۴ھ میں کتب خانہ رشیدیہ دہلی سے آئیں۔ (۲۳) مشکوٰۃ المصانع (اصح المطابع دہلی) قیمت دو روپیہ نو آنے کے ارشوال ۱۳۵۴ھ میں آئی، (۲۴) دیوان مجنوں قیمت تین آنے، ذوالحجہ ۱۳۵۴ھ میں آئی۔ (۲۵) تفسیر ابن کثیر چار جلدیں میں قیمت دس روپیہ، ۱۲ ربع الاول ۱۳۵۴ھ میں آئی، (۲۶) صحیح البخاری مع حاشیہ السندی دو جلدیں میں قیمت ایک روپیہ چودہ آنے، ارجب ۱۳۵۴ھ میں آئی بعد میں کئی طلبہ نے میرے ذریعہ سے منگائی (۲۷) احیاء العلوم غزالی چار جلدیں میں حاشیہ پر کتاب المغزی عن الاسفار فی تخریج ما فی الاحیاء من الاخبار عراقي، کتاب تعریف الاحیاء بفضائل الاحیاء عبد القادر علوی کتاب الاملاء عن اشکالات الاحیاء غزالی اور عوارف المعارف سہروردی قیمت چار روپیہ ۱۶ ارشوال ۱۳۵۴ھ میں آئی (۲۸) تذکرة الحفاظ ذہبی چار جلدیں میں قیمت ساڑھے دس روپیہ، ۲۳ ذی الحجه ۱۳۵۴ھ کو آئی (۲۹) کتاب الخراج امام قاضی ابو یوسف قیمت ڈھائی روپیہ، ۲۳ ربيع الآخر ۱۳۵۴ھ کو آئی (۳۰) تفسیر جلالین مع اسباب النزول دو جلدیں میں قیمت ایک روپیہ، (۳۱) الاماۃ والسياسة ابن قتیبیہ قیمت ڈیڑھ روپیہ ان دونوں کتابوں کی تاریخ خریداری نہیں لکھی تھی، یہ سب کتابیں کتب خانہ رشیدیہ دہلی سے آئیں (۲) سنن ابن ماجہ (۳۲) سنن نسائی (۳۳) سنن ترمذی، یہ تینوں کتابیں پرانی تھیں، سنتے دام پر ۱۳۶۹ھ میں ایک طالب علم سے مراد آباد میں خریدیں، یہ سب ۳۳ کتابیں ۵۸ جلدیں میں ہیں، جن کی مجموعی قیمت اس زمانہ میں ساٹھ ستر روپیہ کے درمیان تھی جو آج کل کئی ہزار کے برابر ہے۔ یہ کتابیں نہایت عسرت اور تنگستی کی حالت میں کوڑی

کوڑی جمع کر کے خریدیں۔

اردو کی تعلیم ہی کے زمانے میں مجھے نادر سکھ جات اور دوسری پرانی چیزوں کو جمع کرنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا، اس زمانہ میں قلمی اور نادر کتابوں کی تلاش جستجو بھی رہا کرتی تھی، خاندان میں بڑے بوڑھوں سے سنتا تھا کہ ہمارے یہاں قلمی کتابیں بہت زیادہ تھیں۔ دو بورے کتابیں ایک نویں میں ڈال دی گئیں، پر دادا شیخ محمد رجب کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن شریف بہت بعد تک محفوظ تھا، مگر میری پیدائش اور ہوش سنبھالنے سے پہلے وہ بھی ضائع ہو گیا، البتہ ایک قدیم مطبوعہ مجموعہ خطب ملا ہے، جس کے آخر میں ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا جمعہ کا خطبہ ثانیہ اور عیدین کا خطبہ موجود ہے جس کے آخر میں ۱۴۹۷ھ درج ہے، عربی رسم الخط میں نہایت پاکیزہ اور خوش خط لکھا ہے، میرے پاس اب بھی محفوظ ہے۔ خاندان میں نیابت قضاۓ کے آخری دور کی چند سنديں تھیں جن کی پشت پر میں نے کاغذ چسپاں کر کے ان کو محفوظ کر لیا تھا، وہ بھی خاندان کے ناقروں کے ہاتھوں ضائع ہو گئیں، البتہ میں نے اسی زمانہ میں ان سب کو نقل کر لیا تھا اور اپنی کتاب ”ماڑو معارف“ میں چھاپ دیا ہے۔ صرف ایک سند محفوظ ہے۔ اسی زمانہ میں کہیں سے قصہ شاہ جہنم اور اللہ خدا تعالیٰ کے قلمی نسخہ مل گئے تھے جواب تک محفوظ ہیں۔

محلمہ کے ایک بزرگ حاجی ولی اللہ تاجر کتب بازار ایک دن قدم رسول کے چبوترہ پر اپنی دکان لگاتے تھے میں شام کو ان کی دکان پر جاتا اور کتابیں پڑھتا تھا، انہوں نے میرے شوق کو دیکھ کر ”تفسیر مرتضوی“ کا ایک نہایت نادر و نایاب قلمی نسخہ دیا، یہ شیخ غلام مرتضی بن شیخ تیمور حنفی الہ آبادی مخالف بہ جنوب کی چند سورتوں کی منظوم تفسیر ہے جو ۱۹۸۱ھ میں لکھی گئی ہے۔ اردو زبان میں غالباً ہمیں تفسیر ہے جو منظوم ہے، شاید ایک آدھ نسخہ ہندوستان میں اور ہے، میں نے اس کے آخر میں یہ یادداشت لکھی ہے ”ایں نسخہ قدریہ متبرکہ در مبارک پوری کے از تاجر ان کتب کے پیر کہن سال بود، نامش

وغیرہ لکھے ہیں۔

(۳) دیوان امراء القیس، مطبوعہ شرح دیوان امراء القیس سے اسکے اشعار نقل کر کے آخر میں مختار الصحاح اور دوسری کتابوں سے زیادات نقل کے ۲۳۲ صفحات میں ہے، میں نے ابتداء میں پانچ صفحات میں امراء القیس کے حالات لکھے ہیں۔ تاریخ کتابت رمضان ۱۳۵۷ھ ہے۔

(۴) مختصر الجرجانی فی اصول الحدیث علامہ میر سید شریف علی بن محمد بن علی جرجانی کا مختصر سارہ سالہ ۱۶ صفحات میں ہے، تاریخ کتابت بوقت عصر دوشنبہ ۱۳۵۵ھ ہے۔

(۵) دیوان الفرزدق، بیروت کے مطبوعہ دیوان سے نقل کیا، میں نے ابتداء میں فرزدق کا حال لکھا ہے اس کے بعد ۱۲ صفحات ہیں، تاریخ کتابت وقت ضمیح یوم جمعہ ۱۲ / جمادی الثانیہ ۱۳۵۵ھ

(۶) انباء الاذكياء فی حیات الانبیاء امام سیوطی کے مطبوعہ رسالہ سے نقل کیا، صفحات ۱۲ تاریخ کتابت ۷ ربیع الاول ۱۳۵۸ھ

(۷) کتاب الدرات، اصمی کی مختصر سی کتاب ہے، بیروت میں چند رسائل کے ساتھ چھپی تھی، آخر میں ۸۳ دارات کے نام ہیں، اس کے بعد حریری کے دور سالہ سینیہ اور شینیہ ہیں، صفحات ۱۲ تاریخ کتابت ۲۰ صفر ۱۳۵۵ھ

(۸) عرض و قوانی بیروت میں چھپا ہوا ایک رسالہ نقل کر کے ماموں مرحوم مولانا محمد یحییٰ صاحب سے تین مجلس میں پڑھا۔

(۹) الاستیعاب سے سیرت بنوی کا پورا حصہ کتابی شکل میں نقل کیا۔

(۱۰) فقہ اللغوہ کی پہنچ اور دوسری کتابوں سے لغوی و ادبی فوائد، عربی ادب کی تاریخ، منتخب اشعار والغاز، علماء اسلام کے فصوص و احوال وغیرہ ایک کتاب نماز چھوٹی سی تقطیع کی پیاض میں مع کئے جواب تک موجود ہے۔ عربی کتابوں سے اخذ

حاجی ولی اللہ بود و در دیار عرب یک زمانہ فروکش ماندہ بود مر ابطور ہدیہ در ۱۳۵۷ھ عنایت فرمود، و بعد چند سال انتقال کرد، نزد من ایک اول منظوم تفسیر است کہ بہانہ اردو مسلسل گفتہ شد۔ واللہ اعلم با الصواب۔ و انا العبد الافقر القاضی عبد الحفیظ اطہر مبارک پوری، غفرله و لمعنیہ اجمعین۔

قصبہ کے ایک دوسرے تاجر کتب سے ایک چھوٹی سی نہایت ہی حسین و حمیل قلمی کتاب چھ آنے میں خریدی، جس میں اسماء شہداء بر اور اسماء شہداء احمد بیج خوشنما اور جاذب نظر عربی خط میں لکھے ہوئے ہیں۔ جدول اور بین السطور مطلقاً ہے، اس کے ایک کونے پر میں نے یہ یادداشت درج کی ہے۔ ملکت هذا الكتاب المبارك بالبیع الشرعی یوم الخمیس ۲۹ / شوال ۱۳۵۱ھ و انا القاضی ابوالمعالی عبد الحفیظ المبارک فوری، بخواہ اندر متعلق ایں نہیں مبارکہ مرا بشارت شدہ بود۔

جو کتابیں میرے ذوق کی ہوتیں اور ان کے حصول کی کوئی صورت نہ ہوتی ان کو نقل کر لیتا تھا، اس کے لئے بڑا اہتمام کرتا تھا، موٹے کاغذ پر دھاگے سے مسطر بنا تا اپنے اپنے قلم مہیا کرتا اور پکی روشنائی تیار کرتا تھا، ہر کتاب کے آخر میں ترقیہ میں دن وقت تاریخ اور سنة لکھتا تھا۔ میرے کتب خانہ میں میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی مندرجہ ذیل کتابیں قابل ذکر ہیں:

(۱) کتاب النکت فی اعجاز القرآن ابو الحسن علی بن عیسیٰ رمانی متوفی ۱۳۸۲ھ یہ کتاب ۳۲ صفحات کی ہے، تاریخ کتابت ۱۲ صفر ۱۳۵۲ھ ہے۔ میں نے اس کے شروع میں مقدمہ اور آخر میں مصنف کے حالات عربی زبان میں لکھے ہیں۔

(۲) کتاب الالفاظ المترادفہ، ابو الحسن علی بن عیسیٰ رمانی، ۱۶ صفحات تاریخ کتابت ۱۲ / جمادی الثانیہ ۱۳۵۲ھ، میں نے اس کے شروع میں عربی میں مقدمہ لکھا ہے جس میں مختلف کتابوں سے مترادف کی تعریف اور اس کے اسباب

واققباس اور جمع و ترتیب کا سلسلہ پورے دور طالب علمی میں جاری رہا اور بلا مبالغہ کی سو صفحات سیاہ کئے۔

الغرض طالب علمی کے دور میں مطبوعات و مخطوطات کا ایک نہایت وقیع اور قابل قدر کتب خانہ جمع ہو گیا تھا جس میں مغربی مغز تھا چھپلے کا نام نہیں تھا۔ میں رات دن ان کتابوں میں گم رہتا تھا۔ ان کو ایک الماری میں نہایت قرینہ سے سجا تا، کیا مجال کی الماری میں کوئی آگے پیچھے یا نیچے اوپر پڑی رہے۔ جلد سازی کے وقت اہتمام کے ساتھ ابتداء میں سادے اور اراق لگاتا جن پر کتاب کے مناسب فوائد و مضامین دوسری کتابوں سے نقل کرتا، کتاب کو داغ و ڈھبہ سے بچاتا رکھنے اٹھانے میں احتیاط سے کام لیتا، میرے ساتھیوں اور دوستوں کو ان ”بیکار“ کتابوں سے کوئی ڈچپی نہیں تھی، اس لئے میری ان ”قیمتی“ کتابوں کے بارے میں کسی سے بخل اور کنجوی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ اور نہ ہی کتابوں کے ضائع ہونے کا ڈر تھا، کتابوں کے ذوق و شوق کی وجہ سے بعد میں میرے پاس امہات کتب کا ایک عظیم الشان ذاتی کتب خانہ بن گیا، جس میں عربی زبان کی نادر و نایاب مطبوعات و مخطوطات کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ اب اس کے رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔

مضمون نگاری اور تصنیف و تالیف: - نانا مرحوم مولانا احمد حسین صاحب کا ذاتی کتب خانہ بہت بڑا تھا جس میں ہر قسم کی عربی، فارسی، اردو مطبوعات و مخطوطات تین بڑی الماریوں میں نہایت قرینہ سے رہتی تھیں، چھٹیوں میں نانا مرحوم ڈھاکہ سے آتے تورات دن کتب بینی، تصنیف و تالیف اور دوازسازی میں مصروف رہا کرتے تھے، چٹائی پر کتابیں پڑی رہتی تھیں جن سے اخذ و اقتباس فرمایا کرتے تھے، میں ان کے علمی انہاک کو دیکھتا تھا مگر قریب جانے کی بہت نہیں پڑتی تھی۔ جب کہیں چلے جاتے تو ان کے کاغذات کو والٹ پلٹ کر دیکھتا اور پھر اسی طرح رکھ دیتا، بعض اوقات ان کو پہنچل جاتا، اور پوچھتے کہ یہاں کون آیا تھا، اور میرا نام سن کر خاموش

ہو جاتے تھے۔

نانابہ سلسلہ مدرسی باہر رہتے تھے اور ماموں بہ سلسلہ تعلیم باہر رہتے تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں رسول پور جاتا تو کتب خانہ میں بیٹھ کر کتابیں نکالتا اور پھر اسی طرح رکھ دیتا، اکثر کتابوں پر نانے کے تعلیقات اور حواشی ہوتے تھے۔ بعض کتابوں کی ابتداء میں کئی کئی صفحات ان کے ہاتھ کے لکھ رہتے تھے اور میں ان کو بہت غور سے دیکھتا تھا، حالانکہ ان کو سمجھنے کی صلاحیت بالکل نہیں تھی، مگر یہیں سے مجھ کو اخذ و اقتباس کا ذوق پیدا ہوا اور اردو کی تعلیم ہی کے زمانے میں اپنی استعداد کے مطابق ان کے کاموں کی نقل کرنے لگا، عربی درجہ میں جانے کے بعد ہی جب کتب بینی اور مطالعہ کا شوق بڑھا تو یہی روشنی کام آئی اور اسی دور میں مضمون نگاری اور تالیف کی طرف رجحان زیادہ ہوا۔

درسہ احیاء العلوم کے مدرسین وارا کین کو تصنیف و تالیف کا ذوق بالکل نہیں تھا، ایک مرتبہ بزم احباب احمد آباد نے ائمہ ار بعہ کے سوانح پر مدرسہ کے طلبہ سے مضمون طلب کیا تو بڑی مشکل سے بعض اساتذہ نے اس کو ترتیب دیا۔ اس کے بعد احساس ہوا کہ طلبہ میں تحریر کا ذوق پیدا کرنا چاہئے اور اس کے لئے جمعیۃ الطلبة کا قیام ہوا، مختلف علوم و فنون خصوصاً تاریخ و ادب کی مستند کتابیں خریدی گئیں، علمی، ادبی، اور مذہبی اخبارات و رسائل منگائے گئے اور الاحیاء کے نام سے ماہوار قلمی رسالہ جاری کیا گیا جو چند نمبروں سے آگے نہ بڑھ سکا۔ ان کتب و رسائل سے میں نے بہت زیادہ استفادہ کیا، خصوصاً دارا مصنفین، ندوۃ امصنفین، جامعہ ملیہ اور دارالترابیج کی کتابوں اور معارف، برہان، جامعہ وغیرہ رسائل سے مجھے بہت رہنمائی ملی۔ ان کتابوں میں عام طور سے حوالے ہوتے تھے۔ ان کو دیکھ کر عربی کے اصل مأخذوں سے براہ راست استفادہ کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ اس زمانہ میں تاریخ و طبقات کی متعدد کتابیں اسی داعیہ پر خریدیں۔

شاعری کا مشغله جاری رکھتا تھا، مضمون نویسی کے بارے میں صرف میرا ذوق رہنما ہوا اور خود اعتمادی نے ہمت افزائی کی، معلومات کی فراہمی اور اسلوب نگارش وغیرہ میں کسی کی رہنمائی حاصل نہ ہو سکی، اس لئے ایک مضمون کئی بار لکھتا اور پھاڑ کر پھینک دیتا، اور کافی محنت کے بعد میرے ذوق کے مطابق ہوتا، ساتھ ہی خیال ہوتا کہ یہ مضمون قبل اشاعت ہوا یا نہیں، مگر جب کسی حکت و اضافہ اور بلا تغیر و تبدل کے چھپ جاتا تو حوصلہ میں نئی جان آ جاتی، اور فوراً دوسرا مضمون تیار کرنے میں لگ جاتا۔

مولانا سید محمد میاں اور رسالہ ”قاائد“: اسی دوران کے ۱۳۵۴ھ میں مولانا سید محمد میاں مرحوم مدرسہ شاہی مراد آباد سے جمعیۃ الطلبہ کے سالانہ جلسہ کی صدارت کیلئے تشریف لائے، مولانا نے اس زمانہ میں شاہی مدرسہ مراد آباد سے رسالہ ”قاائد“ جاری کیا تھا۔ میرے دوست مولوی عثمان صاحب نے مولانا کو میرے پچھے اشعار سنائے تو مولانا نے از راہ شفقت ان کو شائع کر دیا، اور مضمون لکھنے کی تاکید فرمائی اس کے بعد مولانا مرحوم مستقل طور سے قائد میں میرے مضامین اور اشعار چھاپنے لگے اور میں اس کے مستقل مضمون نگاروں میں شامل ہو گیا، بس کیا تھا؟ اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں، میری دلی مراد برآئی اور مضمون نگاری کی دھن سور ہو گئی، یکے بعد دیگرے مضامین تیار کرتا، کتابیں فراہم کرتا، مضمون میں کاٹ چھانٹ کرتا، عبارت درست کرتا اور مضمون لکھ کر پہلی فرصت میں رو انہ کر دیتا تھا۔ مولانا مرحوم کی نگاہ شفقت میں یہ مضامین بہت بلند پایہ ہوتے۔ اپنے خطوط میں خوب خوب ہمت افزائی فرماتے، ایک مرتبہ مجھ کو ”مولانا قاضی عبدالحافظ صاحب اطہر مبارک پوری فاضل دیوبند“ کے خطاب سے نواز کر لکھا کہ آپ کے مضامین اعلیٰ درجہ کے اور معیاری ہوتے ہیں، زیادہ تعریف اس لئے نہیں کی جاتی ہے کہ کہیں آپ رسالہ قائد کو ان کے لئے ناہل نہ سمجھنے لگیں۔ میں نے نہایت ادب و احترام سے جواب دیا کہ طالب علم ہوں، ہدایہ وغیرہ پڑھتا ہوں۔ بعد میں جامعہ قاسمیہ میں جا کر مولانا مرحوم سے شرف تمند حاصل کیا۔

جب لکھنے پڑھنے کی کچھ شد بد ہو گئی تو والدہ مرحومہ کی کتابوں سے خلفاء رابعہ اور ائمہ اربعہ کے مختصر حالات اس وقت کے ذوق کے مطابق ایک چھوٹی سی کاپی میں جمع کئے، اس کو تاریخ سیا اوپر دیزی سرخ کاغذ کا ٹائٹل لگایا، یہ میرے تصنیفی اور تایف ذوق کا نقش اولیں تھا۔ اردو کے دوسرے یا تیسرے درجہ میں گیا تو مشکل الفاظ کے معنی لکھنے کے لئے ایک چھوٹی سی مجلد کا پی بنائی۔ نیز اسی زمانہ میں ایک بہت چھوٹی سی کاپی میں نعتیہ اشعار جمع کئے، اس کی خوبصورت جلد بنائی، بچپن میں کتاب بنانے کا یہی ذوق آگے چل کر کتاب لکھنے کا سبب بنا۔

مضمون نگاری کی ابتداء: عربی شروع کی تو شاعری کے ساتھ مضمون نگاری کا شوق ابھرا، اور اخباروں اور رسالوں میں چھپنے کی ترکیب سوچنے لگا۔ سب سے پہلے میرا نام ایک پہلی کے سلسلہ میں جامعہ ملیدہ، ملی کے رسالہ ”پیام تعلیم“ میں چھپا تو مولانا شکر اللہ صاحب نے بلا کر مجھے داد دی۔ اس کے بعد اخبار الجمیعۃ و ملی میں واردہ کی خطرناک تعلیمی اسکیم کے عنوان سے ایک مختصر سا مضمون چھپا، پھر ۱۳۵۳ھ میں رسالہ ”مومن“ بدایوں میں ایک صفحہ کا مضمون مساوات کے عنوان سے شائع ہوا، کہنا چاہیے کہ میرا سب سے پہلا مضمون یہی ہے جو اس زمانہ میں شائع ہوا، پھر اسی رسالہ میں دوسرा مضمون ”رہادین باقی نہ اسلام باقی“ کے عنوان سے دو صفحے کا چھپا، اسی زمانہ میں ہفتہ وار العدل گوجرانوالہ پنجاب میں ایک مضمون بلا کشان اسلام کے عنوان سے شائع ہوا۔ اڈیٹر نے اس کو مقالہ افتتاحیہ کی جگہ چھاپا تھا، ان مضامین کی اشاعت کے بعد مضمون نگاری کا سودا سر میں یوں سمایا کہ اس کے لئے با قاعدہ انتظام و اہتمام کیا، بازار سے ایک میز ایک روپیہ دو آنہ کی اور ایک اسٹول چھ آنے کا خریدا، ایک خوبصورت بڑا سا قلمدان بنوایا، اس پر سیاہ پاش کر کے پشت پر سفید حروف میں بخط عربی ”علم بالقلم“ لکھا، سرخ اور سیاہ روشنائی بنائی، قسم قسم کے قلم خریدے، اور اسی میز پر کاغذات اور قلمدان وغیرہ نہایت سیقیقہ سے رکھ کر کتب بینی، مضمون نویسی اور

جب تک رسالہ قائد جاری رہا، میرے مضامین اس میں شائع ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ میں نے مولانا مرحوم سے کتاب الخراج امام ابو یوسف کے مطالعہ کی خواہش ظاہر کی تو مولانا نے بڑی محبت و شفقت کا اظہار فرماتے ہوئے کتاب عطا فرمائی، میں نے اس کے اوپر عمدہ کاغذ لگا کر کتاب اور مصنف کا نام خوش خط اور جلی حروف میں لکھا، جب کتاب واپس کی تو مولانا نے ہاتھ میں لیتے ہیں فرمایا کہ میں نے سمجھا کہ آپ نے یہ کتاب لکھی ہے، میں نے عرض کیا کہ حضرت! دعا فرمائیں۔ اور جب میری کتاب رجال السند والہند چھپی اور میں نے مولانا مرحوم کی خدمت میں چھپی تو طالب علمی کے اس واقعہ کی طرف اشارہ کر کے لکھا کہ یہ آپ کی دعا اور توجہ کی برکت ہے کہ میں اس لائق ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ مولانا مرحوم اس سلسلے میں میرے اولین محسن اور مرتبی ہیں اگر ان کی توجہ نہ ہوتی اور رسالہ قائد میں مضامین شائع نہ ہوتے تو شاید میں تصنیف و تالیف کے لائق نہ ہوتا اور میری جولانی طبع نا مساعد حالات کی نذر ہو گئی ہوتی۔

مضامین و اشعار کے شائع ہونے کے بعد شاعری اور مضمون نگاری کے ساتھ تصنیف و تالیف اور تلاش و تحقیق کا ذوق جرأت و ہمت دکھانے لگا، چنانچہ میں نے زمانہ طالب علمی میں پانچ کتابیں لکھیں، دو عربی میں اور تین اردو میں۔

(۱) سب سے پہلے شوال ۱۳۵۵ھ میں حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کے مشہور اور متبرک قصیدہ بانت سعادی کی شرح عربی میں لکھی اور اس کا نام خیر الزاد فی شرح بانت سعاد رکھا جو بڑے سائز کے بیش صفحات میں ہے،۔ ابتداء میں تین صفحے کا عربی میں مقدمہ ہے جس میں حضرت کعب بن زہیر کے حالات، قصیدہ کا واقعہ اور اس کے اشعار کی تقطیع وغیرہ ہے، یہ کتاب اب تک میرے پاس ہے اور میں اس کو اپنی تصنیفی کوشش کا نقش اولیں سمجھتا ہوں۔

(۲) وفیات الاعیان، تذکرۃ الحفاظ، فہرست ابن ندیم سے علماء سلف اور ائمہ علم و فن کے واقعات مختلف عنوانات پر جمع کر کے عربی میں ایک کتاب ”مرآۃ العلم“

کے نام سے مرتب کی جو متوسط سائز کے ۵۲ صفحات کی ہے۔ آخر کے ۶ صفحات میں علم و علماء سے متعلق اشعار ہیں، یہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے۔

(۳) ائمہ اربعہ کے عنوان سے میں رسالہ ”قائد“ میں ایک سلسلہ مضامین شروع کیا تھا اور وفیات الاعیان، تذکرۃ الحفاظ، تہذیب التہذیب، فہرست ابن ندیم وغیرہ سے اسی وقت کے معیار کے مطابق تحقیقی کام کی ابتداء کی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تہذیب التہذیب جلد دهم مولانا عبدالرحمٰن محدث مبارکبوری مرحوم کے کتب خانہ سے لے کر اس سے استفادہ کیا۔ یہ سلسلہ امام مالک پر بعض وجوہ سے ختم ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد اس کو کتابی شکل میں مرتب کیا جس میں ائمہ اربعہ کے مختصر حالات تھے، قیام لاہور کے زمانہ میں مرکز تنظیم اہل سنت نے شائع کرنے کیلئے کتابت کرائی، اسی دوران ۱۹۲۷ء میں ملک تقسیم ہوا، میں وطن میں تھا کاپی تصحیح کے لئے آئی۔ میں نے تصحیح کر کے روانہ کر دی اس کے بعد پتہ نہ چلا، اس کا شانی میرے پاس تھا۔ ۱۳۶۸ھ میں بھی گیا تو سلطان کمپنی بھنڈی بازار نے شائع کرنے کا وعدہ کیا، میں نے دوسرا مسودہ دے دیا، مگر چند دنوں کے بعد اس کا مالک مشرقی پاکستان چلا گیا اور آج تک اس کا پتہ نہ چلا۔ تقریباً سو صفحات کی مختصر ہونے کے باوجود بہت جامع تھی۔

(۴) الاستیعاب، الاصحاب اور اسد الغابہ وغیرہ سے حضرات صحابیات رضی اللہ عنہم کے دل آؤیز اور سبق آموز واقعات الگ عنوان سے جمع کئے اور ”الصالحات“ کے نام سے کتاب مرتب کی، اور قیام لاہور کے زمانہ میں ملک دین محمد اینڈ سنز تاجران کتب کشمیری بازار لاہور کو چھاپنے کے لئے دی اس کا کتاب کا بھی پتہ نہ چلا اور نہ ہی میرے پاس اس کا مسودہ ہے۔

(۵) ان ہی ایام میں اصحاب صفة کے نام سے ایک منظوم کتاب لکھی جس میں تقریباً سو ادوا شعار تھے، انداز نہایت والہانہ اور عقیدت مندانہ تھا اس میں حضرات اصحاب صفة رضی اللہ عنہم کیا سماء واحوال شاہنامہ اسلام کے طرز پر جمع کئے تھے، مولانا

سید فخر الدین احمد صاحب نے اسے دیکھ کر بہت پسند فرمایا اور دو ایک جگہ اصلاح دی تھی اور مولانا سید محمد میاں صاحب نے اسے مزید تصحیح کے لئے مولانا اعزاز علی صاحب کے پاس بھیج دیا، اور ان سے اصلاح کے بعد آگئی۔ وطن واپس آیا تو تو اسی سال (۱۳۵۹ھ) شباب کمپنی بمبئی (ابناء مولوی محمد بن غلام رسول سورتی) کے لئے بعض کتابوں کا ترجمہ کیا اور رسالہ "اصحاب صفة" اسی کمپنی کو دیا، مگر اس کی بھی اشاعت نہ ہو سکی، میرے پاس کی نقل بھی نہیں ہے، اسکا مجھے بے حد افسوس ہے خاصے کی چیز تھی۔

مضمون نگاری، شاعری کے ابتدائی نمونے: جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں قلم پکڑنے اور کچھ نہ کچھ لکھنے کا شعور ارادہ تعلیم کے زمانہ ہی سے پیدا ہو گیا تھا، عربی شروع کی تو اس کا شوق زیادہ ہو گیا اسی زمانہ میں رسالہ "مؤمن" بدایوں کے اڈیٹر مولوی محمود الحسن صاحب تو سیع اشاعت کے لئے مبارک پور آئے، میں ان سے ملتا رہا، انہوں نے میرے شوق کو دیکھ کر کہا کہ تم مضمون لکھوں میں شائع کروں گا، ان کی شہ پا کر میں نے دو مضمون جلدی میں لکھ کر ان کو بھیج دیئے۔ ایک کا عنوان "مساوات" تھا جو ۱۳۵۳ھ دسمبر ۱۹۳۲ء کے رسالہ مؤمن میں چھپا، یہ "جناب مولوی عبدالحفیظ صاحب اعظمی متعلم مدرسہ احياء العلوم مبارک پور" کا پہلا مضمون تھا، ملاحظہ ہو:

بنی نوع انسان میں مساوات و یکسانیت کا حد اعتدال پر قائم رکھنا اتنا ضروری اور لازمی امر ہے کہ جس کے بغیر نہ کسی سلطنت کا نظام اچھی طرح قائم رہ سکتا ہے اور نہ دنیا کی کوئی جماعت فروغ پاسکتی ہے، جو مذہب یا قانون مساوات و یکسانیت سے خالی ہے سمجھ لو کہ وہ بالکل ناقص ہے، اسی طرح جو جماعت یا سوسائٹی اپنے افراد میں مساوات و یکسانیت بدربجا تم قائم و برقرار رہ سکتی ہو یقین کرو کہ وہ آج نہیں تو کل دنیا سے فنا ہو جائے گی۔ اس طرح ہر نظام اور ہر سوسائٹی کی روح روای حقیقت میں مساوات اور صرف مساوات ہے،

آج کل دنیا کی کوئی قوم اور مذہب ایسا نہیں جو مساوات کا دعویدار نہ بنتا ہو۔ لیکن جب ایک انصاف پسند انسان صحیح طریقے پر اس کی جانچ کرنے بیٹھتا ہے تو اسلام کے سواد دنیا کا کوئی مذہب اس امتحان میں پورا نہیں اترتا۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اسلام نے اس دور میں دنیا کے اندر مساوات کی بنیاد ڈالی جب کہ سارے عالم پر خود نمائی اور خود پسندی کا بھوت سوار تھا۔ کہا جاتا ہے اسلام دنیا سے بت پرستی مٹانے آیا تھا بیشک اس نے ظاہری بتوں کی پرستش کو بھی دنیا سے مٹایا اور غرور و پندرار کے بتوں کو بھی سارے جہاں سے نیست و نابود کیا، عرب جہاں پھر کے خود تراشیدہ بتوں کی پرستش میں بنتلا تھا وہاں اس میں خود ساختہ خاندانی بت اور نسلی شرافت کی دیویاں بھی بکثرت پوچھی جاتی تھیں۔ اور اکثر غریب اور کمزور جماعتوں کے حقوق نہایت بے دردی کے ساتھ پامال کر دیئے جاتے تھے۔ اسلام نے آکر اہل عرب سے اس لعنت کو دور کیا، غریبوں کو نواز اور غلاموں کی دل جوئی کی، جس کی برکت سے اہل عرب میں ایک اجتماعی طاقت پیدا ہوئی اور پھر دیکھتے دیکھتے آن واحد میں سارے جہاں پر چھا گئے اور تھوڑی ہی مدت میں اسلام ایک عالمگیر مذہب بن گیا۔ فروغ اسلام کے متعلق یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ ذراغور سے کام لیں تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ مسلمانوں کے اس قابل رشک فروغ میں صرف ایک باہمی مساوات و یکسانیت کا راز پہنچا تھا جس کو اسلام نے کبھی اور کسی حالت میں نظر انداز کر دیا روا نہ سمجھا اور اب تک بھی تمام اسلامی کتابیں اس یکسانیت و مساوات کی پاک تعلیم سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں اور قانون اسلام کی ساری

دفعات و احکامات میں اس وقت تک پوری پوری مساوات و یکسانیت موجود ہے۔ چنانچہ آپ کو ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ملے گا جس میں پوری پوری مساوات نہ پائی جاتی ہو۔

اردو تعلیم ہی کے زمانے سے شعرو شاعری کا ذوق ابھرنے لگا تھا، اس وقت میری عمر تیرہ چودہ سال کی تھی، مضمون نگاری کی طرح شعرو شاعری میں بھی کسی سے اصلاح یا مشورہ کی باری نہیں آئی اور اپنے ذوق ہی کو رہنمایا پایا، خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھا تو اس میں بھی بہت زیادہ انہاک ہو گیا، دری کتابوں کے ساتھ غیر دری کتابوں کا مطالعہ، مضمون اور شعرو شاعری یہ تمام مشاغل بیک وقت جاری تھے، گھر کے روزمرہ کے کام کا ج مزید برآں تھے۔ آئے دن جلوسوں کے لئے ملی، قومی، سیاسی اور مذہبی نظمیں کہنے لگا۔ ان ہی ایام میں جامع مسجد کی تعمیر کا اجتماعی انداز میں چندہ ہونے لگا اور لوگوں میں بے انتہا جوش تھا۔ اس کے لئے ایک ایک دن میں چار چار پانچ پانچ نظمیں کہتا تھا اس وقت میری شاعری جنون کی حد تک پہنچ گئی، اشعار اپنے تھے۔ بعض اوقات چاروں طرف سے مجمع مجھے گھیر کر کہتا کہ ابھی ایک نظم کہو فلاں صاحب کے یہاں چندہ میں پڑھنی ہے اور میں اسی حالت میں اشعار کہتا جو فوراً پڑھے چراتے تھے اور روپیہ بر سنبھلتا تھا۔ مولانا شکر اللہ صاحب بھرے مجمع میں خوب خوب پہنچ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ مجھے ایک حکیم صاحب کی دوکان پر بھیجا انہوں نے مجھے کوئی مقوی دماغ مجنون دیا، میں اس کو مولانا کے پاس لایا تو کہا کہ تم اس کو صحیح و شام استعمال کرو اس سے دماغی قوت بڑھے گی، میں نے عرض کیا مجھے کسی قسم کی دماغی کمزوری نہیں محسوس ہو رہی ہے یہ کہہ کر فوراً واپس کر دیا۔ اسی زمانہ میں میری بعض غزلیں اور نظمیں چھپی تھیں۔ رسالہ الفرقان بر میں جمادی الثانیہ ۱۴۵ھ میں ”مسلم کی دعا“ کے عنوان سے میری پہلی نظم شائع ہوئی تھی۔

جامع مسجد کے چندہ کے سلسلہ میں بہت سی نظمیں کہی تھیں، ان سب کو ”اذان

کعبہ“ کے نام سے جمع کر لیا ہے۔ ایک نظم کے چند بند ملاحظہ ہوں۔

نظر جب اٹھائی جا رہی ہے

جھلک کعبہ کی پائی جا رہی ہے

نظر میں نور پیدا ہو رہا ہے یہ دل شاد تمنا ہو رہا ہے

زمیں پر عام چرچا ہو رہا ہے فلک پر شور برپا ہو رہا ہے

کوئی مسجد بنائی جا رہی ہے

باناؤ جامع مسجد بناؤ بڑھاؤ دین کی شوکت بڑھاؤ

کماو دولت عقیٰ کماو بلاو روح حاتم کو بلاو

یہاں ہمت دکھائی جا رہی ہے

مسلمان! سن ذرا گوش صفا سے مسلمان! کام لے جود و سخا سے

مسلمان! جوڑ رشتہ مصطفیٰ سے مسلمان! تیری مذہب سے خدا سے

محبت آزمائی جا رہی ہے

تعالیٰ اللہ یہ پر نور مسجد حقیقت میں ہے رشک حور مسجد

ہے نگہ خاص کی منظور مسجد سدا اطہر! رہے محمور مسجد

بہت بہتر بنائی جا رہی ہے

ابن رشیق نے کتاب العمده میں ”باب من رفعه الشعر ومن وضعه“

”کے تحت کئی ایسے شعراء کا حال لکھا ہے جو اپنی شاعری کی وجہ سے ابھرے اور کئی شعراء

گمنام ہو گئے، میری خود رو شاعری نے مجھے آگے بڑھانے میں بہت مدد کی، لاہور کے

اخبار ”زمزم“ اور اخبار ”مسلمان“ (بعد میں کوثر) میں میرے اشعار کثرت سے چھپتے

تھے جس سے میں بھیثیت شاعر مشہور و متعارف ہوا، اور یہی تعارف مرکز اہل سنت

امر تسر اور اخبار زمزم لاہور جانے کا سبب بنا اور یہی بکمی جانے کا سبب بنا، اس طرح

میری شاعری نے مجھے بہت فائدہ دیا مگر اب اس سے میرا تعلق نہیں رہا۔ معلوم نہیں

میں نے اس سے یہ وفائی کی یا اس نے مجھے اچھی راہ پر لگا کر خود کنارہ کشی کر لی۔ زمانہ طالب علمی میں شعرو شاعری عموماً مفید ثابت نہیں ہوتی ہے لیکن اگر سلیقہ اور اعتدال سے ہو تو بہت خوب اور مفید ہے اس سے ذائقی اور فکری جلا پیدا ہوتی ہے۔

عربی ادب کی تعلیم: میں نے دیسی یعنی قدیم طریقہ تعلیم کے ایک مدرسہ میں چار قصباتی اساتذہ سے عربی کی تعلیم حاصل کی جس میں ادب اور عربیت بھی شامل ہے۔ عام طور سے ایسے مدارس میں عربی شعرو و ادب کی قدیم کتابیں قدیم طرز پر پڑھائی جاتی ہیں کیونکہ کتاب و سنت کی زبان یہی قدیم عربی ہے اور مدرسون کا مقصد کتاب و سنت کی تعلیم براہ راست عربی زبان میں ہے اسی طرز تعلیم سے ہندوستان میں عربی کے عظیم مصنفوں پیدا ہوئے ہیں اور ان کی تصانیف حواشی اور شروع زبان و ادب کے اعتبار سے معیاری تسلیم کی جاتی ہیں۔

میرا عربی کا ذوق مقامات حریری، دیوان حمامہ، دیوان متنبی، سبعہ معلقہ کے درس اور لغت و ادب کی کتابوں کے مطالعہ کا نتیجہ ہے۔ ۳۵۵ھ میں قصیدہ بانت سعاد کی عربی شرح لکھی تو اس کا مقدمہ کچھ اس طرح لکھا:

الحمد لله الذي اسبغ علينا من النعم و جعل في لسان العرب
من اللطائف والحكم والصلة والسلام على حبيبه نبينا المكرم
الم Burton إلى كافة الأمم وعلى آله و أصحابه الذين هم مصابيح
الظلم، صلى الله عليه و آله و صحبه وسلم . أما بعد ف يقول العبد
الاحقر القاضي عبد الحفيظ محمد اطهر مباركفوری اني اردت ان
اشرح قصيدة بانت سعاد الذي طارت شهرته في اطراف العالم
والابعاد لکعب بن زہیر بن ابی سلمی رضی الله عنہ و وفقنی الله فی
منتصف شوال المکرم سنۃ خمس و خمسین و ثلاثة بعد الالف
فسخرحته کیف ما قدرت طاویا کشح القیل والقال لثلا یوجب الملال

والاختصار لثلا یکون سبیاً للكلال و سمیته خیر الزاد فی شرح بانت سعاد" و هذا اول جولان براعی فی میدان القرطاس وانا غمر جاهل من مثل هذا الشان فانه ما اغبر مذ نیطت عن التمائیم و نیطت بی العمائیم الا برهة من الزمان وانا معترف بعجز و التمس من السادة الكرام ، ان يصفحوا عن زلاتی واعرضوا من ان ياخذونی عرضة للملامة والمسئول من الله تعالى ان يجعله حالصاً لو جهه الكريم و منه التوفيق والعصمة ومنه الاستعana فی کل امر .

طبعی روحانیات: طالب علمی کا تقریباً پورا دور عسرت اور تنگی میں گذرنا کھانے پینے اور پہننے میں کفایت شعاراتی اور سادگی ہی رہی اس وقت آج کل کی طرح معاش و معيشت کی فروانی و فراخی نہیں تھی۔ عام طور سے لوگ روکھی پھیکی زندگی کے عادی تھے، اس لئے تنگ دستی اور غربت کا احساس نہیں تھا بلکہ سب لوگ اسی زندگی پر راضی و خوش رہا کرتے تھے۔ اس میں بڑی خیر و برکت تھی۔ میں بھی ہر معاملہ میں اپنے ذوق و شوق کے مطابق سامان مہیا کر لیا کرتا تھا اور کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوا۔ سفید گزی گاڑھے کا کرتا پاجامہ عام لباس تھا، شیر وانی بہت کم پہنتا تھا اور پر صدری ہوا کرتی تھی، ٹوپی کشٹی نما اچھے کپڑے کی ہوتی تھی جو تا اس زمانہ کے لحاظ سے قیمتی ہوتا تھا، عطر کی شیشی ہمیشہ جیب میں رکھتا تھا، کپڑے خود ہی دھولیا کرتا تھا، یہی وضع قطع آج بھی باقی ہے، مگر اب احساس ہوتا ہے کہ اتنی سادگی بھی اچھی نہیں ہے بلکہ بعض اوقات مضر، موہم بجل اور باعث تحیر ہو جاتی ہے۔

مدرسہ کے طلبہ جو اکثر قصبه اور اطراف کی بستیوں کے ہوا کرتے تھے عصر کے بعد عیدگاہ پر جمع ہوتے تھے، یہ بہت پر فضا جگہ ہے، شمال میں سامنے سموی کا وسیع و عریض تالاب، عیدگاہ کے پیچے کچھ سجن میں نیم کے درختوں کی قطار، جنوب میں تاحد نظر میدان، اور آس پاس سرسبزی و شادابی عجیب جاذب نظر اور دلکش منظر پیدا کرتی

تحقیقی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حافظ شیرازی کا ”کنار آب رکنا باد، و گل گشت مصلی“، یہیں پڑا گیا ہے۔ اسی زمانہ میں ”برسات کی چاندنی رات“ کے عنوان سے میں نے ایک نظم کہی تھی جس میں یہ شعر بھی تھا۔

دور کچھ یاں سے سمودی کے کنارے آم پر
اک پیپیا دے رہا تھا جال پیا کے نام پر
میں بڑے اہتمام اور نہایت ذوق و شوق سے یہاں کی تفریع میں شریک رہا کرتا تھا۔
اس زمانہ میں یہی تفریع تھی۔

عشاء کے بعد درسی کتابوں کے مطالعہ میں لگ جاتا تھا جو عام طور سے تین چار ہوتی تھیں اور کل دن کے اس باقی کورات میں حل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کے بعد غیر درسی کتابوں کے مطالعہ، مضمون نگاری، اور شاعری میں لگ جاتا تھا۔ اس سے فراغت کے بعد چار پائی پر جاتا تو تو کوئی غیر درسی کتاب ہاتھ میں ہوتی تھی یا شعرو شاعری کا مشغله رہتا تھا۔

علمی و تعلیمی نشاط کے ساتھ بلند حوصلگی، عالی ہمتی اور خود سازی کا احساس ہر معاملہ میں نقطہ عروج پر رہتا تھا۔ بڑوں اور بزرگوں کا واجبی احترام مد نظر رہتا تھا مگر یہجاں عقیدت نہیں تھی، بعض اوقات قصبه کے بڑوں کے یہاں طلبہ و مدرسین کی دعوت ہوا کرتی تھی، میں کسی بہانے سے نجی کران کے لقمہ تر کے مقابلہ میں اپنی نان جویں میں زیادہ لذت پاتا تھا۔

مراد آباد کیا تو ابتداء میں ایک گھر سے کھانا لانا پڑتا تھا۔ ایک آدھ ہفتہ ضمیر پر جر کر کے چھپتے چھپاتے یہ کام کیا، پھر ڈھانی روپیہ ماہور مدرسہ سے وظیفہ لے کر اس سے نجات حاصل کر لی اور ایک معمولی ہوٹل میں چھپیسی وقت کے حساب سے کھانا کھانے لگا، قیام مراد آباد کی مدت میں پچاس سالہ روپیہ گھر کے خرچ ہوئے۔ میری پوری تعلیم پر بہت ہی کم خرچ ہوا ہے۔

آگے چل کر کفایت شعاری، سادگی، خود شناسی اور کم آمیزی نے بہت فائدہ دیا، اسی کی برکت ہے کہ بکمپی جیسے شہر میں مدت دراز تک رہنے کے باوجود میں بکمپی والا بالکل نہیں بن سکا، بڑی بڑی عقیدت مندانہ پیش کش کوشکریہ کے ساتھ واپس کر دیا، تمبلق، چاپلوسی اور خوشامد سے نفرت رہی اور مدرسہ کی فضائیں جوڑ ہن و مزاج بنا تھا وہ اس شہر کی زیگنی اور دولت کی نذر نہ ہوسکا، اور الحمد للہ کہ میں نے اس شہر کے ایک معمولی کمرہ میں بیٹھ کر وہ کام کیا جو بڑی بڑی تخفیا ہوں پر علمی اور تصنیفی و تالیفی اداروں میں کیا جاتا ہے اور اس سے دولت کمائی جاتی ہے۔

میں نے اپنی کسی کتاب پر نہ کسی قسم کا معاوضہ لیا، نہ رائٹسی کی بات کی، اور نہ اس کے لئے کوئی تحریر لکھی، بلکہ علم کی خدمت و اشاعت کے جذبے سے لکھی اور اسی جذبے سے ناشروں کو ان کی طباعت و اشاعت کی اجازت دی۔

قیام مراد آباد کے دوران پہلی مرتبہ دہلی گیا تو ندوۃ امصنفین میں جانا ہوا اور اس کے ناظم مولانا مفتی عقیق الرحمن صاحب عثمانی مرحوم سے ملاقات ہوئی، میرے دوست مولانا محمد عثمان صاحب ساتھ تھے، اس بار بھی انہوں نے مبالغہ آمیز انداز میں میرا تعارف کرایا، مفتی صاحب نے اس وقت مجھ سے فرمایا کہ ”برہان“ کے لئے مضامین لکھا کریں، معا خیال ہوا کہ ندوۃ امصنفین اور اس کے ترجمان ”برہان“ کے معیار پر مضامین کہاں پورے اتر سکتے ہیں؟ مگر اللہ کی شان کہ بعد میں اس ادارہ سے مفتی صاحب مرحوم نے میری آٹھ کتابیں اعلیٰ معیار پر شائع کیں اور اب رسالہ برہان کے اعزازی ادارت کی باری آگئی ہے۔

ایام طالب علمی میں حدیدی حروف کی مصری کتابوں سے بیدشغف تھا، خوب خریدتا تھا اور خوب پڑھتا تھا، سوچتا تھا کہ کیا کبھی میری بھی کوئی کتاب اس طرح چھپ سکتی ہے؟ پھر خیال ہوتا تھا کہ مجھ جیسے بے سہارا اور بے نوا کے لئے یہ خیال خام اضفاف اعلام ہے، مگر یہ تنبا بھی پوری ہوئی اور اب تک میری تین کتابیں بکمپی میں اور

تین کتابیں قاہرہ میں ان، ہی حروف میں چھپ چکی ہیں اور اردو کی دو کتابوں کے عربی ترجمے قاہرہ اور ریاض سے چھپ کر شائع ہو چکے ہیں۔

بچپن میں سنن و نوافل کا بہت اہتمام کرتا تھا، اکثر خواب سچ ہوا کرتے تھے، لوگوں کی صورت دیکھ کر نام بتانے کا شوق تھا اور نوے فیصلی تھیج ہوتا تھا۔ دعا تو یہ سے شغل کبھی نہیں رکھا، مگر اسی زمانہ میں اعمال قرآنی، توعید سلیمانی، نقش سلیمانی، حرز سلیمانی وغیرہ خرید کر پڑھتا تھا، قوت خیالیہ کے کرشمے دکھائی دیتے تھے، اگر اسی راہ پر لگ جاتا تو زہد و تصوف کا رنگ غالب ہوتا، یہی وجہ ہے کہ احسان و تصوف کا ذوق فکری حد تک اب بھی ہے گعملی طور سے اس سے دور ہوں، حقیقی تصوف اور صوفیہ سے عقیدت و محبت ہے اور بزرگان دین اور مشائخ عظام کے تذکرے میں بڑا لطف و سکون پاتا ہوں۔

شعر و شاعری کا ذوق ابھرا تو اتنا غلو ہوا کہ خواب میں اشعار کہنے لگا، اگر یہ صورت باقی رہتی تو اچھا خاصاً شاعر بن گیا ہوتا۔ تعلیم و تدریس کا سلسلہ زمانہ طالب علمی سے جاری تھا اور اسی میں زندگی بسر کرنے کا ارادہ تھا، مدرسون کی فضاصاف ہوتے یہ زندگی بڑی پرسکون اور خیروبر کت کی ہے، اگر مدرسہ والے مجھے قبول کر لیتے تو میں بہترین مدرس ہو گیا ہوتا، اس کے باوجود ہر حال میں کسی نہ کسی طرح یہ سلسلہ جاری رکھا۔ ان سب روحانات پر علمی و تحقیقی ذوق یوں غالب رہا کہ ابتدائی چند سالہ مدرسی کے بعد تقریباً پورا دور صحافت اور اخبارنویسی جیسی سطحی مشغولیت میں گذر آگئیں نے صحافی اور اخبارنویس بننا گوارنہیں کیا بلکہ اس کو صرف ذریعہ معاش بنانا کراور اپنے کو علم تحقیق اور تصنیف و تالیف میں مشغول رکھ کر ”خود کوزہ و خود کوزہ گرو خود گل کوزہ“ کے مانند کام کیا۔



کاروانِ حیات (غیر مطبوعہ خود نوشت سوانح)

از فراغت تعلیم تا قیامِ سمبیت

فراغت کے بعد ملازمت کی تلاش: فراغت کے بعد ملازمت کی تلاش شروع ہوئی، مولانا عبد اللہ سندھی کو دہلی لوکھا کہ آپ قرآن کی تعلیم و تفہیم کا ادارہ جاری کرنے والے ہیں، میں بھی اس میں داخلہ کا امیدوار ہوں، مولانا نے جواب دیا کہ قوم کی بے تو جہی سے اب تک اس کا انتظام نہیں ہو سکا ہے، اگر ادارہ جاری ہو تو آپ کا خیال رکھا جائے گا، بات آئی گئی ہوئی، مولانا شکر اللہ صاحب کے مشورہ سے مولانا محمد منظور نعمانی کو لوکھا کہ ”دفتر الفرقان“ میں جگہ ہو تو مجھے رکھ لیں، انہوں نے ٹیکیگرام کے ذریعے لکھنؤ بلایا، اور جب گیا تو کہا کہ ندوۃ العلماء میں ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، آپ اس میں میری تقریر نوٹ کریں، بیس روپیہ ماہوار ملے گا، یہ سوچ کر کہ ”لکھنؤ میں رہیں گے پر کھائیں گے کیا“، ماہی کے بعد دفتر جمعیۃ علماء صوبہ یوپی میں گیا اور کہا کہ جمعیۃ علماء میں شرعاً شاعت کا شعبہ ہے، اس میں گنجائش ہو تو مجھے موقع دیں۔ مولانا بشیر احمد بھٹہ صدر تھے، انہوں نے کہا کہ فی الحال یہ شعبہ جاری نہیں ہے، پھر انہوں نے جمعیۃ علماء اور میرے مفاد میں کہا کہ آپ جمعیۃ کے لئے سفارت قبول کر لیں، چندہ کی رقم سے آپ کی تختواہ اور جمعیۃ علماء کی آمد فی دونوں کا کام چلے گا، اس پیشکش کو بھی قبول نہ کر سکا، لکھنؤ سے ناکام واپس آیا، البتہ نخاس سے ڈرپرگی کتاب ”معرکہ سائنس و مذهب“، مترجمہ مولانا ظفر علی خاں غالباً تین روپیہ میں خریدی، مکتبہ الفرقان سے نزہہ الخواطر جلد اول خریدی، یہ سفر میں نے دس روپیہ قرض لیکر کیا تھا، اس وقت ریل کا کرایہ دو روپیہ ۱۲ آنے تھا، اس درمیان میں برمائے جیل افسر آئے، انکو ایک دینی عالم کی ضرورت تھی، مولانا حبیب الرحمن صاحب عظمی کے

مشورہ سے طے پایا کہ میں برما جاؤں، ہر دو سال کے بعد واپسی ہوگی۔ تینواہ وغیرہ گورنمنٹ دے گی، میں نے ان کی ایک دن دعوت بھی کی تھی، مگر واپسی کے بعد وہاں سے کوئی خط نہیں آیا۔

احیاء العلوم کی مدرسی: - جب ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو مولانا شکر اللہ صاحب[ؒ] نے مدرسہ کے چندہ کے لئے سستی بھیجا، اور میں وہاں کے ایک طالب علم مجتہدی مرحوم کے گاؤں گیا۔ واپسی پر مولانا نے کہا کہ مدرسہ احیاء العلوم میں تم ایک سال حسینہ اللہ پڑھاؤ تو تم کو استحقاق ہو جائے گا، اور عربی درجہ میں لے لئے جاؤ گے، مرتا کیا نہ کرتا، والد صاحب سے مشورہ کے بعد مجبوراً حسینہ اللہ مدرس بن گیا، شوال ۱۳۵۹ھ میں۔ ظاہر ہے کہ استحقاق کی خاطر حسینہ اللہ پڑھانا دوسرے امیدواروں کے حق میں مضر تھا، اس لئے حسینہ اللہ کا جملہ مذاق اور طعن و تشنیع کے طور پر استعمال ہونے لگا، کسی طرح سال پورا ہونے کے بعد شوال ۱۳۶۰ھ میں باخواہ مدرسی کی باری آئی، تو مولانا نے بارہ روپیہ میری تاخواہ تجویز کی، میں نے عاجزانہ جرأۃ کر کے انکار کر دیا، اور کہا کہ یہ جگہ ۱۵ روپیہ کی ہے، چنانچہ یہی رہی، اور ان کے وصال سے پہلے یا بعد میں تین روپیہ کا اضافہ ہوا، اور اٹھارہ روپیہ تاخواہ ہو گئی۔

مولانا شکر اللہ صاحب کا حسن انتظام: - آج کی طرح اس زمانہ میں مدرسوں میں روپیوں کی فراوانی اور بہتات نہیں تھی، مہینہ ختم ہونے پر ناظم کو مدرسین کی تاخواہ کا انتظام کرنا پڑتا تھا، اور بعض اوقات بڑی مشکل پیش آتی تھی، مدرسہ احیاء العلوم میں سب سے اوپرے مدرس کی تاخواہ میں روپیہ تھی، اس حساب سے بارہ یا پندرہ روپیہ بالکل مناسب تھی، پھر مولانا مرحوم مدرسہ کے انتظامی امور میں بے حد محنت تھے، کیا مجال تھی کہ ایک پیسہ بھی بے جا خرچ ہو، پائی پائی کا حساب رکھتے تھے، البتہ مدرسہ کے لئے زمین اور عمارت کے بارے میں دوراندیشی سے کام لے کر روپیہ خرچ کرنے میں فراخ دل تھے، ایک مرتبہ حضرت مولانا فخر الدین صاحب علیہ الرحمۃ جمعیۃ

الطلبہ کے جلسہ کی صدارت کے لئے تشریف لائے تو اہتمام کی بلند و بالا شاندار عمارت دیکھ کر فرمایا کہ ”جب مدرسہ کی عمارت اتنی شاندار ہوگی تو مدرسین کی تاخواہ کم ہوگی ہی۔“ مولانا شکر اللہ صاحب کی وفات:- شوال ۱۳۵۹ھ سے محرم ۱۴۲۷ھ تک ساڑھے چار سال تک احیاء العلوم میں مدرسی کی، اسی دوران مولانا شکر اللہ صاحب نے کئی ماہ کی بیماری کے بعد دو شنبہ ۵ ربیع الاول ۱۳۶۱ھ کو وصال فرمایا، اس وقت جماعت اور مدرسہ میں انتشار کی کیفیت پیدا ہوئی، جس میں شدت آتی گئی۔

زیر تدریس کتابیں: - میں نے احیاء العلوم کی مدرسی کے زمانہ میں یہ کتابیں پڑھائیں ہیں، علم الصیغہ، نور الایضاح، قدوری، شرح نقایہ کبریٰ، ہدیہ سعیدیہ، ملاحسن، مقامات حریری، سبعہ معلقة، مقدمہ ابن خلدون، (علوم کے متعلق حصہ) اور دیگر متosteات۔ ہدیہ سعیدیہ اور مقامات ہرسال میرے ذمہ ہوتی تھی۔ اور میں ان دونوں کے پڑھانے میں ممتاز تھا، کئی طلبہ مقامات کی کاپی لکھتے تھے، بعض کے پاس اب تک محفوظ ہے، طلبہ اور استاذ کی عمر میں دو چار سال کا فرق تھا، اس لئے سب میں ذہنی ہم آہنگی تھی پڑھنے والوں اور پڑھانے والے دونوں میں نشاط رہتا تھا، چھوٹے بڑے بھائی معلوم ہوتے تھے، ان میں کئی وہ طلبہ بھی تھے جن کو میں اپنے زمانہ طالب علمی میں بھی پڑھاتا تھا، اس زمانہ میں قصہ کے اطراف و جواب کے طلبہ زیادہ ہوتے تھے، احیاء العلوم مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، اس لئے طلبہ اور استاذ میں بڑی ہم آہنگی اور مناسبت رہتی تھی، گویا عزیزانہ تعلقات ہوتے تھے، اس لئے پڑھنے پڑھانے میں بڑا نشاط تھا، اس کے ساتھ ادب احترام میں فرق نہیں آتا تھا۔

بعض اوقات اثنائے درس میں کسی جگہ رک جاتا تو فوراً مولانا مفتی یلیمن صاحب[ؒ] کے پاس جا کر عبارت کا مطلب معلوم کرتا تھا، وہ کہتے تھے کہ درس سے پہلے آکر پوچھ لیا کرو اس سے طلبہ پر اثر پڑے گا۔ میں عرض کرتا کہ میری طرح وہ بھی علمی معاملہ میں فراغت کے بعد اپنے اساتذہ سے استفادہ میں جھچک نہیں محسوس کریں

گے، میں نے یہ بات مفتی صاحب سے ہی سیکھی تھی، زمانہ طالب علمی میں وہ ہم لوگوں کو پڑھاتے وقت کہیں اٹک جاتے تو فوراً لغت وغیرہ اٹھا کر دیکھتے تھے، اور ہم لوگوں سے بھی کہتے تھے کہ فلاں کتاب میں دیکھو کیا لکھا ہے؟ جب ہمارے استاذ اثناے درس ہمارے سامنے رک جاتے اور مشکل حل کرنے میں ہم سے بھی تعاون یا استفادہ کے خواہ شند تھے، تو ہم اپنے شاگردوں کے سامنے انکو سکھانے کیلئے ایسا کیوں نہ کریں۔

معاشی اور خانگی دشواریاں:- مدرسی کا یہ دور معاشی اور خانگی حالات کے اعتبار سے میرے لئے بڑا صبر آزمائوں گزر ہے، مگر ذہنی اور فکری اعتبار سے بڑا پر بہار رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جس قدر پریشان خاطری بڑھتی جاتی ہے، اسی قدر ہمت و حوصلہ میں توانائی آتی جاتی ہے، میں کوئی فن اور ہنر نہیں جانتا تھا، مدرسی کے علاوہ کیا کر سکتا تھا؟ پھر بچپن ہی سے پڑھنے پڑھانے کا شوق تھا، اور اسی میں مزاج بنا تھا، اس لئے مدرسی میں خوب جی لگتا تھا، اور جنم کر پڑھاتا تھا، اور آج بھی مدرسہ ہی کا مزاج ہے۔ اگر مولا نا شکر اللہ صاحب اس طور سے میری دشکیری نہیں کرتے تو میں بہر حال مجبوراً کسی کام میں لگ جاتا اور سب کچھ کیا کرایا خاک میں مل جاتا، جیسا کہ اس موقع پر بہت سے اہل علم جوان ضائع ہو جاتے ہیں، مدرسوں میں ہنر سکھانے کا خیال عمل غلط نہیں ہے، عام حالات میں مفید ہے، مگر فراغت کے بعد ہنر مند مولوی جب معاشی پریشانی میں بنتا ہو گا تو علمی زندگی سے علیحدگی اختیار کر کے اسی میں لگ جائے گا، مجھے کوئی فن آتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا، اچھا ہوا کہ کوئی ہنر نہیں جانتا تھا، اور حالات کے خارز اروں سے گزرتا ہوا اپنے علمی دامن کو بچائے رکھا، مگر یہ ہر مولوی کے بس کی بات نہیں ہے۔

رابطہ الادباء کا قیام اور مرآۃ العلم کی تالیف:- اسی زمانہ میں پروفیسر محمد حسن الاعظی از ہری اپنے وطن مبارک پورا آئے، اور انہوں نے یہاں رابطہ

الادباء کے نام سے ایک علمی انجمن قائم کی، اور طپایا کہ اس انجمن کی طرف سے ایک ماہوار قلمی رسالہ عربی زبان میں نکالا جائے تاکہ طلبہ و مدرسین کو عربی زبان میں لکھنے کی مشق ہو۔ اس رسالہ کی ادارت میرے ذمہ تھی، چند نمبر نکل سکے جن میں اساتذہ کے مضامین عربی میں ہوتے تھے۔ اسی دوران میں نے اپنی کتاب ”مرآۃ العلم“، کوتایفی شکل دی، جس کو زمانہ طالب علمی میں جمع کیا تھا، گویا طباعت کے لئے تیار ہو گئی، اس کے آخر میں لکھا: *كُنْتَ الْأَلْفُثُ هَذِهِ الْكِتَابَ فِي زَمِنِ الْطَّلَبِ ثُمَّ بَيَضُّتُهُ وَسَمَّيْتُهُ۔ مِرآۃُ الْعِلْمِ* ۲۳۳۰ء میں اس کو مدرسہ سے ضائع کرنے کا ارادہ تھا، اس کے پہلے صفحہ پر لکھا تھا: *تحت إدارۃ مجلس احياء العلوم الاسلامية مبارکفور اعظم گذہ (الہند)* اسی دوران ”جمال الدین افغانی“ کے رسالہ ”الوحدة الاسلامیہ“ اور بعض دوسرے رسالوں کا عربی سے اردو میں ترجمہ کیا، شباب کمپنی بمبئی (ابنائے مولوی محمد بن غلام رسول السوری تجارت الکتب جامی محلہ بمبئی کی قائم کردہ) سے خط و کتابت کر کے اسی کے لئے یہ ترجمہ کیا تھا، جس کے معاوضہ میں دس روپیہ اور ایک کاپی، اور میرے نام و پتہ کی انگریزی میں رہڑ کی ایک مہر آئی تھی، میں نے معاوضہ کے سلسلہ میں انھیں پر فیصلہ چھوڑ دیا۔ جس پرانوں نے خط میں یہ مصروف لکھا:

آپ نے الجھن میں الجھن ڈال دی

میں نے اس کے جواب میں لکھا

ہم ناہوں میں بھی تیرا عنديب میں نے کیا الجھن میں الجھن ڈال دی
اور جب بمبئی پہنچا تو یہ ہمارے مخلص مولوی عبد العزیز نکلے، جو کتب خانہ کے مالک تھے، اسی زمانہ میں ان کو میں نے اپنی نظم ”اصحاب صفة“ جو تقریباً ڈھائی سو اشعار پر مشتمل تھی، اس کو ضائع کرنے کے لئے دیا مگر شائع نہ ہو سکی، اور نہ ہی مجھے مل سکی۔ اس دور میں تصنیفی و تالیفی ذوق کی تسلیکین نہ ہو سکی، نہ مضمون نگاری باقی رہ سکی،

البته شعر و شاعری اپنے پورے عروج پر تھی، تنگ دستی اور پریشان خاطری میں فطری اور ذہنی پرواز میں کوتا ہی نہیں آئی، بلکہ اس میں تیزی اور تو انائی آگئی، (۱۹۲۰ء سے ۱۹۲۷ء تک کا) یہ دور ہندوستانی سیاست میں بڑا ہنگامہ خیز گزرا ہے۔ دوسری جنگ عظیم جاری تھی، ہندوستان کی آزادی کا عمل تیز تر ہوا تھا، پورا ملک فسادات اور سیاسی ہنگاموں کی رزم گاہ بننا ہوا تھا، اور یہ دو مریری مدرسی کا ہے، جس میں ۱۸۱۵ء اور ۱۸۴۷ء میں گزر کرنا پڑا، گھریلو پریشانی الگ تھی، اس میں میری شاعری کا شباب تھا، غزوں میں ذاتی رحمات کی عکسی ہوتی تھی، اور نظموں میں تحریک آزادی کا رنگ ہوتا تھا، (۱۹۲۱ء سے ۱۹۲۵ء تک میری غزلیں اور نظمیں سہ روزہ "زمزم" لاہور، اور سہ روزہ "مسلمان" اور بعد میں "کوثر" لاہور میں مستقل طور سے شائع ہوتی تھیں، کئی غزلیں اور نظمیں "مدینہ" بجنوں میں بھی شائع ہوئیں، اور جیسا کہ معلوم ہو گا کہ میری شاعری نے مجھے امرتسر اور لاہور پہنچایا، گرفتاری و نایابی کا دور تھا، ذریعہ آمدنی بالکل محدود تھا، طرح طرح کی الجھنیں تھیں، میں مدد کیا کرتا، اپنا اور بال بچوں کا خرچ پورا نہیں کر سکتا تھا، اس لئے مدرسہ احیاء العلوم میں مدرسی کے کچھ دنوں بعد مجھے وقت طور پر اپنے خورد و نوش کا انتظام الگ کرنا پڑا، اور میں موجودہ مسکونہ مکان میں آگیا، جس میں اس وقت اندر اور باہر دو مرے تھے، خالد کمال اور انور جمال دونپھے تھے، اور زوجین کل چار نفر تھے، انور جمال بچپن ہی سے "ختازیر" کا مریض تھا، اسی تھواہ میں گزر بسر کرنا تھا، اور بچہ کا علاج بھی، اس دور میں ایسا بھی ہوا کہ آٹا گھول کر اور نمک کے ساتھ پکا کر وقت کاٹ لیا گیا، بسا اوقات سالن کی جگہ پیاز، یکموں، مرچ اور نمک کا کچومر استعمال کیا، دو پیسے ایک آنے کا گوشت بہت آسانی سے کام دیتا تھا، اس زمانے میں آج کی طرح گرفتاری اور نایابی نہیں تھی، مگر اس دور کے لحاظ سے گرفتاری، ایک روپیہ کا ڈیڑھ پونے دو سیر گیہوں، چاول ملتا تھا، مگر لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھا، اس لئے بڑی غربت تھی۔ عظیم گذھ سے ۱۲ آنے کی ایک انگیٹھی لایا، ایک آنے کا گڑ

(بھی) صحیح کو لاتا اور چاۓ بن جاتی تھی، اور رات کی بچی کھی روٹی ناشتے میں کام آتی، بعض اوقات اس کا بھی انتظام نہیں ہوتا تھا، آج کے دور میں اس صورتحال کو غربت اور افلاس سے تعبیر کیا جائے گا۔ کیونکہ آج گرفتاری اور نایابی کے باوجود لوگ بہتر سے بہتر کھاتے ہیں، اور بہتر سے بہتر پہنچتے ہیں، مگر اس زمانہ میں بڑے سکون کی زندگی تھی، اور جو کچھ ہوتا تھا امور خانہ داری کے تحت ہوتا تھا، اس زمانہ میں مختصر سی تھواہ پانے والے مدرسین بہت خوشحال اور مطمئن مانے جاتے تھے اور لوگ ان پر رشک کرتے تھے، خود میرے یہاں اس زمانہ میں احباب و اضافی کی پُر تکلف (اس وقت کے لحاظ سے) دعوت ہوتی تھی، بچوں کی والدہ میرے علم کے بغیر انتظام کے طور پر بچا بچا کر رکھتی تھی، اور اسی مختصر سی آمدنی میں ہر کام چلتا تھا، اس دور میں اپنی غربت کا بھی احساس تک نہ ہوا، اور نہ صحت و تدرستی پر کوئی اثر پڑا، بلکہ چار سے اچھا کھایا اور پہنا، روکے کھانے میں جولزت اس وقت ملتی تھی، آج اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے، یہی حال صحت و تدرستی کا تھا۔

مدرسہ کی تھواہ میں برکت : - واقعی معلموں اور مدرسوں کی تھواہ میں بڑی برکت ہوتی ہے، وہ مختصر سی آمدنی میں خوش خوری اور خوش پوشنی میں اس مقدار کی آمدنی والے عوام سے ممتاز ہوتے ہیں، صحت و تدرستی بھی اچھی رہتی ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کی حلال روزی کی اجتماعی برکت شامل ہوتی ہے، مگر اب یہ بات باقی نہیں رہی۔ کیونکہ مدارس کی آمدنی میں حلال و حرام کی تمیز بہت کم رہ گئی ہے، اور آنکھ بند کر کے چندہ وصول کیا جاتا ہے، پہلے زمانہ میں لوگ اپنی حلال کمائی سے مدرسوں کی امداد کرتے تھے، جس کا فیض ظاہر ہوتا تھا، نیز رسول اللہ ﷺ نے دینی علم کے معلم وبلغ کے حق میں دعا فرمائی ہے:- نَصْرَ اللَّهُ إِمْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ بَلَغَهَا، يَدْعَا هُرْقَمَةَ كَبِشَةَ وَشَادَابِيَ كَلَّتْ لَهُ ہے۔ اور اس برکت کا ظہور اہل علم کی قناعت اور میانہ روی سے ہوتا ہے، اللہم ارزقی کفافاً و قعنی بما رزقتی اور

الاقتصاد نصف المعيشة.

اس وقت یکہ کارایہ اسٹیشن تک ۲ رآنہ اور میل کا کرایہ متوک ۲ رآنہ تھا۔ میں دوستوں کی ملاقات کے لئے اکثر متو جاتا تھا، یہاں سے پیدل محمد آباد جاتا تھا، اس وقت پیدل چلناعام رواج تھا، بچوں کے نانہاں کی خیریت وغیرہ معلوم کر کے ۲ رآنہ ریل کا کرایہ دے کر متو چلا جاتا تھا اور واپسی پر محمد آباد اتر کر پیدل چلا آتا، اس لئے ۱۲ رآنے کے بجائے صرف ۲ رآنے میں کام چل جاتا تھا اور ۸ رآنے کی بچت ہو جاتی تھی، آمدنی کے مطابق خرچ کرنا اقتصاد ہے، جو نصف معيشت ہے، میں نے اس دور میں کسی سے قرض نہیں لیا، اور نہ ہی بعد میں یہ کام کیا، حالانکہ اس دور میں اور اس کے بعد کئی نازک وقت آئے۔

احیاء العلوم سے علیحدگی:- تقریباً پانچ سال تک احیاء العلوم میں تدریسی خدمت انجام دی، شروع ہی سے پڑھنے پڑھانے کا مزاج تھا، اور اسی میں رہنے کا ارادہ تھا۔ غالباً مولانا مرحوم کے انتقال کے بعد تخلواہ میں اضافہ ہوا، اور ۱۵ ار روپیہ سے ۱۸ ار روپیہ ہوئی، خیال تھا کہ اگر ۲۵ ار روپیہ تخلواہ ہو جائے گی تو تدریسی خدمت کرتا رہوں گا، مگر اس کی توقع نہیں تھی، تین روپیہ کے اضافہ ہی پر مدرسہ کے بعض اراکین طنز و مزاج سے غیرت کو ٹھیس پہونچاتے تھے، اسی درمیان مدرسہ اور مدرسین کے معاملات نازک صورت اختیار کر گئے، مدرسہ کی مجلس شوریٰ ہوئی، اور ۲ ربیعہ رات تک گفتگو ہوتی رہی، مدرسین بھی موجود تھے، اراکین کے ہتک آمیز روپیہ پر میں نے رات ہی میں استعفاء دے دیا، استعفاء کی عبارت کچھ اس طرح تھی:-

”درسی اور معلمی کے شریف دامن کو جب ”جہالت کے شرارے“ جلا دینا چاہتے ہوں تو ایسی حالت میں علیحدگی اختیار کر لینی چاہئے، فی الحال میری اس تحریر کو استعفاء سمجھا جائے، ویسے مدرسہ اپنا ہے۔ آئندہ حسب قدرت خدمت سے درج نہیں ہوگا۔“

ارکان کمیٹی نے کہا کہ اکان کو بلا کر پوچھا جائے کہ ”جہالت کے شرارے“ کیوں لکھا، مگر بعض سمجھدار ارکان نے کہا کہ جب وہ علیحدہ ہو رہے ہیں تو آزادی سے مزید تندوخ باتیں کر سکتے ہیں، اور میرا استغفار منظور ہو گیا۔



امر تسر کا سفر

غالباً ۲۳ نومبر ۱۹۴۲ء کو پہوچا تھا

مرکز تنظیم اہل سنت امر تسر میں ملازمت:- قیام مبارکبور کا زمانہ میری شاعری کے شباب کا زمانہ ہے، غزلیں اور نظمیں خوب کہتا تھا، تغزل میں اصغر گونڈوی مرحوم سے زیادہ متاثر تھا، ان کے دونوں دیوان ”نشاطِ روح“ اور ”سرودِ زندگی“ مطالعہ میں رہ چکے تھے، نظموں میں احسان دانش کا تتبع کیا، اسی کے ساتھ سیاسی نظمیں بھی کہتا تھا، میری غزلیں اور نظمیں لا ہور کے سہ روزہ ”زمزم“ میں اور سہ روزہ ”مسلمان“ بعد میں ”کوثر“ میں زیادہ شائع ہوتی تھیں، کئی غزلیں اخبار ”مذہب“، بجنور میں بھی چھپیں، اس وجہ سے ”زمزم“ اور ”مسلمان“ دونوں اخبار مستقل طور میں نے نام آتے تھے۔ غزلیں ”من طہور“ کے عنوان سے چھپتی تھیں، ”زمزم“ میں مرکز تنظیم اہل سنت امر تسر کے مضامین پورے ایک صفحہ میں شائع ہوتے تھے، جن میں شیعوں اور قادریانیوں کا رد ہوتا تھا، اس تنظیم کے روح رواں مولانا سید نور الحسن بخاری دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، ان کا وطن ملتان تھا، وہ میری غزلوں اور نظموں کو پڑھتے تھے، اور غائبانہ تعارف تھا، میں نے ان کو لکھا کہ ”مرکز تنظیم اہل سنت“ میں گنجائش ہو تو مجھے بلا لیں، آپ کے علمی اور دینی کاموں میں تعاون کروں گا، انھوں نے بڑے انتراح سے لکھا کہ ”مرکز تنظیم“ میں تیس روپیہ ماہوار اگر منظور ہو تو آجائیے، ایک حبۃ اللہ، پھر ۱۵ ار روپیہ ماہوار، پھر ۱۸ ار روپیہ ماہوار، اور ۳۰ ار روپیہ کی اطلاع سے انتراح ہوا، اور

امرتر جانے کی تیاری کی، نومبر کا مہینہ تھا، پنجاب کی سردی مشہور ہے، اس وقت والد مرحوم بسلسلہ تجارت الہ آباد میں تھے، میں یہاں سے الہ آباد گیا، وہاں جاڑے کے کپڑے بنوائے، اور اس طرح امرتر روانہ ہوا، الہ آباد سے ایک ٹرین لکھنؤ آری تھی، جس ڈبہ میں گیا، اس میں سکھ فوجی تھے۔ اندر داخل نہیں ہونے دے رہے تھے، مگر جب معلوم ہوا کہ میں امرتر جا رہا ہوں تو بڑی خوشی سے جگہ دی، اور تاکید کی سگریٹ نہ پینا، لکھنؤ سے دہلی جانے والی گاڑی پر سوار ہوا تو اس میں ایک مسلمان تھا، جورستہ بھر اچھن سے گرم پانی لا کر ۵ چائے بناتا اور مجھ کو بھی پلاتا تھا، راستہ میں مراد آباد اتر گیا، ایک روز مدرسہ شاہی میں رہ کر دوسرے دن رات کو امرتر کیلئے روانہ ہوا، طلبہ جن میں بعض مباکپوری شاگرد تھے، اسٹیشن ساتھ آئے، اور غالباً بارہ بجے رات میں گاڑی امرتر کے لئے روانہ ہوئی، اور دوسرے روز شام کو ۲۳ ربیع اسٹیشن پر پہنچا، غالباً ۲۲ نومبر ۱۹۴۷ء کی تاریخ تھی، ۲۸، ۲۷ سال کی عمر تھی، دس ماہ مراد آباد میں رہا، اسی درمیان ایک مرتبہ دہلی گیا تھا۔ اس سے زیادہ اور اس سے آگے کبھی سفر نہیں کیا تھا، اور سفر بھی کیا تو پنجاب جیسے دور راز مقام کا، اسٹیشن کے قلی پنجابی میں بات کرتے تھے، میں نے ایک قلی کے سر پر سامان (بکس، بستر) رکھا، اور شریف لاج، کرڑہ مہان سنگھ چلنے کو کہا، غروب کے قریب جب منزل مقصود پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ مولا نانور احسن صاحب لا ہو رکھنے ہیں کل آئیں گے، ایک صاحب نے ایک کرہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں سامان رکھو۔

بھوک کی شدت تھی، میں سامان رکھ رکھا نکلا کہ بھیں ہوٹل ہوتا کچھ کھاپی لوں، مگر بالکل اجنبی تھا، راستہ بھول جانے کے ڈراور زبان نہ جاننے سے، قریب ہی ایک دوکان دیکھی، اندازہ ہوا کہ کھانا ملتا ہے، اوپر گیا، یہ انہنائی گندہ، عامی ہوٹل تھا، چٹائی کی درازوں میں کالی کالی مٹی جسی ہوئی تھی، اس پر ٹیٹھنا اور کھانا بڑی بدذوقی کا مظاہرہ تھا، مگر اجنبیت اور بھوک نے اس کو گوارا کیا، دور وٹی اور دال کی قیمت ۲ رآنے تھی،

مالک نے کہا کہ یہاں دال کا پیسہ نہیں لیا جاتا دوروٹی دو آنے کی ہے۔ وہاں سے نکل کر مٹی کا ایک چراغ خریدا اور اس میں تیل ڈالا، اور کمرے میں آکر بیت تلاش کی، اس طرح چراغ جلا کر مسافرت کی پہلی رات کا استقبال کیا، سفر کی تکان تھی، جلد ہی سو گیا، دوسرے دن شام کو مولا نانور احسن صاحب لا ہور سے تشریف لائے اور تپاک سے ملے، غیر حاضری کی معدترت کی، امرتر کے مشہور تفریجی مقام یا پارک رام باغ لے گئے، اور میرے کھانے کا انتظام اپنے یہاں کیا، ان کے بال پچ بلڈنگ کے پہلے منزلہ پر رہتے تھے، اور وہیں سے کھانا ناشتا آتا تھا۔

شریف لاج کرڑہ مہان سنگھ کے چاروں طرف کئی منزلہ بلڈنگیں تھیں، درمیان میں بہت بڑا صحن تھا، اندر داخلہ کا راستہ پورب، پچھم دونوں طرف بلڈنگیں تھیں اور پر چھت تھی، رات میں بھی جلتی تھی، اس طرح یہ لمباراستہ یا لگلی اندر ہیرے میں گزرنما مشکل تھا، ایک بڑے صحن میں ایک طرف کچھ ہیں تھیں، جن کے نگر اس کچھ پنجابی (پنڈو) لڑ کے تھے، امرتر پہلے احباب یہی دیہاتی لڑ کے تھے، جو خالص پنجابی زبان بولتے تھے، بعد میں امرتر کے غزنوی خاندان کے ایک صاحبزادے خالد میرے پاس آیا کرتے تھے، اور ان سے اچھی خاصی دوستی ہوئی تھی، ایک اور نوجوان جو اسی طرف لاج میں رہتا تھا، میرے پاس آیا کرتا تھا، بعض کھانے کی کچھ چیزیں بھی لاتا تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد قادریانی کے خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین کا پوتا یا کوئی رشتہ دار ہے، مولا نا مضا میں لکھتے تھے، میں ان کی مدد کرتا تھا، اس زمانہ میں امرتر سے لا ہو رکرا یہ ۲ رآنہ تھا، درمیان میں تیس میل کا فاصلہ تھا، راستہ جلو اٹاری، تاج پوری وغیرہ اسٹیشن پڑتے تھے، لا ہو رکھنے کی تعبیر تھا، یہیں کے اخباروں میں میرے اشعار شائع ہوتے تھے، مدرسہ میں یہاں کے ادبی رسائل ”نیرنگ خیال“، ”ادبی دنیا“ اور ”ادب لطیف“، وغیرہ آتے تھے، دہلی لکھنؤ کے بعد لا ہو راردو ادب کا مرکز تھا، شعراء وادباء کا جمع تھا، پہلی بار لا ہو رکھنے والوں کا اجنبیت اور پنجابی زبان

سے ناواقفیت کی وجہ سے انارکلی بازار اور موہن روڈ پوچھتا ہوا پیدل "زمزم" کے دفتر میں پہنچا، جو پیسہ اخبارگلی کے پاس پہلے منزلہ پر تھا، کسی سے جان پہچان نہیں تھی، ہر چیز اور ہر شخص میں انسیت و اجنیت کا ملا جلا احساس تھا، مگر دفتر میں تمام عملہ مغربی یوپی کا تھا، جس سے یک گونہ اطمینان ہوا، مولانا محمد عثمان فارقلیط مرحوم سے غائبانہ یوں واقفیت تھی کہ ان کا نام سب سے پہلے اخبار "الجمعیۃ" کے حلقة ادارت میں دیکھا تھا، پھر اخبار "مدینہ" بجنور کی ادارت میں دیکھا اور اب وہ اخبار "زمزم" کے اڈیٹر تھے، منشی عبدالرحیم ساتی نیجگ ڈائریکٹر تھے، کاتب اور ملازم بھی بجنور، گنگوہ وغیرہ کے تھے، میں نے اپنا نام و نشان نہیں بتایا، دسمبر کی ابتدائی کوئی رات تھی، رات کو دفتر بند ہونے لگا، تو مشنی عبدالرحیم صاحب نے کہا کہ آپ مولانا نور الحسن صاحب کے آدمی ہیں، ان کا بستر وغیرہ دفتر میں ہے، آپ بھی یہیں سو جائیے، میں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں اجنبی آدمی ہوں، دفتر میں رات کوسنا مناسب نہیں ہے، میں رات کو دفتر میں چوری کر کے چلا جاؤں تو آپ کیا کر سکتے ہیں، بہتر ہے کہ دفتر بند کر کے باہر گیلری میں کرسی رکھوادیں، اسی پر رات بس کرلوں گا، اجنبی شخص پر پورا دفتر چھوڑنا کسی طرح مناسب نہیں ہے، میں اپنی بات پر اصرار کرتا رہا، اور وہ کہتے رہے کہ سخت سردى پڑ رہی ہے، رات باہر کر سی پر کیسے گزار سکتے ہیں، مولانا نور الحسن صاحب نے آپ کو بھیجا ہے، جب انہوں نے آپ پر اعتماد کیا ہے تو ہم بھی اعتماد کرتے ہیں، بہر حال مشنی عبدالرحیم صاحب نے دفتر میرے حوالہ کر دیا۔ اور میں نے لاہور کی پہلی رات وہاں گزاری۔

اس کے بعد عام طور پر ہفتہ میں دو بار لاہور آتا جاتا رہا۔ اور اجنیت ختم ہوتی رہی، مگر اب بھی میں نے اپنا نام و نشان نہیں بتایا، اس درمیان میری بعض غربیں بھی حسب سابق "زمزم" میں چھپتی رہیں۔ اور پیسہ اخبار، انارکلی بازار میں گھومتا پھرتا رہا، ابتداء میں ہوٹل وغیرہ کا پتہ نہیں چلتا تھا، کئی راتیں پھل وغیرہ کھا کر رہا، بعد میں پیسہ اخبار کے ایک ہوٹل میں کھانے لگا۔ ایک مرتبہ امرتسر سے لاہور جا رہا تھا، میرے

قریب ایک بوڑھا پنڈو (دیہاتی) بیٹھا تھا، اس نے مجھے مولوی صورت دیکھ کر حیات مسح کی بحث چھیڑ دی، وہ قادر یانی تھا، اس نے مشہور حدیث "لوگان موسیٰ حیاً موسعاً، الا اتابعیٰ" کے مقابلے میں ملاعلیٰ قاری کے حوالے سے بتایا کہ ایک حدیث میں "لوگان موسیٰ عیسیٰ حیاً" ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس حدیث سے وفات مسح ثابت ہوتی ہے۔ باطل مذہب والے جاہلوں کو صرف پھنساتے ہی نہیں، بلکہ ان کو اپنا مبلغ بھی بناتے ہیں۔

ایک مرتبہ "زمزم" میں مضمون دے کر امرتسر آیا تو معلوم ہوا کہ اس میں کوئی اہم تبدیلی ضرور ہوئی ہے، اس لئے چار بجے رات کو جانا پڑا، شریف لاج والا راستہ دور تک یوں تھا کہ دونوں جانب بلڈنگز میں تھیں، اور اوپر چھٹت تھی، راستے کی بجائی بھی ہوئی تھی، اندھیرا گھپ تھا، میں اس میں آہستہ آہستہ جا رہا تھا نیچ راستے میں ایک بیل بیٹھا تھا، میں اس پر گر پڑا اور بیل گہرا کر بھاگنے لگا، نہ میں اس کو دیکھتا تھا، اور نہ وہ مجھ کو دیکھتا تھا، دونوں ایک دوسرے سے ڈرتے تھے، میں درمیان میں نہ ادھر جا سکتا تھا نہ ادھر جا سکتا تھا، کچھ دیر کھڑا رہا، پھر ڈرتے ڈرتے آگے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ بخیر و عافیت یہ خطرناک منزل طے ہو گئی۔

ایک لطیفہ۔ ایک مرتبہ مولانا نور الحسن بخاری کوئی مضمون مجھ سے لکھوار ہے تھے، انہوں نے اپنے متاثری لمحے میں "عجب وریاء" کا جملہ استعمال کیا، میں اس کو بالکل نہیں سمجھ سکا، اور جوں کا توں "أُجْرُ يَا" لکھ دیا، بعد میں انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے، میں نے کہا کہ جو آپ نے کہا وہی میں نے لکھا، تو انہوں نے لکھ کر بتایا کہ میں نے "عجب وریاء" کہا تھا، مگر متاثری پنجابی لمحے کی وجہ سے آپ اس کو نہیں سمجھ سکے، تنظیم کے صدر محمود خاں نواب لغاری اور مولانا ایک مرتبہ بات کر رہے تھے، مجھے اندازہ ہوا کہ کسی معاملہ میں دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، میں نے منع کیا تو مولانا نے کہا کہ ہمارے یہاں کا یہی لب ولہجہ ہے، ایک مرتبہ کسی بات پر میں نے "لال" کے بجائے "لال

والا، کہہ دیا تو مولانا نے تنہیں لہجہ میں کہا کہ ”لال والا“ کیا؟ صرف ”لال“ کافی ہے، آپ لوگ یوپی والے اہل زبان ہیں، ہم آپ سے اردو سیکھتے ہیں، آپ ہی لوگ اس قسم کے الفاظ استعمال کریں گے تو جنت بن جائیں گے، امرتسر پہنچنے کے دوایک دن بعد ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا، وہاں ایک صاحب کوٹ پتلون میں جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، رکوع و تکوئی ٹھیک سے نہیں کرتے تھے، میں نے ان کوٹک دیا، اس پر وہ مجھ پر برس پڑے، اور مولویوں کو بہت سخت سست سنایا، میں اپنی اجنیبت اور بے زبانی پر خاموش سننا رہا۔

قیام امرتسر بہت محترم رہا، اس مدت میں شہر سے کوئی خاص انس و تعلق پیدا نہیں ہوا، ویسے بھی وہاں کوئی علمی و ادبی سرگرمی نہیں تھی، البتہ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسر کی ذات مرجع تھی، وہ مبارک پور کے اہل حدیث علماء خاص طور سے مولانا عبدالرحمن محدث مبارکپوری، مولانا عبد السلام مبارکپوری وغیرہ سے خاص تعلق رکھتے تھے، میں ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا تھا، ہال بازار میں مشرقی جانب ثنائی پر لیں ان کے صاحبزادے مولانا عطاء اللہ چلاتے تھے، اسی کے قریب مولانا کا مکان تھا، ہفتہوار ”الہدیث“، جاری تھا، مولانا پرانے طرز کے ایک بڑے مکان میں پہلے منزلہ پر قیام فرماتے تھے، ایک صاحب فتویٰ لکھنے پر مأمور تھے، مولانا بولتے تھے اور وہ لکھتے تھے، جب میں پہنچ جاتا تو مولانا ان سے کہتے کہ ان کو لکھنے کو دے دو، یوپی والوں کا خط اور ان کی زبان دونوں اچھے ہوتے ہیں، اس طرح مولانا نے کئی فتاوے مجھ سے لکھوائے، میرے لئے یہ شرف باعث فخر ہے، مولانا میرا بہت لحاظ فرماتے تھے اور بڑے اشراح سے ملتے تھے۔

ہال بازار کی مسجد خیر الدین میں کبھی کبھی نماز پڑھنے چلا جاتا تھا، کبھی ثنائی پر لیں میں امرتسر کے قیام کے دوران مکھوں کا سہری گرو دوارہ اور جلیان والا باغ تک نہیں دیکھا، شاید کچھ مدت وہاں قیام رہتا تو کوئی حلقة احباب پیدا ہو جاتا، ویسے وہاں بھی

نہیں لگتا تھا، کچھ دوری پر لا ہو رہا، جس میں ہر طرح کی کشش تھی، اسی دوران میں ایک مرتبہ سونی پت ضلع کرنال میں ایک دینی جلسہ میں مرکز تنظیم اہل سنت کی طرف سے گیا، سخت سردی کا زمانہ تھا، چار پانچ سیر روئی کی رضائی اور بستر کے ساتھ امرتسر سے کامیل میں سوار ہوا، اور اقبال تک بستر لئے کھڑا کھڑا آیا، پلیٹ فارم پر سویا، صبح سونے پت کی گاڑی پر وہاں گیا، وہاں سے دہلی آیا، اور وہاں سے پھر امرتسر واپس گیا، الغرض ۲۵ نومبر ۱۹۲۵ء سے ۱۲ ارجونوی ۱۹۲۶ء تک تقریباً ڈریھ ماہ امرتسر میں قیام رہا، اس کے بعد مستقل طور سے لا ہو رہا گیا، اس درمیان میں کوئی علمی یا ادبی کام نہیں ہوا۔

☆☆☆☆☆

امرتسن سے لا ہو رہا

بتا چکا ہوں کہ میں امرتسر سے مرکز تنظیم اہل سنت کے نشریات کے سلسلے میں لا ہو رجایا کرتا تھا، اور اکثر رات کو اخبار ”زمزم“ کے دفتر میں سو جاتا تھا، اسی درمیان میں پنجاب کے کسی کالج کے پروفیسر پنجاب یونیورسٹی میں امتحان دینے کے لئے آئے، اور اخبار ”زمزم“ کے دفتر میں قیام کیا، ایک رات وہ ”دیوان غنی کشمیری“ کا مطالعہ کر رہے تھے۔ جو نصاب میں داخل تھا، ایک غزل کے اشعار حل کرنے میں ان کو مشکلات درپیش تھیں اور دریتک لجھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی پریشانی دیکھ کر کہا کہ کتاب لائیئے، میں بھی ذرا دیکھوں اور تھوڑی دیر مطالعہ کرنے کے بعد میں نے پوری غزل کا مطلب ان کو سمجھا دیا، انھوں نے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ میں نے جب اپنا وطن ”اعظم گذھ“ بتایا تو انھوں نے کہا کہ جبھی آپ نے ان مشکل اشعار کو اتنی جلدی حل کر دیا، ہندوستان کا کوئی علمی ادارہ اس وقت تک تکمیل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس میں اعظم گذھ کا کوئی عالم نہ ہو، اس کے بعد انھوں نے میرا نام وغیرہ دریافت کیا، اور میں نے بتا دیا۔

صحیح کو انھوں نے مولانا محمد عثمان فارقلیط اور منتشری عبد الرحیم وغیرہ سے اس کا تذکرہ کر کے میرا نام وغیرہ بتایا، اس کے بعد دونوں صاحبوں نے مجھے بلا کر سخت فضیحت کیا، اور کہا کہ اب تک آپ نے اپنے کو چھپائے رکھا، اس کے بعد دفتر کے تمام علمہ سے خاص تعلق پیدا ہو گیا، اور سب لوگ خلوص و محبت سے پیش آنے لگے، ”زمزم“ میں میرے اشعار ۱۹۲۱ء سے شائع ہوتے تھے، (۱۵ اکتوبر ۱۹۲۱ء میں میری پہلی غزل ”اسرار“ کے عنوان سے ”زمزم“ میں چھپی، ۹ اشعار تھے، مطلع یتھا:

خلوت بے نیاز کو سلطنتِ شہی سمجھو بے خودی خودی میں ڈوب، سرفندری سمجھو
جن میں غزلیں، نعمتیں، قومی و سیاسی نظمیں ہوا کرتی تھیں، اور دفتر والے غالباً نہ مجھے
جانست تھے، اس طرح میری شاعری امترسرا اور لا ہور تک آنے کا ذریعہ بنی بلکہ اس نے
مجھے بمبئی تک پہنچایا۔

منتخب التفاسیر کا منصوبہ:- چند دن کے بعد منتشری عبد الرحیم صاحب اور مولانا فارقلیط صاحب نے اصرار کے ساتھ کہا کہ آپ وہاں کیا کرتے ہیں، یہاں چلے آپنے، ہم آپ کو ساٹھ روپیہ ماہوار دیں گے، ”زمزم لمیڈیڈ مینی، لا ہور“ کی طرف سے ایک تفسیر شائع ہونے والی ہے۔ مولانا فارقلیط کی نگرانی میں یہ کام ہو گا، آپ اس کے جمع و ترتیب کی ذمہ داری سننجال لیں، اس کی صورت یہ ہو گی کہ ہندوستان میں مردجہ تمام تفسیروں کا خلاصہ کیجا کیا جائے گا۔ طویل مباحث کا اختصار ہو گا، اہم اور مختصر مضامین کی تشریح ہو گی، اس کام کے لئے کمپنی نے دولا کھروپیہ منظور کیا ہے، ایک لاکھ تالیف و ترتیب اور طباعت و اشاعت پر خرچ ہو گا، حاشیہ پر تفسیر ہو گی، قرآن کے متن، ترجمہ اور تفسیر میں سے ہر ایک کی طباعت مختلف رنگ میں ہو گی۔ یہ ایک مستقل کام ہے، اس کے بعد آپ اخبار ”زمزم“ سے آپ نسلک ہو جائیں گے، لا ہور علمی و ادبی مقام ہے، یہاں ترقی کے موقع ہیں۔ الغرض مجھے ہر طرح تیار کرنے کی کوشش کی گئی، میں بھی اس موقع اور پیشکش کو غنیمت سمجھتا تھا، مگر خیال ہوتا تھا کہ ”مرکزی تنظیم اہل

سنت“ کی دعوت پر آیا ہوں، ابھی چند دن ہوئے ہیں، مولانا نور الحسن صاحب سے اس کا تذکرہ کس انداز میں کروں؟ کئی دن اسی حیصہ میں رہا، اور ایک دن اس کا تذکرہ مولانا نور الحسن صاحب سے کر دیا، انھوں نے نہایت خوشی سے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، چلنے میں بھی مشی صاحب اور مولانا فارقلیط صاحب کو آپ کے بارے میں مزید معلومات دے دوں۔ میں بھی جنوری سے آپ کی تxonواہ پچاس روپیہ کرتا، مگر جب اس سے زیادہ کی بات ہے، اور کام بھی دینی علمی ہے تو ضرور آپ جائیے، آپ ضروریات زندگی کے سلسلے میں وطن سے نکلے ہیں، اس لئے جہاں زیادہ سہولت ملے، جانا چاہئے، مولانا نور الحسن صاحب نہایت با اخلاق، قدر شناس، اور حساس عالم تھے، ان کو اہل علم کی ضرورت کا پورا حساس تھا، بعد میں انھوں نے لا ہور جا کر میرے بارے میں مولانا فارقلیط اور منتشری عبد الرحیم سے بات کی اور میرا لا ہور جانا طے ہو گیا، چنانچہ میں ۱۳ ارجمند جنوری ۱۹۲۵ء کو اپنا بکس بستر لے کر لا ہور چلا گیا۔

منتخب التفاسیر کی ابتداء:- اخبار ”زمزم“ کے دفتر میں ایک کمرہ اس کام کے لئے مخصوص کیا گیا، میز، کرسی، قلم، دوات، کاغذ اور دیگر چیزیں مہیا کی گئیں، مولانا تھانوی کے ترجمہ کا ایک حمال دیا گیا، اور تفسیر میں، تفسیر ”بیان القرآن“، تفسیر حقانی، تفسیر شانی، ترجمان القرآن، تفہیم القرآن اور تفسیر ماجدی کے مطبوعہ حصے جمع کئے گئے، کمرہ کے دروازے پر پردہ ڈال دیا گیا کہ سکون واطمینان سے ”منتخب التفاسیر“ کے نام سے ایک ایسی تفسیر تیار کی جائے، جس میں ہندوستان کے مفسرین کی تفسیروں کا خلاصہ آجائے، میں دو ایک دن تک بیٹھا سوچتا رہا کہ کام کیسے شروع کروں، کام بڑی ذمہ داری کا تھا، ذمہ داران نے میرا منتخب کچھ سمجھ کر کیا تھا، اللہ کا نام لے کر کام شروع کیا، منتشری عبد الرحیم صاحب بار بار جھانگئے تھے اور دیکھتے تھے کہ میں الجھن میں ہوں تو دوسرے یا تیسرے روز خود ہی کہا کہ کام مشکل ہے، آپ کی تxonواہ ساٹھ نہیں بلکہ سور روپیہ رہے گی، میں نے اس بے طلب اضافہ پر اللہ تعالیٰ کا اور منتشری صاحب کا

شکریہ ادا کیا کہ ۱۵ سے ۱۸ پھر، ۳۰ پھر اور اب ۱۰۰ ارتخواہ ملنے لگی ہے، پچھدن کے بعد کام قابو میں آگیا، اور دن میں تقریباً دو صفحہ لکھ لیا کرتا تھا۔ مکان آنا اور انور جمال کا انتقال : ابھی لاہور آئے بارہ تیرہ دن ہوئے تھے، اور کام اچھی طرح قابو میں نہیں آیا تھا کہ گھر سے عزیزم انور جمال مرحوم کی بیماری کا خط آیا، وہ بچپن سے خنازیر کے خطرناک مرض میں مبتلا تھا، اور اس زمانہ کی وسعت اور حیثیت کے لحاظ سے میں نے ہر طرح کا علاج کیا مگر اس میں کمی نہیں ہوئی، اسی حال میں چیچک نکل آئی، اور آن تو تک پھیل گئی، میں رجنوری ۱۹۲۵ء کی شام لاہور سے چل کر ۲۸ رجنوری کو دو پھر میں گھر پہونچا تو دیکھا کہ انور جمال اور اس کا بڑا بھائی خالد کمال دونوں شدید چیچک میں مبتلا ہیں، انور جمال ۲۸ رفروری ۱۹۲۵ء کو انتقال کر گیا، اس وقت اس کی عمر سات سال کی تھی، خالد کمال اس لاٹنی نہیں تھا کہ اپنے بھائی کے جنازہ میں شریک ہو سکے، یہ بچہ نہایت حسین و جمیل تھا، میں اس سے اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، بڑا نازک مزاج اور نفاست پسند تھا، مجھے اس کے انتقال کا بہت زیادہ غم ہوا۔

لاہور والپی اور مشاہرہ میں اضافہ :- چند دن گھر رہ کر لاہور چلا گیا، غالباً اس کے بعد ہی ”زمزم کمپنی لمٹیڈ“ کے ارکان نے میری تختواہ میں خود بخود اضافہ کر کے ۱۶۰ رروپیہ ماہوار کر دیا، اصل میں یہ کام جتنا دقت طلب ہوا، اسی کے پیش نظر حق المحنہ میں اضافہ ہوتا رہا۔

لاہور کی ایک خصوصیت اور منتخب التفاسیر کی تکمیل :- لاہور میں یہ بات عام تھی کہ کام کرنے والوں کی ضرورت کا پورا احساس ذمہ داروں کو رہتا تھا، وہ بے جا استھان نہیں کرتے تھے، اپنے آدمیوں کو حتیٰ الامکان مطمئن کر کے رکھتے تھے، اور اگر اچھا کام مل جاتا اور تختواہ زیادہ ہوتی تو بڑی فراغدی اور انشراح سے دوسرا جگہ جانے کی ترغیب دیتے تھے، بشرطیکہ کہ ان کے یہاں گنجائش نہ ہو، ”منتخب التفاسیر“

کا کام پوری طرح میرے قابو میں آگیا، اور یہ کام میں نے ۱۵ رجنوری ۱۹۲۵ء سے کیم رجون ۱۹۲۶ء تک ۱۶ ماہ کی مدت میں پورا کر لیا۔ اور تقریباً ۹۵۰ (سائز ۶۰) نو سو صفحات، بڑی سائز کے) میں مکمل کر کے اراکین کے حوالہ کر دی، میری موجودگی میں اس کی کتابت بھی ہو رہی تھی، سائز ۶۰ تیرہ پارہ کی کتابت ہو چکی تھی، خطاط مشی محمد قاسم لردھیانوی کے پوتے اس کی کتابت کر رہے تھے، مگر افسوس کی تقسیم ملک کے پُرآشوب ہنگامہ میں یہ تفسیر طباعت و اشاعت سے رہ گئی، معلوم نہیں اس کا مسودہ بھی محفوظ ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابتداء ہی میں مجھے قرآن کریم کی خدمت کی توفیق ملی، اور جوانی کے دور کا یہ پہلا کارنامہ آئندہ میرے حق میں باعثِ خیر و برکت ہوا، مگر افسوس کی اس کی اشاعت نہیں ہو سکی۔

”منتخب التفاسیر“ کی تدوین و تالیف کے دوران ۲۸ رجنوری ۱۹۲۵ء، ۱۸ ارمی ۱۹۲۶ء میں پانچ مرتبہ وطن آیا، اس زمانہ میں ریل کا کرایہ شاہ گنج سے لاہور تک سائز ۶۰ تیرہ پارہ روپیہ تھا، شاہ گنج سوار ہوتا تھا اور لاہور اتر تھا، اسی طرح لاہور سوار ہوتا تھا اور شاہ گنج اتر تھا، شام کو لاہور سے چلتا تھا، اور دوسرا دن گذار کر، رات میں دو بجے شاہ گنج اتر تھا، ایک مرتبہ مشی عبد الرحیم صاحب کے کام سے آیا تھا، انھوں نے پنجاب یونیورسٹی کا کوئی امتحان دیا تھا، جس میں کسی مضمون کا پرچہ مولانا عبدالسلام صاحب ندوی کے پاس تھا، اسی سلسلہ میں انھوں نے مجھے بھیجا تھا، مگر آنے سے پہلے ہی مولانا نے پرچہ دیکھ کر یونیورسٹی کو بھیج دیا تھا۔

میں ابتداء میں اخبار ”رمزم“ کے دفتر ہی میں رہتا تھا، کھانا پیسہ اخبار کے ایک معمولی ہٹل میں کھاتا تھا، ماہوار دو وقت کھانے کی قیمت بڑے گوشت کی ۱۳ روپیہ اور چھوٹے گوشت کی ۱۵ روپیہ تھی، میں بروقت قیمت دیا کرتا تھا، لاہور میں چائے اور پان کی دو کانیں بہت کم تھیں، لسی، دودھ، دہی، کلچہ، حلوہ، پرائٹھ اور پھل کی دو کانیں زیادہ تھیں، میں صحیح کوناشتہ میں عام طور سے ایک کلچہ اور ایک گلاس دودھ

استعمال کرتا تھا، پنجابی جسم وجہ کے اعتبار سے گلاس بھی بڑا ہوتا تھا، غالباً ۱۳۶۰ء میں کام چل جاتا تھا، کچھ پیسہ اخبار کے جنوبی حصہ کی ایک گلی کے مکان میں رہا، جس میں بجنوں کے مزدور رہا کرتے تھے، اسی میں مولوی مجدد حسن مالک مدینہ بجنوں کے بھائی مولوی ظہور الحسن بھی رہتے تھے، وہ مدینہ بلڈ پوکے ایجنت تھے، اور ہم لوگوں کے گویا سرپرست تھے اور کھانے پکانے میں شریک تھے، سالن کمرے میں پکا لیتے تھے، اور روئی تندور میں پکوالیتے تھے، یہاں کا قیام بہت مختصر رہا، اور جلد ہی ”زمزم“ کی طرف سے اندر ورن بھائی گیٹ مبارک منزل میں رہنے لگا، اسی میں مولانا فاروق قلیط صاحب رہتے تھے، اور بعد میں مرکز تنظیم اہل سنت کا دفتر بھی اسی بلڈنگ میں آگیا، اور مولانا نور الحسن صاحب بھی یہیں آگئے۔

ابوسعید بزمی :- کچھ دنوں کے بعد سید ابوسعید بزمی صاحب بھی اسی میں آگئے، وہ پہلے ”زمزم“ میں تھے، بعد میں اخبار ”احسان“ کے اڈیٹر ہو گئے، اس طرح مبارک منزل میں کئی اہل علم یکجا ہو گئے، مولانا فاروق قلیط اور بزمی صاحب اوپر کے منزلہ پر رہتے تھے، اس زمانہ میں بزمی صاحب جناب احسان داش کے مشورہ پر ”تاریخ انقلابات عالم“ لکھ رہے تھے، وہ اکثر میرے پاس آتے تھے، اور امیر شکیب ارسلان کی کتاب ”حاضر العالم الاسلامی“، کے معانی و مطالب معلوم کرتے تھے، ایک مرتبہ وہ اس حال میں آگئے کہ میں اور ایک ساتھی چائے پی رہے تھے، میں کپ میں پی رہا تھا، اور ساتھی کپ نہ ہونے کی وجہ سے لوٹے میں پی رہا تھا، بزمی صاحب نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ مولانا! بہت خوب، اب بھی آپ لوگ کبھی کبھی طالب علمی کا لطف اٹھا لیتے ہیں، مبارک منزل کا یہ ایک واقعہ قبل ذکر ہے کہ میں گرمی کی دوپہر میں ہوا کے خیال سے ایک دروازہ کے سامنے چار پائی پر سوتا تھا، تو کسی نہ کسی مردے کا خواب ضرور دیکھتا تھا، اور جب چار پائی وہاں سے ہٹا کر سوتا تھا تو یہ خواب نہیں دیکھتا تھا، آزمائے کے لئے بارہا میں نے ایسا کیا، یہ خواب پریشان گئی نہیں ہوتا تھا، مگر یہ واقعہ

ضرور ہوتا تھا، شاید کسی زمانہ میں وہاں کوئی قبر رہی ہو۔

مدرسہ احیاء العلوم میں عارضی مدرسی :- شوال ۱۳۶۲ھ احتصار فریضے ۱۳۶۰ھ (کیم اکتوبر ۱۹۴۲ء تا جنوری ۱۹۴۳ء) پانچ ماہ احیاء العلوم میں عارضی طور پر درسی خدمت ۲۵ روپیہ مشاہرہ پر کی، والد صاحب اس سال حج و زیارت کے لئے تشریف لے گئے تھے، اور میرا گھر پر رہنا ضروری تھا، میں نے ان کے ذریعہ امام عبدالابر کی ”جامع بیان العلم“ اور امام ابو عبید قاسم بن سلام کی ”کتاب الاموال“ متنگوائی تھی، اس زمانہ میں مولانا عبد الغنی بارہ بنکوئی صدر المدرسین تھے، انھوں نے میری زیر تدریس کتابوں میں ”تفسیر بیضاوی“ بھی رکھی، مگر میں نے یہ کہہ کر اس کے پڑھانے سے انکار کر دیا کہ میں اس کو پڑھا سکتا ہوں، مگر اس نو عمری میں اپنے کو اس کا اہل نہیں پاتا ہوں، امہات کتب پڑھانے کے لئے علم کے ساتھ ساتھ علم و فقار بھی چاہئے۔

روزنامہ ”زمزم“ میں :- اسی درمیان مولانا فاروق قلیط صاحب نے مجھے لکھا کہ جلد آجائیے، سہ روزہ ”زمزم“ کو روزانہ کرنے کا پروگرام بن رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہ کر میرا ہاتھ بٹائیں، چنانچہ میں لا ہور چلا گیا، اور ۱۹۴۲ء سے مولانا مرحوم کی زیر نگرانی بلکہ زیر تربیت صحافت کے میدان میں قدم رکھا، مولانا میری صحافت کے استاذ ہیں، اور اخبار نویسی میں نے ان ہی سے سیکھی ہے، انھوں نے مجھے اپنا نائب بنایا، درمیان میں ان کا آرٹیکل ہوتا تھا، اور دائیں باسیں میرے نوٹ ہوتے تھے، عموماً دونوں سیاسی ہوتے تھے، اور مختصر سا اخلاقی و دینی مضمون ہوتا تھا، وہ زمانہ بڑے بحران کا تھا، ملک کی تقسیم کا مسئلہ چل رہا تھا، مسلم لیگ اور کانگریس میں سخت اختلافات تھے، ملک میں فسادات کا طوفان جاری تھا، اخلاق و انسانیت ختم ہو رہی تھی، ان احوال و ظروف کی مناسبت سے یہ اخلاقی و دینی مضامین ہوتے تھے، میں ان کو محفوظ کر لیتا تھا، اور بعد میں جب بسمی گیا تو ”اسلامی نظام زندگی“ کے نام سے ان ہی مضامین کا مجموعہ ایک مختصری کتاب کی صورت میں میری کتاب

بنا۔

جس طرح ”منتخب التفاسیر“ کی ترتیب کی ابتداء میں وہنی پریشانی تھی، اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اسی طرح ابتداء میں صافت کے میدان میں بھی راستہ نہیں ملتا تھا، مولانا فارقلیط نے اپنے مقابل میرے لئے میز، کرسی اور دیگر ضروریات کا انتظام کرایا، اور میں بیٹھا سوچتا تھا کہ کیا لکھوں؟ مولانا نے دوچار دن میری طرف سے سیاسی نوٹ لکھ کر شائع کئے، پھر اخبارات کی بعض سرخیوں پر نشان لگا کر کہا کہ اس کو پڑھ کر اس پر اپنی رائے لکھنے، اور اس کے ہر پہلو پر خوب غور کرنے کے بعد رائے ظاہر تکھی، جہاں تک خیال آتا ہے، میں نے سب سے پہلے نوٹ کا گنگر لیسی لیڈر مسٹر عبدالباری بہاری کے قتل پر لکھا تھا، ابتداء میں مولانا میرے نوٹ دیکھ کر کہتے کہ بہت اچھا ہے، مگر اس کو دوبارہ لکھنے، اور اس میں پھر کاٹ چھانٹ کرتا تھا، مولانا اس میں معمولی تبدیلی کر کے اشاعت کے لئے دیکھتے تھے، پھر ایک ہفتہ کے بعد کہا کہ اب مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، مضمون لکھ کر کتاب کے حوالے کر دیں۔

مولانا فارقلیط کا مشورہ:- صحافت و انشاء کی زبان کے بارے میں مولانا فارقلیط نے مجھے مشورہ دیا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی کتابوں کو پڑھنا چاہئے، مگر ان کا انداز اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے۔ ان کا اسلوب نگارش ان ہی کا حق ہے، البتہ ان کی کتابوں کے مطالعہ کے بعد اپنا اسلوب پیدا کرنے کی کوشش تکھی، عبدالماجد سالک، غلام رسول مہر، نصر اللہ خاں عزیز، ابوالاعلیٰ مودودی اور دوسرے مشاہیر اہل علم اور خود میں، سب نے مولانا آزاد کو پڑھ کر اپنا اپنا طرز اور اسلوب بنایا۔

چونکہ زمانہ طالب علمی سے مضامین لکھا کرتا تھا، اس نے صحافتی اسلوب میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، کسی اہم بات پر نوٹ لکھنا ہوتا تو مولانا اس کے بارے میں ہدایت اور مشورہ دیتے تھے، لاہور اور پنجاب کے مسلمان عام طور سے مسلم لیگ کے پر جوش حامی تھے، اور ”زمزم“، نیشنل سٹ اخبار تھا، اس کی پالیسی مسلم لیگ کے خلاف تھی،

اس نے مولانا فارقلیط بڑی سنجیدگی اور ممتازت سے لکھتے تھے، وہ نفیسات کے زبردست ماہر عالم تھے، انداز تحریر بھی پختہ اور دلاؤیز تھا، اس کے باوجود کبھی بھی سخت مخالفت کی صورت ہو جاتی تھی، راستہ چلتے مولانا کو مسلم لیگی کپڑا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ دفتر میں آؤ تو تفصیلی بات ہو، اسی ہنگامی دور میں ایک مرتبہ میں نے مسٹر محمد علی جناح کے خلاف ایک نوٹ لکھا، جس میں بعض سخت ترین جملے آ گئے تھے، جس پر بڑا ہنگامہ ہوا، مولانا نے مجھ سے کہا کہ اس نازک دور میں اس قسم کی تحریر سے پچنا چاہئے، معلوم ہوتا ہے کہ بھنگ کھا کر یہ نوٹ لکھا تھا، اور رات کو کہا کہ جائیے جلدی دروازہ بند کر لیں، شاید کہ سر پھرے حملہ نہ کرو دیں، ایک مرتبہ مولانا نے ”دریابادی کا فلسفہ خیر و شر“ کے عنوان سے مجھ سے ایک مضمون لکھوا یا، مولانا عبدالمadjed دریابادی نے ”صدق“ میں لکھا تھا کہ جن مولانا حسین احمد مدینی کی توہین و تذلیل کی جا رہی ہے، وہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور مجاہد و بزرگ مولانا حسین احمد مدینی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ان مولانا حسین احمد مدینی کی بات ہے جو سیاست میں گانگر لیں کے ساتھ ہیں، اور ایسے ویسے ہیں، یہ باتیں انہوں نے اپنے خاص اسلوب تحریر میں لکھی تھیں، اس کا جواب فارقلیط صاحب نے مجھ سے لکھوا کر اخبار میں شائع کیا تھا۔

”اصلاح“ کابل:- ”زمزم“ ایک مذہبی و اخلاقی، اور دو سیاسی نوٹ مستقل طور پر لکھتا تھا، اس کے علاوہ کابل کے روزنامہ ”اصلاح“ سے فارسی خبروں کا ترجمہ کرتا تھا، جو برید افغانستان کے عنوان سے شائع ہوتا تھا، اس میں پشتو اور فارسی میں خبریں اور مضامین ہوتے تھے،

علامہ محمد روچی:- علامہ محمد روچی سنیانگ (چینی ترکستان یا مشرقی ترکستان) کے عربی اور فارسی میں لکھے ہوئے مضامین کا ترجمہ کرتا تھا، ان کے متعدد مضامین کے ترجمے کئے، جن میں روس میں کمیونٹ حکومت کے مظالم کی، اور مسلمانوں کے ابتلاء کا بیان ہوتا تھا، اس کے علاوہ مستقل مضامین بھی لکھتا تھا، یہ

”نصیحت ہے یا فتنہ انگلیزی“، مولانا عبدالمadjد صاحب کا ”جدید فلسفة خیر و شر“ کے عنوان سے رابر نومبر ۱۹۲۵ء کے ”زمزم“ میں پورے دو کالم میں ایک مضمون لکھا، اس مضمون میں بڑی تیزی تھی، اور جواب ترکی بہتر کیا۔ ”جزائر شرق الہند کے تاریخی حالات“ کے عنوان سے ایک لمبا چوڑا معلوماتی مضمون ۱۵ اکتوبر ۱۹۲۵ء کی اشاعت میں لکھا، جس کو پڑھ کر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں سمائر کے ایک طالب علم محمد صابر نے مجھ کو خط لکھا اور ان معلومات کے بارے میں مزید تحقیق چاہی، انھوں نے اس سے پہلے اس موضوع پر مضمون لکھا تھا، ”علمی اور ذاتی تسلیف“، ”مردان کار کا قافلہ، منزل آزادی میں“ کے عنوان سے دو کالمی مضمون ۲۳ اکتوبر ۱۹۲۵ء کے شمارے میں لکھا، اسی طرح کئی اور مستقل مضمایں لکھے جن کو مولانا فارقلیط کی رہنمائی حاصل تھی۔

مولانا آزاد سے ملاقات: - ”منتخب التفاسیر“ کی جمع و ترتیب کے دوران مولانا ابوالکلام آزاد لاہور تشریف لے آئے، اس وقت وہ کانگریس کے صدر تھے، اور ترجمان القرآن جلد دوم کی طباعت کے لئے ”زمزم کمپنی لمبیڈ“ سے معاملہ کر رہے تھے، ”فلیپر“، ہوٹل میں قیام تھا، طباعت و اشاعت کے معاملات طے کرنے کے لئے مولانا فارقلیط اور مشی عبد الرحیم ان کے یہاں گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ ہوٹل کے سامنے بہت بڑا مجمع تھا، مختلف جماعتیں اور ان کے نمائندے اپنے اپنے حقوق و مقاصد کے لئے مولانا آزاد سے بات کرنا چاہتے تھے، ان میں ہجرتوں کا بھی ایک نمائندہ تھا جو اپنی پارٹی کے حقوق کے لئے بات کرنا چاہتا تھا، ہوٹل کا دو تین دروازہ طے کرنے کے بعد ہم لوگ مولانا کے پاس پہنچے، ہر دروازہ پر سفتری رہتے تھے، مولانا چارپائی پر کھادی کا کرتا پائچا جامہ پہنے ہوئے، ننگے سر بیٹھے ہوئے تھے، بڑے تپاک سے ملے، مشی جی نے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہاں ”منتخب التفاسیر“ لکھ رہے ہیں، مولانا نے کہا کہ بہت خوب، اللہ تعالیٰ جزا خیر دے، ترجمان القرآن کے سلسلے میں کہا کہ پہلا اڈیشن دو ہزار کا ہوگا، اس کا حق تصنیف پندرہ ہزار

روپے ہوگا، نصف پیشگی ہوگا اور قیمت اتنی ہوگی، دوسرے اڈیشن کے لئے آپ کو ترجیح دی جائے گی۔ کتابت میرے کاتب مشی عبد القیوم صاحب کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ مشی صاحب نے کہا کہ ہم الہلال کو دوبارہ جاری کرنا چاہتے ہیں، آپ وقتاً فوْقاً مضایں عنایت کر دیا کریں۔ مولانا نے کہا کہ میں اس کا وعدہ تو نہیں کرتا، مصروفیات تو زیادہ ہیں مگر اس کا خیال رکھوں گا۔ بات آئی، گئی، ہوئی، انداز گفتگو اندماز تحریر سے ملتا جلتا تھا، ”میرے بھائی“ کا جملہ بار بار دہراتے تھے، یہ مولانا آزاد سے میری پہلی ملاقات تھی، اس کے بعد ایک مرتبہ بھائی کے تاج ہوٹل میں جمیعۃ علماء کے وفد کے ساتھ ان کے دیدار و گفتار سے استفادہ کا موقع ملا، اور ایک بار جب وہ وزیر تعلیم تھے، رجال السند والہند کے سلسلے میں ان کو خط لکھا تھا، جس کا جواب پروفیسر اجمل نے دیا تھا۔

اسی وقت مولانا آزاد نے ”غبار خاطر“ کی طباعت و اشاعت کا انتظام کیا، عبد الجید سالک اور غلام رسول مہر سیاسی اختلاف کے باوجود مولانا کے پرستاروں می سے تھے، انھوں نے اس کے لئے کاغذ طباعت وغیرہ کا انتظام کیا، اس زمانے میں دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے بڑی مشکلات تھیں، میں نے ”غبار خاطر“ کا مولانا کے ہاتھ کا لکھا ہوا مسودہ دیکھا، ہاتھ میں رعشہ کا اثر ظاہر تھا، اور جگہ جگہ نظر ثانی تھی۔

مولانا کے کاتب خاص مشی عبد القیوم صاحب خطاط مراد آبادی دفتر ”زمزم“ میں رہ کر ترجمان القرآن کی کتابت کرتے تھے، وہ مکلتہ میں بھی مولانا کی کتابیں لکھا کرتے تھے، اور مولانا کے واقعات بیان کرتے تھے، دو ایک واقعات درج کئے جاتے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ مکلتہ میں بعض اوقات مولانا سخت تنگی میں بنتا ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ بھلی کا کٹنکش کاٹ دیتے تھے، اور دو آنے کا باہر سے کتاب اور روٹی منگا کر وقت گزار لیتے تھے، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ترجمان القرآن لکھتے وقت اصحاب کھف کے غار کا جو نقشہ بیان کیا تھا، اس سے مجھے اختلاف ہوا، اور میری سمجھ میں بات

نہیں آئی، میں نے مولانا سے اس کا تذکرہ کر کے ان کو بتایا کہ یوں نہیں یوں ہونا چاہئے، مولانا کمرے سے باہر چن میں آئے، اور زمین پر نقشہ بنایا، اور میری بات کی تصدیق کی، اور کتاب میں فوراً ترجمہ و تفسیح کر دی۔ ترجمان القرآن کے مطبوعہ فرمے کی ہم لوگ تصحیح کرتے تھے۔ ۱۶ صفحے کے ایک فرمے پر ایک روپیہ ملتا تھا، مشی صاحب نے بتایا کہ ترجمان القرآن کی پہلی جلد کی کتابت میں نے کی تھی، جو مذینہ پریس بجنور میں چھپی تھی، اس کے مطبوعہ فرمے مولوی مجید حسن صاحب مالک اخبار مدینہ نے مولانا آزاد کو پڑھنے اور تصحیح کرنے کو بھیجا تو مولانا نے اس میں اس قدر کاٹ چھانٹ اور اس قدر زیادہ اضافہ کر دیا کہ دوبارہ کتابت کرانی پڑی، اس کے بعد مولانا کے پاس نہیں بھیجا، کیونکہ وہ پھر اس میں پہلے کی طرح حک و اضافہ کرتے اور دوبارہ کتابت کرانی پڑتی۔

یہ بات صرف مولانا آزاد ہی کی نہیں ہے، بلکہ ہر مصنف اور مضمون نگار جب اپنی تحریر کو دیکھتا ہے تو اس میں حک و اضافہ کرتا ہے، اسی لئے کاتب اور مصنف میں ان بن رہتی ہے، مصنف اپنی کتاب کو آخری حد تک کامل و مکمل کرنا چاہتا ہے اور کاتب پہلا مسودہ لکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔

مولانا فارقلیط:- میں چند دنوں کے بعد لاہور کی ادبی فضائے مانوس ہو گیا، خاص طور سے وہاں کے شعراء و ادباء اور صحافیوں سے تعلقات ہو گئے، مولانا فارقلیط صاحب بہت کم آمیز آدمی تھے، عربی کے عالم ہونے کے ساتھ انگریزی سے اچھی طرح واقف تھے، ان کو علم النفس (سانکلپی) سے خاص تعلق تھا، اس فن کی انگریزی کتابیں خریدتے اور خوب پڑھتے تھے، حدیث کی کتاب ریاض الصالحین ہمیشہ مطالعہ میں رکھتے تھے، مسلکا اہل حدیث تھے، فنا حداد (لوہار) تھے، وطن پلکھوہ ضلع میرٹھ تھا۔ ۱۹۰۴ء کی پیدائش تھی، قیام لاہور کا پورا زمانہ ان ہی کے ساتھ گزر رہے، اندر وہ بھائی گیٹ کی مبارک منزل میں وہ پہلے منزلہ پر بال بچوں کے ساتھ رہتے

تھے، میں بیچ ایک کمرہ میں رہتا تھا، اسی کے پاس مرکز تنظیم اہل سنت کا دفتر بھی آگیا تھا، دفتر میں میری میزان کی میز سے متصل ہوئی تھی، ان کے بارے میں مزید باتیں آئندہ لکھوں گا۔

احسان داشت:- ان کے بعد سب سے زیادہ تعلق حضرت احسان داشت سے تھا، زمانہ طالب علمی میں مراد آباد میں ایک ادبی رسالہ میں ان کی غزل چھپی تھی، جس کا مطلع یہ تھا۔

احسان وہ دن یاد آتے ہیں جب کیف تھا حاصل جیئے میں
آنکھوں میں تسم رقصائ تھا، ارمان بھرے تھے سینے میں
اس پوری غزل کو میں نے بار بار پڑھا اور اس سے متاثر ہوا، اس کے چند مہینے کے بعد شبیل کا لحاظ گڈھ میں آل انڈیا مشاعرہ ہوا، جس میں احسان داشت صاحب بھی آئے تھے، میں اسی سال فارغ ہوا تھا، دوستوں کے ساتھ مشاعرہ سننے کے لئے گیا۔ جس میں انہوں نے اپنے خاص ترجم اور مخصوص انداز میں ”جشن بیچارگی“ سنائی، جس میں ایک مزدور کی لڑکی، کی خصیتی کا منظر تھا، یہ ان کی خاص نظم تھی، جس کو سما میں کے اصرار پر دوبارہ سنایا، ایک غزل بھی پڑھی جس کا مطلع یہ تھا۔

پرش غم کا شکر یہ کیا تھے آگئی نہیں ترے بغیر زندگی درد ہے، زندگی نہیں
اس نظم اور غزل کو سن کر ہم لوگوں نے وہیں ان کی دو کتابیں ”نوائے کارگر“ اور ”آتش خاموش“ خریدی، اور لاکر خوب خوب ان کو سنتے سناتے تھے، مناظر قدرت کی عکاسی، تشبیہات، اشارات، کنایات اور تمثیلات ان کی شاعری کی امتیازی خصوصیات تھے، میں ان سے متاثر بلکہ مرعوب تھا، ایک مرتبہ لاہور میں ایک مکتبہ میں ان کو دیکھا مگر تعارف نہ ہونے کی وجہ سے نہ مل سکا،

علامہ انور صابری کے ذریعہ تعارف:- اسی درمیان علامہ انور صابری مرحوم لاہور آئے، ان کا قیام دفتر احرار اسلام میں تھا۔ وہ ہماری طالب علمی کے دور

میں مبارکپور کے سیاسی و قومی اور دینی جلسوں میں آیا کرتے تھے، بعد میں وہ مہینوں مہینوں مبارکپور مدرسے میں پڑے رہتے تھے، اور ہم لوگوں کی محفلیں جتنی تھیں، اخبار ”زمزم“ کی پیشانی پر یہ شعر انہی کا تھا۔ جس کے پیتے ہی ہلکیں مومن پہ اسرار حیات دین ابراہیم کی وہ میں اسی ”زمزم“ میں ہے

اسی لئے وہ جب بھی لاہور آتے تو ”زمزم“ کے دفتر میں ضرور آتے، جب وہاں پہنچا تو اس میں مزید اضافہ ہو گیا، پہلی بار لاہور میں ملے تو مجھے وہاں کے اکثر شاعروں، ادیبوں اور صحافیوں سے ملا یا، ایک تانگہ طے کیا اور کئی گھنٹے تک اسی پر لوگوں سے ملتے رہے۔ احسان دانش سے مل کر ان سے میرا تعالیٰ بڑے شاندار الفاظ میں کرا ریا، اور یہ کہ یہ شخص عربی کا زبردست عالم ہے۔ عربی سے اردو ترجمہ کرنے میں ماہر ہے، اسی قسم کے جملے کہے، اور احسان صاحب نے مجھ سے کہا کہ استاد ہمارے یہاں آیا کرو، ہمارے یہاں کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں۔ وہ سب کو ”استاد“ کہتے تھے، اور ہم سب ان کو استاد کہتے تھے، اس کے بعد احسان صاحب سے اتنا زیادہ ربط ضبط بڑھا کہ دن میں جب بھی موقع ہوتا ”مزنگ“ گندم منڈی میں ان کے یہاں چلا جاتا تھا، اور یہ معمول تھا کہ رات کو ”مزنگ“ میں احسان صاحب کے یہاں ہم لوگ جمع ہوتے، اور گیارہ بجے وہاں سے واپس آتے، یہ آمد و رفت بیدل ہوا کرتی تھی۔

ہم عصر شعراء:- یہاں ایک مختصر ساختہ احباب بھی پیدا ہو گیا تھا، جس میں سب شاعری کرتے تھے، عشرت کر پوری، اظہار اثر کر پوری، سردار ہر بنی سنگھ باغی، شیو پرساد بہار لکھنؤی، ہم پانچ شعراء اکثر ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور جب بھی فرست ملتی، شعری محفل جم جاتی تھی، عشرت اور اثر انارکلی بازار میں ”کرناں شباب“ جوتے کی دوکان میں ملازم تھے، شیو پرساد بہار لکھنؤی، شاہ عالمی گیٹ کے پاس ٹالٹا کمپنی میں ملازم تھا۔ ہم لوگ اکثر ہوٹل میں ایک ساتھ کھاتے پیتے تھے، ان میں

عشرت کر پوری سے خاص تعلق تھا، اس میں بڑا خلوص تھا، کبھی کبھی اتوار کی رات میں میرے یہاں آ کر سو جاتا تھا، تقسیم کے بعد ایک مرتبہ مبارکپور بھی آیا تھا۔ اس نے ”کاکل“ کے نام سے صحیح بنا رس پر نظموں کا ایک مجموعہ شائع کیا ہے، جس میں میری بھی ایک نظم ہے، لاہور میں ہم لوگ ایک ساتھ مشاعروں میں شریک ہوتے تھے، اور واپسی پر ایک دوسرے کو اس کی قیام گاہ پر پہنچاتے تھے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ سب مجھے پہنچانے آتے تھے، اور پھر میں ان کو پہنچانے جاتا۔ اور وہ پھر مجھے پہنچانے آتے تھے، اس طرح رات کا اکثر حصہ حق رفاقت کی نذر ہو جاتا تھا، شیو پرساد بہار کا ایک شعراب تک یاد ہے۔

زمانہ بھر کی تکلیفوں سے چھوٹے نفس بہتر رہا کچھ آشیاں سے
انارکلی بازار، پیسہ اخبار اور موہن لال روڈ سب قریب قریب تھے، انارکلی بازار
کے شہابی سرے پر گنپت روڈ میں مکتبہ دانش تھا، جہاں احسان دانش دن میں اکثر آیا
کرتے تھے، انھوں نے اسی دکان میں اوپر لکھنے پڑھنے کا انتظام کیا تھا۔

علامہ تاجور نجیب آبادی:- شمس العلماء مولانا احسان اللہ خاں تاجور نجیب
آبادی اور مولانا وارث کامل بھی وہاں آیا کرتے تھے، احسان صاحب مولانا وارث
کامل سے ”تاریخ مجاہدین اسلام“ مرتب کر رہے تھے، جن سے میری ملاقات ہر
وقت ہوا کرتی تھی، بعد میں وہ ”غنجہ“ بجنور (بچوں کا رسالہ) کے اڈیٹر ہوئے، مولانا
تاجور نجیب آبادی، شکر دیوال کالج میں پروفیسر تھے، ان سے یہیں مکتبہ دانش گنپت روڈ
میں اکثر ملاقات ہوتی تھی، کبھی کبھی میں، عشرت اور اظہار اثر ان کے مکان پر جایا
کرتے تھے، بڑے بے تکلف اور سادہ مزاج عالم، پروفیسر اور شاعر بلکہ استاذ الشعراء
تھے، ایک مرتبہ بالتوں بات میں کہنے لگے کہ بعض اوقات مشاعروں میں مجھے جھگک
اور مرعوبیت کا احساس ہونے لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ دارالعلوم کی روٹی کا اثر ہے،
(موصوف دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے)

ظفر ملتانی:- احسان صاحب بے تکلفی میں اپنے ذوق کے مطابق اپنے مصاہبوں اور دوستوں کا بھی نام تجویز کیا کرتے تھے، بھیم سین ظفر ملتانی ان کے خاص شاگردوں میں تھے، انھوں نے احسان صاحب کے اقوال و آراء کو جمع کر کے شائع کیا تھا، وہ موٹے سیاہ رنگ کے آدمی تھے، احسان صاحب ان کو ”اللہ میاں کی بھیس“، کہا کرتے تھے، ظفر بعد میں دہلی آگئے تھے، احسان پر کچھ لکھ رہے تھے، مجھے بھیں لکھا کہ کوئی مضمون بھیجئے، مگر جلد مر گئے، مجھ کو ”ہمارا قاضی چلتا پھرتا انساں کلو پیدیا“، کہتے تھے، عشرت کو ”کا بک سے جھانلتا ہوا کوتور کا بچہ“ سے تشیید دیتے تھے، ہم لوگوں نے کبھی احسان صاحب کو شاعری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، شاعر مزدور تھے، مزدوروں کی سی زندگی بسر کرتے تھے، ان کے پاس کبھی کسی بڑے آدمی کو آتے جاتے نہیں دیکھا، نماز کے سخت پابند تھے، اور بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے، ایک مرتبہ جعرات کی شام کو مزدگی کیا، احسان صاحب مصلی پر بیٹھے تھے، سامنے شیرینی تھی، اور اپنی والدہ مرحومہ کیلئے ایصال ثواب کر رہے تھے، مجھے بھی ایک عدد شیرینی دی، میں نے لینے سے انکار کیا تو کہا کہ استاد! مولوی الیاس (بانی جماعت تبلیغ، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب) میرے بچا ہوتے ہیں، میں فاتحہ اور چادر قوالی والوں میں سے نہیں ہوں، انھوں نے مولاناوارث کامل سے ”تاریخ مجاہدین اسلام“ ابوسعید بزمی سے ”تاریخ انقلابات عالم“ اور مجھ سے ”علمائے اسلام کی خونیں داستانیں“ لکھوائی تھیں، جن کا ذکر آئندہ آئے گا، احسان داش صاحب نے ایک مرتبہ اپنی والدہ کا مرثیہ ”گورستان“ پورا پڑھ کر ہم لوگوں کو سنایا تھا، انھوں نے بعض ان بلڈگوں کو دکھایا، جن میں انھوں نے مزدوری اور گارامٹی کی تھی، اپنے بچپن کے عجیب عجیب واقعات سناتے تھے، اور لاہور آنے کے بعد کئن حالات سے گزرے، اور شعروادب کی فضایں کیسے آگے بڑھے، یہ سب باتیں بیان کرتے تھے۔

شاغ عالمی گیٹ آسٹریلیا مسجد کے قریب جنوب میں رسالہ ”بیسویں صدی“ کا

دفتر تھا، اس کے پاس ہی مسجد ”یک شی“ تھی، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا۔
مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے
من ان پر اپانا پاپی ہے، رسول میں نمازی بن نہ سکا
غازی خاں کا بیوی:- ”بیسویں صدی“ میں غازی خاں کا بلی مشہور شاعر ملازم تھا، ان سے ملاقات کیلئے میں اکثر جایا کرتا تھا، وہ بڑے بے تکلف سیاسی شاعر تھے، بعد میں پختونستان کی تحریک میں شریک ہو کر اس کے صدر ہو گئے تھے، اور میرے قیام بمبئی کے زمانہ میں بمبئی میں اس کا اجلاس کیا، جس کا خطبہ صدارت مجھ سے لکھوا یا، اس وقت میں جمعیۃ علماء کے دفتر وزیر یا لڈنگ میں رہتا تھا۔

مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری وغیرہ:- دفتر احرار اسلام میں اکثر جاتا تھا، اس کے اراکین سے خاص تعلق تھا، حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری، قاضی احسان احمد شجاع آبادی، جانباز مرزا امر تسری، مولوی مظہر علی اظہر اور علامہ انور صابری وغیرہ، اکثر یہاں جمع ہوتے تھے، ”دفتر احرار“ کے اوپر ایک اور دفتر تھا، جس کے لمبے چوڑے بورڈ پر ”بھجن چار سو بیساں“ لکھا تھا، حضرت شاہ صاحب کی مجلس بڑی پُر کیف ہوتی تھی، بڑی بے تکلفی سے احباب میں گھلے مل رہتے تھے، اور مزے لے لے کر اشعار سناتے تھے، ایک شراب تک یاد ہے، جسے جھوم جھوم کر دیریک پڑھا کرتے تھے، لپکتا ہی رہا خون شہیداں

مولانا احمد علی لاہوری:- جمع کی نماز اکثر اجمن خدام الدین شیر انوالہ میں پڑھتا تھا، مولانا احمد علی لاہوری سے نیاز حاصل ہوتا تھا، وہاں پہنچ کر اپنا دینی و علمی ماحول ملتا تھا، ان کے صاحبزادے مولانا عبد اللہ صاحب سے بھی تعلق تھا، زمانہ طالب علمی میں ہم لوگ ان جمن خدام الدین کی طرف سے شائع ہونے والے مولانا احمد علی صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر میں پنجابی نہ ہوتا تو یہاں کے لوگ مجھے مار

ڈالتے، کیونکہ حق گوئی و بے باکی میں مشہور تھے، اور ان کے مخا نفین بہت زیادہ تھے۔

علامہ محمد روحی سنکیانگ : - اسی زمانہ میں سنکیانگ (مشرقی ترکستان) کے ایک عالم علامہ محمد روحی سے ملاقات ہوئی، ۱۹۱۲ء میں چین اور روس کے درمیان مشرقی ترکستان (سنکیانگ) میں وہاں کے مغل نسل کے خلق مسلمانوں نے جمہوریہ اسلامیہ قائم کی، علامہ عبدالقدیر آرنوٹی صدر، اور علامہ مبشر طرازی وزیر ہوئے، ان ہی میں علامہ محمد روحی بھی شامل تھے، مگر چند سال کے بعد (غالبًاً ۱۹۱۷ء) میں چین نے اس پر قبضہ کر لیا، اور یہ حضرات وہاں سے ہجرت کر کے افغانستان چلے آئے، انگریزوں کے اشارے پر شاہ افغانستان نادر شاہ نے ان کو گرفتار کر کے نظر بند کر دیا، اور چودہ سال کے بعد رہائی نصیب ہوئی، مبشر طرازی سعودی عرب، مصر وغیرہ چلے گئے، جن کے صاحزادے عبد اللہ مبشر طرازی ہیں، جو فی الحال سعودی عرب میں جامعۃ الملک جدہ میں معلم ہیں، اور پاکستان کی تاریخ دوجلوں میں عربی میں لکھی ہے، اور مجھے ہدیہ کی ہے، ان سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے، وہ روی، عربی، فارسی اور اردو کے عالم ہیں۔ علامہ محمد روحی لاہور آگئے، سخت بدحالی و پریشانی میں بیتلار رہتے تھے، روس کی کمیونسٹ حکومت کے مظالم پر عربی اور فارسی میں مضامین لکھتے تھے، اور اس کا ترجمہ کر کے ”زمزم“ میں شائع کرتا تھا، اس کا ان کو مختصر ساماواضہ ملتا تھا، اکثر دفتر میں آتے تھے، میں نے ان سے روی اور یغیری زبان پڑھنی شروع کی، مگر چند اسابق سے آگئے بڑھ سکا، پھر معلوم نہیں وہ کہاں تشریف لے گئے۔

نصر اللہ خاں عزیز : - مولانا فارقلیط صاحب اور ملک نصر اللہ خاں عزیز بی، اے دونوں کسی زمانہ میں ” مدینہ“ بجنور کے مدیر تھے، ”زمزم“ کے اڈیٹر ملک نصر اللہ خاں عزیز تھے۔ باہمی اختلافات ہوئے تو وہ عبد الجید سوہبدی کے اخبار ”مسلمان“ کے اڈیٹر ہو گئے، اور مولانا فارقلیط ”زمزم“ میں رہے، اور دونوں میں میرے اشعار چھپتے تھے، مولانا فارقلیط، ملک صاحب سے ملنے کیلئے اکثر تھانے گاؤں منڈی

جا یا کرتے تھے، میں بھی ساتھ ہو جاتا تھا، ملک صاحب بڑے تپاک اور محبت سے ملتے تھے، ایک روز انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں کیا بات ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب مسٹر مذہب کی طرف آتا ہے تو مولوی ملا کو ماند کر دیتا ہے، اور جب مولوی ملا روش خیال بنتا ہے تو الحاد و بدینی کی راہ اختیار کرتا ہے۔ ملک صاحب کی والدہ قادریانی تھیں، وہ ان کو ماہ بہماہ خرچ دیا کرتے تھے۔

علامہ عنایت اللہ مشرقی بانی خاکسار تحریک کو ایک مرتبہ پیسے اخبار میں دیکھا تھا۔ اسی طرح مولانا فارقلیط کے ساتھ ایک مرتبہ لارنس گارڈن (جناح باغ) میں مولانا ظفر علی خاں کو ٹھہرئے ہوئے دیکھا تھا، اس وقت وہ بڑھاپے کی آخری منزل میں تھے۔

مولانا حبیب الرحمن : - لاہور میں ایک عالم مولانا حبیب الرحمن صاحب مولانا سلمان منصور پوری مصنف ”رحمۃ اللعلمین“ کے سنتھج تھے، وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ فیروز پور میں میرا کتب خانہ ہے، وہیں چل کر تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری کیا جائے، جھنگ کالج کے پروفیسر خاں عبد الجید خاں ملک ”جدید آلات جنگ“ اپنی کتاب کی طباعت کے سلسلے میں لاہور آتے، اور دفتر ”زمزم“ میں قیام کرتے تھے، ان سے تعلقات وسیع ہوئے تو انہوں نے بار بار تقاضا کیا کہ آپ انگریزی پڑھ لیں، پڑھنے پڑھانے کا انتظام میں کروں گا، پاس میں کراؤں گا۔ اور اپنے کالج میں ملازمت دلاؤں گا، جناب ابوسعید بزمی کہا کرتے تھے کہ آپ تھوڑی انگریزی زبان حاصل کر لیں تو آپ کی قیمت دو گناہ ہو جائے گی، احسان دانش صاحب نے تصنیف و تالیف کے لئے ایک ادارہ قائم کرنے کا پروگرام بنایا تھا تاکہ ہم لوگ وہاں اطمینان سے کام کریں۔ اس کیلئے انہوں نے نواب باغپشت (غالباً جمشید علی خاں) کو لکھا، اور انہوں نے اس کے لئے اپناباغ اور بگھے پیش کیا، مگر ان سے کوئی کام نہیں ہو سکا، نیلے گنبد کی مسجد میں مدرسہ اشرفیہ تھا، میں وہاں بھی اکثر جایا کرتا تھا۔

میوپل لاہوری سے کتابیں : - میں لاہور کی میوپل لاہوری کی فیض

داخل کر کے وہاں سے کتابیں لا کر پڑھتا تھا، اور ان سے مضماین نقل کرتا تھا۔ اسی سے پہلی بار طبقات الشافعیہ الکبریٰ اور تاریخ ابن عساکر پڑھی، اور ان دونوں کتابوں کے اقتباسات نقل کئے، جو میری کتاب ”اممہ اربعہ“ میں کام آئے، اس کتاب میں ان دونوں کے جتنے حوالے ہیں، وہ سب ان ہی اقتباسات سے ہیں، جن کو میں نے محفوظ کر رکھا ہے۔ اور طبقات الشافعیہ الکبریٰ کو بعد میں خریدا، اس لاہریٰ سے امام احمد بن حنبل کے حالات میں ایک کتاب مطبوعہ یورپ لے کر پوری کتاب نقل کر لی، غالباً جرمن یا فرنچ زبان میں اسکے تعلیقات و حواشی تھے۔ اس کتاب کے مندرجات بھی ”اممہ اربعہ“ میں آگئے ہیں، مجھے اسی زمانہ میں یہ احساس ہوا کہ امام احمد بن حنبل کے حالات و سوانح پر اردو میں نہ ہونے کے برابر کام ہوا ہے، اس لئے ان کی مفصل سوانح لکھنے کی ضرورت ہے، اعظم گذھ میں ”سیرۃ النعمان“ اور ”حیات امام مالک“، لکھی گئی ہیں، یہیں سے حیات امام احمد بن حنبل بھی لکھی جانی چاہئے، اور ”افادات امام احمد بن حنبل“ کے نام سے بعد میں ایک کتاب بھی میں کتابت کرائی جو کتابت شدہ اب تک میرے پاس محفوظ ہے، نہ وہ شائع ہو سکی اور امام صاحب کی مستقل سیرت لکھ سکا، البته ”اممہ اربعہ“ میں ان کے مختصر حالات آگئے ہیں۔

خریداری کتب:- اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق کتابیں خریدتا تھا، اور جمع کرتا تھا، انارکلی بازار سے اتوار کے دن پرانی کتابوں کے ڈھیر سے ”الامعan فی اقسام القرآن“، ”ابن قیم اور“ الصراع بین العلم والدین“، ”خریدی“، یہ کتاب غالباً ڈریپر کی انگریزی کتاب کا عربی میں ترجمہ تھا، جس کا اردو ترجمہ مولانا ظفر علی خاں نے ”معرکہ سائنس و مذہب“ کے نام سے کیا، اور میں نے فراغت کے بعد لکھنؤ کے نحاس بازار سے خریدا تھا، ”الامعan“ بعد میں مولانا عبد الحفیظ بلیاوی نے مطالعہ کے لئے طلب کی، اور میں نے ان کو دے کر واپس نہیں لی، اور ”الصراع بین العلم والدین“ کہیں کرم خورده پڑی ہے، (رجب ۱۴۲۵ھ - ۱۹۰۷ء) میں ابن بختی کا دیوان

”الحماسه“، مطبوعہ حیدر آباد خریدا، اس سے پہلے شعبان ۱۳۶۲ھ میں ”تہذیب التہذیب“، ”ابن حجر جو بارہ جلدیوں میں حیدر آباد میں چھپی گئی، اس وقت اس کی قیمت تمیں روپیہ تھی، کشمیر کی تاریخ اعظمی اور شیخ علی ہجویری کی ”کشف المحجوب“، بھی خریدی، اس وقت ”منتخب الفتاویں“، جمع کر رہا تھا، ”تہذیب التہذیب“ کی ایک جلد زمانہ طالب علمی میں ”قائد“، مراد آباد میں ”اممہ اربعہ“ پر مضمون لکھنے کے دوران مولانا عبدالرحمن محدث مبارکپوری کے کتب خانہ سے عاریتاً لے کر استفادہ کیا تھا، اسی زمانہ سے اس کے خریدنے کا شوق تھا، قیمت بھی غالباً ۱۲ روپیہ تھی، مگر اس کی باری لاہور جانے کے بعد آئی، اور اس کتاب سے میں نے اپنی تصانیف میں خوب خوب استفادہ کیا۔

مولانا فارقلیط صاحب مجھ کو کتابیں لکھنے کی بار بار تاکید کرتے تھے، اور میں کہتا تھا کہ ذرا فرست ملے تو اس کی طرف توجہ دوں، ایک مرتبہ انھوں نے کہا کہ اگر آپ فرست کے انتظار میں رہیں گے تو کبھی فرست نہیں ملے گی، کاموں کے ہجوم میں کام ہوتے ہیں، اور انھوں نے یورپ کے ایک مصنف کا واقعہ بیان کیا جو بہت معمولی زندگی بسر کرتا تھا، اور مزدوری پر اس کی بسراوقات ہوتی تھی، اس کے باوجود وہ رات کو لکڑی کے صندوق پر چراغ رکھ کر کچھ لکھا کرتا تھا، اس طرح اس نے ایک ناول تیار کی، اور پبلیشوروں کے پاس لے گیا، مگر جس نے دیکھا مذاق اڑایا، اور مسودہ واپس کر دیا، ایک پبلشر نے اس پر حکم کھا کر اس کا ناول چھاپ دیا تو وہ اس قدر مقبول ہوا کہ کئی ایڈیشن شائع کرنے پڑے، اس کے بعد اس آدمی کی قدر و قیمت اتنی بڑھ گئی کہ وہ مشہور ناول نگار تسلیم کیا گیا۔

الصالحات:- ادھر احسان صاحب، ابو سعید بزمی، مولانا وارث کامل، اور مجھ کو کتابیں لکھنے پر ابھار رہے تھے، چنانچہ میں نے اس کی طرف توجہ کی، ابتداء میں ایک چھوٹا سار سالہ ”الصالحات“ کے نام سے لکھا، جس میں صحابیات رضی اللہ عنہن

کے چھوٹے چھوٹے واقعات جمع کئے، اور اس کو اشاعت کے لئے محمد عارف مالک ملک دین اینڈ سنر تا جران کتب کشمیری بازار لا ہور کو دیا، انہوں نے پچاس روپیہ میں گویا یہ رسالہ مجھ سے خرید لیا، اور ایک تحریک صوائی، زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ اپنی پہلی کتاب پر رائٹنگ یا قیمت ملی، اور وہ کتاب غالباً چھپ نہ سکی، اس کے بعد میں نے اپنی علمی کاؤش کو فروخت نہیں کیا، وہ تحریر یہ ہے،
باعث تحریر ایں کہ

مبلغ پچاس روپے نصف جس کے کچھیں روپے ہوتے ہیں، بابت حق تصنیف و طباعت دائیٰ مسودہ کتاب ”الصالحات“ جو میرا تصنیف کر دہ ہے، فرم ملک دین محمد اینڈ سنر تا جران کتب لا ہور سے وصول پائے، اقرار ہے کہ میں اس مسودہ کو نہ خود طبع کروں گا، اور نہ اس کے طبع کرنے کی کسی پبلشر یا تاجر کتب کو اجازت دول گا۔ لہذا یہ رسید لکھ دیتا کہ سندر ہے۔

اطہر مبارکپوری ”مدیر اخبار زمزم“ لا ہور، ۱۴۲۷ھ

علمائے اسلام کی خونیں داستانیں:- احسان دانش صاحب کے اصرار و مشورہ پر ”علمائے اسلام کی خونیں داستانیں“، لکھی، جو پہلی صدی ہجری سے موجودہ دور تک اسلامی تحریکوں اور ان میں علماء پر ہونے والے مصائب کو بیان کیا تھا، پہلے ہر صدی میں پیدا ہونے والی تحریکوں اور فتنوں کا اجمالی ذکر تھا، اس کے بعد ان علماء کے کردار اور ان پر ہونے والے مظالم کی تفصیل تھی، یہ کتاب میں نے بڑے اہتمام سے مرتب کی تھی، اور احسان صاحب بھی بڑے اہتمام سے اس کی عبارت وغیرہ درست کرتے تھے، پورا مسودہ ان کی نظر سے گذر اتھا، اور زبان و بیان کی درشتگی کی تھی، اس کی اشاعت کا انتظام انہوں نے خود کیا تھا، اس سلسلہ میں ہمارے مابین یہ تحریر ایک روپیہ کے کاغذ پر لکھی گئی۔

معاہدہ بابت علمائے اسلام کی خونیں داستانیں
قاضی اطہر مبارکپوری ولد حاجی محمد حسن صاحب ساکن مبارکپور ضلع عظم گذھ
حال وارد لا ہور کا ہوں، اور اپنی کتاب ”علمائے اسلام کی خونیں داستانیں“ کا
مسودہ جناب احسان دانش صاحب نیجبر دانش گاہ پنجاب مزگ لاهور کو مندرجہ
ذیل شرائط پر ایک ایڈیشن کے اختتام تک حقوق منتقل کر رہا ہوں۔
۱۔ حق تصنیف کے طور پر کتاب چھپنے کے بعد تین سو جلدیں مجھے دی جائیں
گی۔

۲۔ یہ ایڈیشن دو ہزار کا ہوگا۔

۳۔ دوسرے ایڈیشن کیلئے احسان دانش صاحب کو ترجیح دی جائے گی۔

العبد، قاضی اطہر مبارکپوری

اسٹنٹ ایڈیٹر روز نامہ ”زمزم“ لا ہور۔ ۱۱ اپریل ۱۹۲۷ء

اس کتاب کے انجام کی داستان خود احسان صاحب اپنی کتاب ”جهان دانش“ (خود نوشت سوانح) کے ص ۲۶۷ پر یوں درج کی ہے:
اول سے میری آرزو تھی کہ کسی طرح ایک معیاری قسم کا تصنیف و تالیفی ادارہ قائم کیا جائے، جس میں ادب عالیہ کی اشاعت ہو، اور موقع کی بنا پر اس کا آغاز بھی کر چکا تھا، لیکن جو میں چاہتا تھا، وہ ڈول نہیں پڑ سکا، اس کے باوجود میں نے ابو سعید بزمی سے دو جلدیوں میں ”تاریخ انقلابات عالم“، لکھوائی، اور مولاناوارث کامل سے تین جلدیوں میں ”تاریخ مجاہدین اسلام“ مرتب کرائی، اور اس کے بعد قاضی اطہر مبارکپوری سے ”علمائے اسلام کی خونیں داستانیں“ مکمل کرائی۔

اس کے بعد احسان صاحب لکھتے ہیں:

”تاریخ انقلابات عالم“ یہ کتاب شیخ نیاز احمد صاحب کو پر لیں ہی

سے اونے پونے اٹھوادھی، ”تاریخ مجاہدین اسلام“، بقدر معاوضہ رسیدیں دیکھ کر آغا شورش کا شمیری لے گئے، ”علمائے اسلام کی خونیں داستانیں“، اسی صفات کم ہونے کے باعث ہنوز کتابت شدہ میرے پاس موجود ہے۔“ تقریباً ساڑھے چار سو صفحات تک اس کی کتابت ہو چکی تھی، میں نے مسودہ کا معتمدہ حصہ احسان صاحب کے پاس رکھ دیا، پھر باقی حصہ اس خیال سے لے کر وطن چل دیا کہ واپسی کے بعد باقی حصہ دے دوں گا، مگر تقسیم ملک کا وہ طوفان اٹھا کہ میں نہ لا ہو رجاسکا اور نہ مسودہ روانہ کر سکا، یہ حصہ آج تک میرے پاس محفوظ ہے، ایک مرتبہ احسان صاحب ایک مشاعرہ میں بمبی آئے اور کئی روز تک رہے، بار بار میں ان سے ملتا تھا اور وہ میرے کمرے میں آتے تھے جب اس کی کتابت کی بات نکلی تو کہا کہ کتابت شدہ کا پیاس میرے پاس محفوظ ہیں، ان کوڈاک سے نہیں بھیجا جاسکتا ہے، مرحوم نے ”تاریخ انقلابات عالم“ اور ”علمائے اسلام کی خونیں داستانیں“ اور بعض دوسری کتابوں کے اشتہار دوور قہ پیفلٹ پر بلاک بنو کر بڑے اہتمام سے چھاپا تھا اور ان کتابوں کی خوب خوب تشبیر کی تھی، میری کتاب کا اشتہار پورے صفحہ پر یہ تھا،

”علمائے اسلام کی خونیں داستانیں“

از:- قاضی اطہر مبارکبوری

تاریخ و رجال کی صدہا نادر و نایاب کتابوں کا نچوڑ، اس صدی کے اسلامی اور سیاسی لڑپر میں غیر فانی شاہر کارکا اضافہ، آغا ز اسلام سے لے کر موجودہ دور تک تاریخ کے خونیں اور اراق کا الجم، ہر صدی کی ابتداء میں فتنوں اور تحریکوں کا تجزیہ، اور علماء کے مختصر حالات و اہم واقعات جو تاریخ میں ہمیشہ تابان و درختان رہیں گے، جابر بادشاہوں، ظالم امیروں، ضمیر فروش پیشواؤں اور جاہل عوام کے ناروا سلوک اور سفرا کیوں کی جیتی جاتی تصویریں، قید خانوں کی گھری تاریکیوں، طوق و زنجیر کی مہیب

جنہنکاروں، دارورسن کی جانگداز گرفتوں، اور درزوں کی دردناک آوازوں میں صداقت کی مسکراہٹ، بے گناہوں کی سینہ سپری، حق گوئی و بے با کی اور سچے مسلمانوں کی عزیمت کے بولتے چالتے خاکے، قیمت: پانچ روپے مجلد: چھ روپے ”منتخب التفاسیر“ اور ”علمائے اسلام کی خونیں داستانیں“، آزادی ہند کی نذر۔ افسوس کہ میری نومبری کی دینی علمی کاوش کے دونوں عظیم اور یادگار شاہکار ”منتخب التفاسیر“ اور علمائے اسلام کی خونیں داستانیں منصہ شہود پر نہ آسکے اور نہ ہی ایسی کوئی امید ہی ہے

اممہ اربعہ:- ایک اور کتاب اممہ اربعہ کے نام سے لکھی، جس کی بنیاد رسالہ قائد مراد آباد زمانہ طالب علمی میں پڑی تھی، مرکز تنظیم اہل سنت نے اس کی کتابت کرائی اس درمیان میں ملک تقسیم ہوا میں اس سے پہلے وطن آگیا تھا، کتابت شدہ کا پی میرے پاس مبارک پورڈاک سے آئی، اس وقت ملک تقسیم ہوئے ہفتہ دو ہفتہ گزر اتھا اور پورا ملک خون اور آگ میں جل رہا تھا میں نے اس حالت میں رجسٹری کے ذریعہ صحیح کے بعد روانہ کی جس کا آج تک پہنچیں چلا کہ پہنچی بھی یا نہیں، اس کی اصل میرے پاس تھی، بمبی گیا تو سلطان پریس بھنڈی بازار کو دیا، اس کے مالک سلطان احمد مشرقی پاکستان (بگلہ دیش) چلے گئے اور اس کا پتہ نہ چلا، بعد میں اس کی تلافی اممہ اربعہ لکھ کر کیا جس کو شیخ الہند اکیڈمی دارالعلوم دیوبند نے ۱۹۸۹ء میں شائع کیا،

مولانا فارقلیط مجھ سے کہا کرتے تھے کہ آپ کی معلومات زیادہ ہیں خاص طور سے تاریخی مطالعہ زیادہ ہے، معتزلہ کی ایک تاریخ مرتب کر دیں، مولانا چونکہ ابتداء میں آریوں، عیسائیوں سے مناظرہ کرتے تھے اور ان کو اس سلسلے میں نقی سے زیادہ عقلی استدلال سے کام لینا پڑتا تھا اس لئے وہ معتزلہ کے معقولی طرز استدلال سے متاثر تھے اور کہتے تھے کہ معتزلہ نے اسلام کی طرف سے دفاع میں گراں قدر خدمات انجام

دی ہیں، اس لئے مجھ سے اس کی فرمائش کرتے تھے، مگر اس لئے آمادہ نہیں ہوا اور کہا کہ علامہ شبی نے آخر عمر میں الكلام اور علم الكلام لکھ کر مورد الزام بنے، میں نو عمری ہی میں ملزم بننا نہیں چاہتا تھا، اور بعد کے دوران قیام میں ان مستقل کتابوں کے علاوہ میں نے کچھ موضوعات پر مسودے کی صورت میں معلومات جمع کی تھیں جواب تک میرے پاس موجود ہیں، مثلاً

طبع عربی:- *الطبابة عن العرب* (عربوں کا علم طب) اس موضوع پر اچھی خاصی معلومات جمع کیں، مستقل کتاب لکھنے کا ارادہ تھا اور اس کا پیشتر حصہ ”عرب و ہند کے طبی تعلقات“، کے عنوان سے جناب مالک رام کی فرمائش پر ایک مضمون لکھا جوان کی تالیف ”نذر حمید“، (حکیم عبد الحمید ہمدرد دہلی والے) میں چھپا صفحہ ۲۳۹ سے صفحہ ۴۵ تک، اور کسی نہ کسی حد تک یہ محنت کام آگئی، **کتب اور کتب خانے:-** ”کتب اور کتب خانے“ کے عنوان سے کافی معلومات جمع کیں۔

حيات امام احمد بن حنبل:- اس موضوع پر بہت زیادہ معلومات یکجا کر لی تھیں، تاریخ ابن عساکر اور طبقات الشافعیہ الکبریٰ سے کافی مواد تقلیل کیا، اور میونسل لاہوری سے امام صاحب پر عربی میں ایک نقل حاصل کی جو مطبع بریل میں ۱۸۹۷ء میں چھپی تھی اور انگریزی یا فرانچ یا جرمنی زبان میں اس کے جواہی وغیرہ تھے مصنف کا نام معلوم نہیں ہوسکا، گویا وہ پوری کتاب تقلیل کر لی، اور یہ سب اب تک میرے پاس موجود ہے بلکہ ائمہ اربعہ کی تالیف میں ان سے بہت زیادہ مدد ملی۔

حيات لیث بن سعد:- پر کافی معلومات جمع کیں اس کا اصل مأخذ حافظ ابن حجر کی کتاب ”الرَّحْمَةُ الْغَيْثِيَّةُ فِي التَّرْجِمَةِ الْلِّيَشِيَّةِ“، مطبوعہ بولاق مصر ۱۳۰۱ھ تھی، اس مسودہ کے حاشیہ پر میں نے لکھا ہے اور ۱۹۲۶ء (۳۱ مارچ ۱۹۲۷ء) سے جبکہ لاہور میں گولی چل رہی ہے اپنے

کمرے میں پیٹھکر اس امام جلیل کا تذکرہ مرتب کر رہا ہوں۔ قاضی الطہر مبارک پوری نائب مدیر ”زمزم“ لاہور، (مسودہ میں تاریخ ۵ مارچ ۱۹۲۷ء درج ہے) اس وقت لاہور میں نہایت شدید قسم کا ہندو مسلم فساد برپا ہو گیا تھا اور کئی دن تک قدیم شہر کا شامل مشرقی حصہ قتل و غارت اور آتش زنی کی آماجگاہ بنا رہا، اس وقت صرف روزنامہ ”زمزم“ کسی طرح چھپتا تھا کیونکہ بھائی گیٹ کا علاقہ نسبتہ محفوظ تھا، میں ”زمزم“ میں اتحاد و اتفاق کیلئے قطعات لکھتا تھا،

اقوال حکماء:- کے عنوان سے قرآن سے حدیث، ائمہ دین، حکماء، سلاطین، ادباء کے اقوال جمع کئے خاصے کی چیز بن گئی تھی، لاہور علم و ادب کا مرکز تھا، ادباء و شعراء اور مصنفوں اور صاحبوں کی چھپل پہل تھی معمولی قسم کے شاعر و ادیب ہو ٹلوں میں شعرو شاعری اور چاۓ نوشی کیا کرتے تھے، جہاں چارادیب و شاعر بیٹھے کوئی نہ کوئی ادبی پروگرام بن گیا، اور فوراً اس پر عمل بھی ہونے لگا، مصنف تیار، کا تب تیار اور کام چالو، مصنف روزانہ لکھ کر کتاب کو دیتا اور دوسرے دن پھر بھی ہوتا اور ماہ دو ماہ میں کتاب مار کیٹ میں آ جاتی، ایک مرتبہ احسان دانش کی مجلس میں بات آئی کہ اس موضوع پر ایک دلچسپ کتاب ہو سکتی ہے، اور یہ میرے ذمہ کر دیا گیا، نئے نئے موضوعات سوچ کر نکالے جاتے تھے، فرشی عبد الرحیم صاحب نے ایک موضوع یہ رکھا کہ لاہور میں جتنے قبرستان ہیں، ان کے کتبات نقل کر کے ایک بہترین معلوماتی کتاب تیار ہو سکتی ہے، یہ میرے بس کا نہیں تھا، اور اب بہت بعد میں بعضی یہی کام ڈاکٹر محمد اسلام پروفیسر تاریخ پنجاب لاہور نے الوارح الصنادید کے نام سے کیا اور کئی قسطوں میں رسالہ برہان دہلی میں شائع کیا، غالباً کتاب تیار ہو گئی ہو گی،

مشکلات القرآن اور کلمات اکابر کی اشاعت:- مولانا داؤد اکبر اصلاحی کی کتاب مشکلات القرآن میرے توسط سے احسان دانش صاحب نے اپنے کتبہ سے شائع کیا، مولانا محمد اسحاق بخاری کی کتاب حکمات اکابر بھی میرے توسط سے

لاہور میں پہلی بار چھپی، احسان دانش صاحب نے اپنے کاغذ کے کوٹ سے کاغذ دیا اور اپنی نگرانی میں کتابت کرائی، اس سلسلے میں مولانا محمد اسحاق صاحب مہینوں ہمارے ساتھ مبارک منزل میں رہے اور مولانا فارقلیط صاحب کے ساتھ خوب محفیں جتی تھیں،

اسیر ادروی اور پرواز اصلاحی:- میرے محترم دوست مولانا نظام الدین صاحب اسیر ادروی بھی چند ماہ لاہور میں ہمارے ساتھ رہے، مگر بیماری کی وجہ سے واپس چلے گئے۔ مولانا عبد الرحمن پرواز اصلاحی کو میں نے لاہور بلایا اور احسان دانش صاحب کی یہاں رہ کر انہوں نے مومن دہلوی پر ایک کتاب لکھی جو بعد میں چھپی اور ان کا نام کتاب کے اندر آیا۔

مولوی محمد عثمان ساحر مبارکپوری:- میرے دوست مولوی محمد عثمان صاحب بھی چند ماہ لاہور میں رہے، وہ مراد آباد میں بھی میرے ساتھ رہے، وہ ایک سال پہلے فارغ ہو چکے تھے، یہ باہمی انس و محبت کی بات تھی۔

مولانا بشیر احمد و مولانا نشس الدین :- ایک مرتبہ مولانا بشیر احمد صاحب و مولانا نشس الدین صاحب بھی میرے یہاں آئے اور چند دن رہ کر واپس ہوئے، ایک شاگرد بھی میرے ساتھ رہا۔

والد صاحب لاہور میں :- ایک مرتبہ والد صاحب مرحوم اور محلہ کے دو اور شخص اچانک لاہور پہنچ گئے، رات کو دفتر سے ایک ملازم ساتھ لے کر مبارک منزل میں آئے، ان کا یہ سفر امر ترس سے ریشم خریدنے کے لئے تھا، کئی دن رہے اور میرے ساتھ امر ترس آتے جاتے رہے، بڑے والد حاجی اسد اللہ، حاجی محمد حسین اور چچا حاجی محمد عمر اور قصبه کے دیگر جان کراچی سے حج کو جاری ہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، لاہور میں اترے اور سب لوگ میرے یہاں آئے، اور دوسرے روز کراچی کے لئے روانہ ہوئے۔

وطن کے لوگ:- اس طرح جب کوئی شخص کسی جگہ جاتا ہے اور پکھ دنوں رہتا ہے تو اس کے متعلقین اور علاقہ کے لوگ کسی بہانے سے وہاں پہنچتے ہیں اور وہ ذریعہ بتتا ہے، اس زمانہ میں لاہور میں بجنور اور مغربی یوپی کے لوگ نسبتہ زیادہ رہتے تھے، مشرقی یوپی کے لوگ خال نظر آتے تھے، جن سے مل ک بڑی خوشی ہوتی تھی، وہ بھی خوش ہوتے تھے، اپنے علاقہ کا کوئی دیہاتی مل جاتا اور میں اس سے وطن پوچھتا تو وہ پہلے لکھرا تھا اور مجھ سے پوچھتا تھا جب اعظم گدھ بتاتا تو پھر محلہ کا آدمی بن جاتا تھا، انسان جب اپنے محلہ سے باہر جاتا ہے تو محلہ والوں کو پا کر خوش ہوتا ہے، جب دوسرے شہر میں جاتا ہے تو اپنے شہر والوں کو پا کر مسروں ہوتا ہے، اور جب دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اپنے ملک والوں سے مل کر مسروں محسوس کرتا ہے، یہ فطری جذبہ ہے۔

لدھیانہ:- قیام لاہور کے زمانہ میں پنجاب کے دوسرے علاقوں جانے کا اتفاق نہیں ہوا، البتہ ایک مرتبہ اپنے یہاں کے ایک صاحب کیلئے ہوزری کا سامان خریدنے اور بھیجاونے کیلئے لدھیانہ گیا اور کئی دن مقیم رہا، یہاں بھی بجنور کے لوگ بہت زیادہ تھے اور انہی کے یہاں میرا قیام تھا، بھی بھی میرے دوست مولوی محمد عثمان صاحب اور میں ٹھلتے ٹھلتے شہر کے باہر شاہدرہ جایا کرتے تھے جہاں جہاں نیز اور نور جہاں کا مقبرہ ہے، ایک روز ہم دونوں وہیں ایک باغ میں لیٹئے ہوئے تھے، میں نے مولوی عثمان سے کہا کہ آج ہم دونوں پنجاب کے اس جگہ ہیں، معلوم نہیں زندگی میں پھر یہاں اس طرح یکجا ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اب ایسا ہوا کہ شاہدرہ تو کیا لاہور جانا مشکل ہے، اس درمیان میں ایک مرتبہ مولانا فارقلیط کی موجودگی میں لاہور جاتے ہوئے ان کے گھر پلکھوہ میں دو دن قیام رہا۔

حضرت داتا نجح کے دربار میں:- بھی بھی جمعرات کو حضرت داتا نجح کے دربار میں جاتا تھا، مغرب اور عشاء کے درمیان جمعرات کو نعمت خوانی کی محفل ہوتی

تحتی، اردو، فارسی اور پنجابی میں نعتیں اور مذہبی اشعار خوش الحانی سے پڑھتے جاتے تھے، محفل میں ایک شخص کھڑا ہو کر اشعار سناتا اور اسی کے بعد ہی فوراً دوسرا شخص کھڑا ہو جاتا۔

شاہی مسجد لاہور: شاہی مسجد لاہور میں نماز پڑھنے کے لئے جایا کرتا تھا اس وقت اس کے مینارے بنائے جا رہے تھے اور حکومت پنجاب کی جانب سے اس کا انتظام تھا، پھر افغانستان سے آتے تھے، لاہور کے بعض لوگوں نے بتایا کہ بڑے بوڑھے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے جبکہ لاہور کی شاہی مسجد کے گھن میں سکھوں کے گھوڑے بندھے رہتے تھے اور کمروں میں ان کے لوگ رہتے تھے، اسی کے سامنے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بارہ دری تھی، اس کے بعد شاہی قلعہ تھا کبھی بھی شاہی قلعہ میں جانا ہوتا تھا۔

پینک: لاہور کے صحافی برسات میں پینک (سیر و تفتح) کے لئے اجتماعی طور سے شاہد رہ جاتے تھے جن میں اخبارات کے مالک اور مدیر اور دوسرے متعلقین ہوتے تھے، اس میں خاص طور سے آم کھانے اور دودھ پینے کا اہتمام ہوتا تھا، یہ مشغله دن بھر رہتا تھا، ایک مرتبہ میں نے ابوسعید بزمی سے کہا کہ چلنے جہاگنگیر کے مقبرہ کی سیر کریں جو سامنے ہی تھا تو انھوں نے بر جستہ کہا کہ آپ جائیے، میں نہیں جاؤں گا، باوشا ہوں نے مقبروں کے علاوہ ہمارے لئے کیا چھوڑا ہے، ہم کب تک ان کی مجاوری کریں گے؟

روزنامہ "زمزم" کی نائب اڈیٹری: روزنامہ "زمزم" میں ۱۹۲۷ء کے نائب ڈیٹری کی حیثیت سے مولانا فارقلیط کی زیر نگرانی کام کرتا رہا، اس درمیان میں ملک کی تقسیم کی شرائط اور تفصیلات طے ہوئی تھیں، پورا ملک یہجانی دور سے گزر رہا تھا، فارقلیط صاحب کہتے تھے کہ امر تسری اور لاہور میں لڑائی ہو گی اس لئے ہم لوگوں کو اس سے پہلے لاہور چھوڑ دینا چاہئے بعد میں جب سکون ہو گا تو آجائیں

گے، کیونکہ اس طرح کی تقسیم کا وہم و مگان بھی نہیں تھا جس طرح ہوئی، ابوسعید بزمی نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہیں رہنا ہے، وہ اخبار "احسان" کے اڈیٹر تھے، وہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں تقسیم کے بعد مسلمانوں پر بڑی آفت آئے گی۔

۱۰ جون ۱۹۲۷ء کو وطن واپسی: میں ۱۰ جون ۱۹۲۷ء کو وطن پہنچ گیا اور میرے بعد مولانا فارقلیط بھی آگئے، پھر ہم میں سے کوئی لاہور نہ جاسکا، ان کی آمد کی اطلاع اخبار "الجمعیۃ" کے ذریعہ ہوئی، معلوم نہیں "زمزم" کے دوسرے ارکین کہاں رہے اور ان پر کیا گذری۔

احسان داش کا خط اور مولانا سید نور الحسن کا خط: کچھ دنوں کے بعد احسان داش نے مجھے لکھا کہ یہاں "ادارہ ثقافتِ اسلامیہ" سرکاری زیر انتظام قائم ہوا ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی اس کے صدر ہیں اور میرے ایک شاگرد اس کے خاص رکن ہیں، آپ ایک درخواست اس پتہ پر بھیج دیں جس میں اپنی صلاحیتوں کا بے تکلف اظہار کر دیں، اور مجھے اطلاع دیں، میں کوشش کر کے اس میں رکھوادوں گا، اور مولانا سید نور الحسن صاحب بخاری نے خیریت معلوم کرتے ہوئے لکھا کہ آپ ہندوستان میں رہیں، وہاں بھی اہل علم کی ضرورت ہے۔

جامع مسجد (مارکپور) کیلئے کتبے: جامع مسجد کی تعمیر کے سلسلہ میں اب تک کام ہو رہا تھا، میں نے لاہور میں عبدالرشید ایوب الرقم سے معاذتین کے تین کتبے غالباً میں بیس روپے میں لکھوائے، جو جامع مسجد کے محراب کے اندر کنده حروف میں موجود ہیں۔

عبد الرحمن کی جستجو: ۱۰ مئی ۱۹۲۸ء کو بلادِ عرب و افریقہ کے سفر سے واپسی پر کراچی ہوتا ہوا لاہور پہنچا، مگر میرے زمانہ کا لاہور نہیں ملا، حالانکہ پیسہ اخبار انارکلی میں قیام رہا، اسی طرح مارچ ۱۹۲۸ء میں پاکستان کے سرکاری سفر میں پورے پاکستان کی سرکاری سطح پر سیر کرتے ہوئے لاہور گیا اور گیٹ ہاؤس میں دو دن قیام رہا

مگر اخبار ”زمزم“ کے دفتر کی بلڈنگ نہیں پاس کا، بلکہ معلوم ہوا کہ وہ بلڈنگ اب تک اسی جگہ موجود ہے۔

.....☆☆☆☆.....

اخبار ”النصار“ بہرائچ

قیام لاہور کا پورا دور ملک میں سخت انتشار، بے چینی اور فتنہ و فساد سے پر تھا، ملک کی تقسیم طے ہو چکی تھی، تقسیمات طے ہو رہی تھیں، بلکہ ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کی تاریخ بھی مقرر ہو چکی تھی، مولانا فارقلیط نے کہا کہ تقسیم کے وقت امر تسری اور لاہور میں فسادات کا خطرہ ہے، اس لئے ہم لوگوں کو یہاں سے وطن چلا جانا چاہئے، جب سکون ہو گا تو والپس آجائیں گے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ تقسیم ملک اس طرح ہو جائے گی کہ دونوں ایک دوسرے کے ذمہ بن جائیں گے، چنانچہ پہلے میں چلا آیا، بعد میں فارقلیط صاحب بھی آگئے، اس کے بعد وہ اخبار الجمعیۃ سے مسلک ہو گئے اور میں بیکار رہا، جگہ کی تلاش میں مدرسون کا چکر کاٹا مگر کہیں کام نہیں چلا، اسی میں چار پانچ مہینے گذر گئے، سخت پریشانی تھی، مدرسے والے کہتے تھے کہ وہ باہر رہ چکے ہیں اس لئے جب بھی موقع پائیں گے بڑھانا چھوڑ دیں گے۔

مولانا محفوظ الرحمن نامی : اس دور میں مولانا محفوظ الرحمن نامی مبارکپور آئے، وہ یوپی کی پہلی کانگریسی حکومت کے پارلیمنٹری سکریٹری بنائے گئے، انھوں نے اپنے وطن بہرائچ سے ہفتہ وار ”النصار“ جاری کرنے کا پروگرام بنایا تھا اسکی ادارت کے لئے بات طے ہوئی، مشاہرہ ۵۷ روپے طے ہوا، قیام و طعام کا انتظام ان کے گھر تھا، اور محرم ۱۳۶۱ھ (نومبر ۱۹۴۲ء) تاریخ ۲۶ محرم ۱۳۶۲ھ (نومبر ۱۹۴۳ء) بہرائچ میں قیام رہا، اکٹلیل پریس اور کاتب ان کے گھر کے تھے،

مولانا عبد الحفیظ صاحب بلیاوی : مولانا عبد الحفیظ صاحب بلیاوی اس

وقت مدرسہ نور العلوم میں مدرس تھے، جس کے ذمہ دار مولانا محفوظ الرحمن نامی صاحب تھے، وہ نائب اڈیٹر بنائے گئے، ان کا قیام بھی مولانا نامی کے مکان کے ایک حصہ میں تھا، وہ خالص علمی آدمی تھے، اس وقت ”مصباح اللغات“ کے مسوّدات صاف کر کے ”ندوۃ المصنفین“، دہلی بھیجا کرتے تھے، بڑے چاق چوبنڈ، بے تکلف، مخلص اور علمی مزاج کے ہم ذوق آدمی تھے، ان سے خوب نہیں تھی۔

یہ زمانہ پورے شہابی هند خصوصاً پنجاب میں مسلمانوں کے حق میں بڑا پراشوب تھا، معلوم ہوتا تھا کہ یہاں سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، قتل و غارت گری، آتش زنی اور دوسرا طرح طرح کے فسادات تھے، اور میں ”النصار“ میں ان فرقہ پرستوں، قاتلوں اور مسلمان دشمن جماعتوں کے خلاف تیز و تنداز میں لکھتا تھا، اور یوپی حکومت کی طرف سے بار بار تنبیہ اور نوٹس آتی تھی، حتیٰ کہ گرفتاری اور سزا کی باری آئی گئی مگر مولانا نامی نے حکومت کو اطمینان دلایا کہ وہ اخبار پر کنٹرول کریں گے، اور مجھ سے کہا کہ آپ یوپی میں پنجاب کا انداز تحریر اختیار نہ کریں ورنہ اخبار بند ہو جائے گا، میں نے مولانا فارقلیط صاحب کو اس سلسلہ میں لکھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ دہلی کا معاملہ اور ہے، یوپی کا اور! قلم سنپھال کر لکھئے! اسی دوران یوپی حکومت کا ایک سرکار تمام عدالتوں میں پہنچا کہ اخبار ”النصار“ کو کوئی اشتہار نہ دیا جائے، وہ حکومت کے نزدیک غیر مقبول اخبار ہے، اسلئے کسی طرح سات ماہ جاری رکھ کر اسے بند کر دینا پڑا، میرے مضامین مولانا عبدالمadjد صاحب دریابادی ”صدق جدید“ میں بڑے انشراح سے ”ایک غیور صحافی“، ”ایک بے باک صحافی“، ”غیرہ کے حوالہ سے بلا تبصرہ نقل کرتے تھے، عبد الرزاق لیح آبادی نے اپنے اخبار ”عصر جدید“ میں مولانا دریابادی کے خلاف ایک نہایت گستاخانہ مضمون لکھا، میں نے انصار میں اسی انداز کا جواب لکھا اور مولانا دریابادی سے وقتی اختلاف کے باوجود ان کی طرف داری کی، اس وجہ سے وہ میری حوصلہ افزائی کرنے لگے، ورنہ اس سے پہلے ”زمزم“ میں ان کے

خلاف دو کالم میں لمبا پھوڑا مضمون لکھ چکا تھا۔

زندہ دلائی پنجاب کے رئیس شہر اور مرکز شعر و ادب لاہور جیسے بار و نق و پُر بہار گلہ کے مقابلہ میں بہراج تھا ایک سنسان اور بے کیف و کم مقام تھا، جس کو غازی میاں کی وجہ سے شہرت تھی، لاہور کے مقابلہ میں یہاں کا قیام بالکل بے کیف تھا، مگر چونکہ مزانج مدرسہ کا تھا اس لئے یہاں مدرسہ نور العلوم دچکپی کا مرکز بن رہا، مولانا عبد الحفیظ صاحب بلیاوی، مولانا سید حمید الدین صاحب، حافظ محمد نعمن صاحب، مولانا سلامت اللہ صاحب، حافظ عبدالعزیز صاحب اور حافظ اعمی صاحب یہاں کے مخلص و با اخلاق اساتذہ تھے، میں بھی بعض کتابیں پڑھاتا تھا، اکثر وقت وہیں گذرتا تھا، خصوصاً مولانا بلیاوی کی دچکپ علمی و ادبی مجلس بڑی پُر کشش تھی، طلبہ و مدرسین میں وقت گذرتا تھا، مبارکپور کے کپڑوں کے بعض تاجر بھی آتے جاتے تھے، اخبار کے کاغذ کے سلسلہ میں مولانا نامی کے یہاں لکھنؤ آنا جانا ہوتا تھا، راستہ میں گونڈہ شہر کے مدرسہ فرقانیہ سے بھی تعلق ہو گیا تھا، ابو زکر یا بن علی خطیب تبریزی کی شرح "دیوان الحماسة" پہلی بار یہیں کے کتب خانے سے لے کر دیکھی تھی، یہیں کے دوران قیام تقسیم کے بعد مسلمانوں کی پہلی کافرنس مولانا آزاد کی زیر صدارت لکھنؤ میں ہوئی جس میں مسلم جماعتوں کو سیاسی سرگرمی الگ ہو کر ثقافتی و تہذیبی اور دینی و مذہبی خدمات کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور میں اس میں شریک ہوا تھا، اسی دوران گاندھی جی کا قتل ہوا تھا، اور بہراج میں ماتھی جلوں نکلا تھا، جس میں ہم لوگ شریک تھے۔

یہاں کے خواجہ محمد خلیل اسمبلی کے ممبر اور درگاہ سالار مسعود غازی کی کمیٹی کے چیرین تھے، وہ اپنے ذہن و مزاج کے آدمی تھے، ہم لوگ اکثر درگاہ میں تفریح کے لئے جاتے تھے، اسی کے قریب انارکلی نام کا ایک تالاب ہے اس میں مجھلی کے شکار کے لئے جایا کرتے تھے، ابن بطوطہ نے بہراج میں بانس کے جنگل اور اس میں گینڈے کا ذکر کیا ہے، درگاہ کے شمال میں بانسوں کا جنگل تھا وہاں سے میں نے ایک چھڑی کاٹی

تھی، یہاں شاہ نعیم اللہ بہراجی اور بعض دوسرے مشائخ کے مزار ہیں، یہاں ایک معمولی سے کتب خانہ میں ابوالعلاء معڑی کا دیوان "سقوط الزند" تھا جس کو میں نے ۸ صفر ۱۳۲۱ھ میں ڈھانی روپے میں خریدا، جو ۱۹۱۳ء مطابق ۱۹۰۴ء میں مصر میں چھپا ہے۔

"تذکرہ مشاہیر اعظم گلہ و مبارکپور"۔ قیام بہراج کے دوران میں نے "تذکرہ مشاہیر اعظم گلہ و مبارکپور" کے عنوان سے کتاب لکھنے کی ابتداء جمادی الاولی ۱۳۲۶ھ میں کی، اور اچھا خاصاً مسودہ تیار ہو گیا، بعد میں اسی سے "تذکرہ علمائے مبارکپور" ۱۹۰۷ء میں شائع کیا، یہ پوری بیاض منتشر شکل میں میرے پاس موجود ہے۔

.....☆☆☆☆☆.....

جامعہ اسلامیہ ڈا بھیل میں (شووال ۱۳۲۶ھ تا شعبان ۱۳۲۷ھ)

میں رجب ۱۳۲۶ھ میں اخبار "انصار" بند کر کے وطن چلا آیا، اب پھر کام کی تلاش ہوئی، مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی کو لکھا کہ مدرسہ عالیہ کلکتہ میں مدرسی کی جگہ ہوتے مولانا سعید احمد اکبر آبادی کے یہاں میرے بارے میں سفارش کر دیں جو اس کے صدر مدرس تھے، (مدرسہ عالیہ کلکتہ) تقسیم کے بعد ڈھا کہ چلا گیا، عمارت باقی تھی اسی میں مولانا آزاد نے اپنے اثر و رسوخ سے دوبارہ جاری کیا تھا اور نئے نظام کے تحت مدرسین رکھے گئے تھے) مفتی صاحب نے جواب دیا کہ میرے حوالہ سے آپ ان کو خط لکھیں کوئی جگہ ہو گئی تو لے لیں، مگر میراخط جانے سے پہلے ہی وہاں کسی کا تقریر ہو چکا تھا جیسا کہ مولانا اکبر آبادی نے مجھے جواب دیا۔

اس زمانہ میں جامعہ ڈا بھیل کے لئے طلبہ اور مدرسین کی تلاش تھی، اور سفر خرچ بھی دیا جاتا تھا، تھواہ بھی اس وقت کے لحاظ سے اچھی ہوتی تھی، مگر اکثر درمیان سال

میں مدرسین کو کسی نہ کسی بہانے سے رخصت کر دیا جاتا تھا، اور یہ بے چارے کسی طرف کے نہیں ہوتے تھے، اس لئے وہاں جانے میں پس و پیش تھا مگر مررتا کیا نہ کرتا سور و پیہ کے مشاہرہ پر چلا گیا،

ڈا بھیل کا یہ سفر مبارکپور کے حاجج کے ساتھ ہوا تھا، راستے میں ریل میں میرا بستر گم ہو گیا، انہی میں سے کسی کے بستر میں لوگوں نے ڈال دیا تھا، بھساویل میں بہت تلاش کیا لیکن نہیں ملا تو ڈا بھیل پہنچ کر دوسرے دن اس کی تلاش میں بمبی گیا، یہ بمبی کا پہلا سفر تھا بستر تو نہیں ملا مگر اس سفر کی یادگار میں نے امام ابن قیم کی کتاب ”الجواب الکافی لمن سئل عن الدواء الشافی“، ”شرف الدین اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ۲۰ رشوال ۱۳۶۷ھ کو خریدی، محمد علی روڈ پر المکتبۃ الحجازیہ کا بورڈ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، اور بعد میں اسی میں ”رجال السند والحمد“، چھپی، اس کو بارہ بنکنی کے مولوی عطاء اللہ نے جاری کیا تھا، ان کے لڑکے مولوی ضیاء اللہ نے میری کتاب طبع کی، بہار کے محمد مشتاق نے کمپوز کیا۔

ڈا بھیل میں زیر تدریس کتابیں اور یہاں کے احوال:- یہاں میرے ذمہ شرح جامی، مقاماتِ حریری، مختصر المعانی، سفینۃ البلغاء، الخواص اور اسی قسم کی کتابیں تھیں، درمیان سال میں سات مدرس و اپس کئے گئے جن میں فتاویٰ دارالعلوم کے مرتب بھی تھے، یہ یہاں کی پرانی روشن تھی، بڑے بڑے اہل علم اور بزرگ یہاں سے اسی طرح الگ کئے جا چکے تھے جن کے قصے ہم مدرسین سنتے سناتے تھے، میری تھواہ میں صفر ۱۳۶۸ھ میں دس روپیہ کا اضافہ ہوا تھا۔ مگر درمیان سال، ہی میں اندازہ ہو گیا کہ آئندہ یہاں آنا نہیں ہوگا، یہاں افریقہ اور لندن وغیرہ جانے کیلئے گجراتی طلبہ مولویت کی سند کیلئے پڑھتے تھے تاکہ امامت و خطابت اور فتویٰ کے نام پر ان کو وہاں قیام مل جائے، اس لئے پڑھنے میں محنت بہت کم کرتے تھے اور مدرسین کے بارے میں انہی کا فتویٰ چلتا تھا، جس مدرس کے بارے میں طلبہ کی جیسی رائے

ہوتی تھی ویسا ہی معاملہ ہوتا تھا، درمیان میں ساتوں مدرسین کی خصتی ان کے شاگردوں کی ناپسندیدگی کی بنا پر ہوئی تھی، یہاں جو مدرس گردن اٹھا کر لمبی چوڑی تقریر کرتا تھا اور اناب پشاپ حوالے دیتا تھا وہ بہت قابل ”مولوی تھے“، مانا جاتا تھا، اور جو مدرس سنجیدگی سے نفس مضمون اور کتاب پڑھاتا تھا وہ ناقابل تھا، میں مقاماتِ حریری اور ادب کی دوسری کتابیں پڑھاتے وقت بھی کبھی لغات اور حواشی کی مراجعت کرتا تھا، اس لئے میں ناقابل مولوی تھا اور میں انتہائی احتیاط کی بنا پر ایسا کرتا تھا حالانکہ میں بھی بے پر کی اڑا سکتا تھا مگر یہ بات دیانتداری اور ایمان داری کے خلاف تھی، اس لئے مجھے معلوم ہو گیا کہ آئندہ سال مجھے یہاں آنا نصیب نہیں ہوگا اور وہاں سے نکلتے وقت ایک شعر کہا تھا۔

خلوصِ سکنه گجرات تاجرane یہاں کے لوگ عموماً وفا شاعر نہیں
چنانچہ شعبان میں وطن آیا تو وہاں سے بصورت الفاظ علیحدگی کار جھڑی لفافہ آگیا، اللہ کا شکر ہے کہ درمیان سال میں اس کی نوبت نہیں آئی، جب کہ بے چارے سات مدرسین درمیان میں الگ کئے گئے۔

مولانا محمد یوسف بنوری و مولانا محمد مالک کاندھلوی:- اس وقت جامعہ اسلامیہ میں مولانا محمد یوسف صاحب بنوری شیخ الحدیث تھے، ان کے علاوہ مولانا محمد مالک بن مولانا محمد اور لیں صاحب کاندھلوی، مولانا اسلام الحق صاحب کوپاگنجی، اور مولانا عبدالجبار صاحب معروفی مشاہیر مدرسین میں سے تھے، مولانا عبد الجبار صاحب معروفی بعد میں آئے تھے، مولانا اسلام الحق صاحب کوپاگنجی خاموش طبیعت کے نیک عالم تھے مگر میں نے ان کو بہت بے تکلف بنادیا تھا، وہ مجھ سے بیدمانوس رہتے تھے۔

ایک اصولی بات:- مولانا محمد یوسف صاحب بنوری بستی میں بال بچوں کے ساتھ رہتے تھے، ڈا بھیل جانے کے چند دن بعد انہوں نے عصر کے بعد مدرسین کو

چاء کی دعوت دی، ان میں مولانا مفتی مہدی حسن صاحب شاہبہانپوری بھی تھے جو مدت سے سورت میں قیام پذیر تھے، اور جامعہ اسلامیہ میں تشریف لا یا کرتے تھے، مولانا بوری نے سب سے پہلے چاء کی پیالی میری طرف بڑھائی اور میں نے حضرت مفتی صاحب کی طرف بڑھا دی، مولانا بوری نے فوراً مجھے ٹوکا کہ آپ پہلی بار میرے یہاں آئے ہیں اور میرے انتظام میں دخل دیتے ہیں، میں مفتی صاحب کے مقام و مرتبہ سے واقف ہوں، اس کے باوجود میں نے چاء کی پیالی کچھ سمجھ کر آپ کے سامنے رکھی ہے، میں نے اس اصول پر اپنی غلطی تسلیم کر لی، کسی کے یہاں جا کر اس کے معاملات میں دخل دینا بالکل غیر مناسب حرکت ہے۔

ہم لوگ اکثر جمعہ کو سورت اور راندیر جایا کرتے تھے، جہاں مدرسہ اشترفیہ اور مدرسہ حسینیہ تھے، اس زمانہ میں گجرات میں جامعہ اسلامیہ کے بعد یہی دونوں مدرسے مرکز کی حیثیت رکھتے تھے، بعد میں کئی بڑے مدارس جاری ہوئے، بھی بھی نوساری بھی جانا ہوتا تھا۔

کتاب الحجۃ علی اہلالمدینہ :- مولانا مفتی مہدی حسن صاحب امام محمدؐ کی کتاب کتاب الحجۃ علی اہلالمدینہ کا حاشیہ (جو شرح کی حیثیت رکھتا ہے) مکمل کر چکے تھے، ہم لوگ سورت جاتے تو اس کے خاص خاص مقامات پڑھ کر سناتے تھے، انہوں نے ہم لوگوں کو امام ابن قیمؓ کی تصوف کی کتاب ”مدارج السالکین“ کی دو خیم جلدیں عنایت کی تھیں جو تین جلدوں میں چھپی تھی، ان کی زندگی کے آخری دور میں کتاب الحجۃ علی اہلالمدینہ اس کے شروح و حواشی کے ساتھ لجستہ احیاء المعارف حیدر آباد سے چار خیم جلدوں میں چھپی اور میں نے ”معارف“ میں اس پر تبصرہ لکھا،

مجلس علمی :- یہاں کی مجلس علمی کی سرگرمی اس وقت تقریباً ختم تھی، مولانا بوریؓ اس کے مشرف بلکہ روح تھے، مگر دوسرے ارکان کی بے توجہی سے کوئی کام نہیں

ہو رہا تھا۔

جامعہ اسلامیہ کے تقریباً جملہ اخراجات افریقہ کے گجراتی تاجروں اور مالداروں کی طرف سے آتے تھے، خاص طور سے ابراہیم گارڈی صاحب کا نام سر فہرست تھا، اس وقت جامعہ اسلامیہ میں ایک شعر مشہور تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ ”گارڈی نے علم کی میخ گاڑ دی“،

جامعہ کا عظیم الشان کتب خانہ اور ”رجال السندر والہند“ کی ابتداء :- دارالعلوم دیوبند میں اس وقت کے اختلاف کا خوشنگوار نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں کے مشہور اساطین علم اٹھ کر مدرسہ تعلیم الدین ڈا بھیل میں آگئے اور اس کو جامعہ اسلامیہ بنادیا، مولانا انور شاہ صاحب کشمیریؓ، مولانا شمسہر احمد عثمانیؓ، مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب امر و ہوی اور دوسرے اہل علم، اہل تحقیق اور اہل ذوق نے یہاں آ کر دیگر علمی و دینی خدمات کی طرح ایک اہم خدمت یہ انجام دی کہ جامعہ میں ایک عظیم الشان کتب خانہ قائم کیا اور ہر علم و فن کی امہماں کتب جمع کیں کرائیں، اہل علم و اہل دل نے مل کر یہ بڑا کام کیا، یہ کتب خانہ میرے لئے بڑا پُرکشش تھا، مختلف علوم و فنون خصوصاً تاریخ و ادب کی کتابیں خوب پڑھتا تھا اور اپنے ذوق کی باتیں نقل کرتا تھا، ایک روز احمد امین کی ”ضخمی الاسلام“ کا مطالعہ کر رہا تھا جس میں مشہور امام لغت و ادب ابن الاعربی کے متعلق کان اصلہ سندياً دیکھا تو ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ اتنا عظیم امام لغت سندری اصل ہے، معلوم نہیں کیسے اہل علم و فضل سندری ہندی ہوں گے جن کا ہم کو علم نہیں ہے، وقت وقت کی بات ہے، ورنہ اس سے پہلے دیوان حماسه و غیرہ میں ابو عطاء السندری کے اشعار بار بار نظر سے گزرے مگر اس کا احساس نہیں ہوا، بس اسی وقت ابن الاعربی کا تذکرہ نقل کیا اور اس کا سلسہ چل پڑا جو آخر میں رجال السندر والہند کی شکل میں سامنے آیا، تھیج صغیرات الامور کبیرہ اسی وقتوں کی صحیح ہے

اب رات دن چلتے پھر تے حتیٰ کر کھانا کھاتے وقت بھی تاریخ و رجال کی کتابیں مطالعہ کرنے لگا، ایک دن میں کئی کئی کتابیں سرسری طور سے دیکھتا اور جہاں کوئی سندھی اور ہندی شخصیت نظر آتی فوراً نقل کر لیتا، ایک دن کتب خانہ کے ناظم نے کہا کہ مولانا ساری کتابیں کمرے میں لیجائیے تاکہ بار بار داخل خارج نہ کرنا پڑے، **رجال السند والہند** کے مسودے کے پہلے صفحہ پر یہ عبارت درج ہے۔
”ابتداء التاليف في ۱۲ / جمادی الاول ۱۳۶۸ھ و ذلك في الجامعة الاسلامية ، دابیل (سورت) التدوین جار“

۲۱ رسال کے بعد تحریر میں:- میں کتب خانہ کی نادر و نایاب کتابوں سے اپنے ذوق کی چیزیں نقل کر لیا کرتا تھا، چنانچہ ابوعلی قابوی بغدادی کی کتاب ”الامالی“ سے ادبی شہ پارے بڑے سائز کے دس صفحات میں نقل کئے جو کلبی کی کتاب ”الاصنام“ میں پڑے رہ گئے اور میں ان کو بھول گیا، اور قیام بمبی کے دوران ۱۴۲۹/ ربیع الثانی ۱۳۸۹ھ کو مدرسہ فلاح دارین ترکیسرا گیا واپسی پر جامعہ اسلامیہ گیا تو اتفاق سے کتب خانہ کے نوادرات میں کتاب لا صنام میں وہ صفحات مل گئے اور میں نے ناظم کتب خانہ سے اجازت لے کر اپنے پاس رکھ لیا جو اس وقت میرے پیش نظر ہے۔

اس کے اور بہت سے اقتباسات میں نے اس کتب خانہ کے نوادرات سے لئے، عام طور سے مدرسون کے کتب خانوں میں درسیات اور ان کے متعلق شروع و خواشی ہوتے ہیں، مگر یہاں ہر علم و فن کی نادر و نایاب اور امہات کتب تھیں، اس سے پہلے میں نے کسی مدرسہ میں ایسا کتب خانہ نہیں دیکھا تھا، کتب بینی و مطالعہ کا شوق بچپن سے تھا اس لئے اس سے خوب خوب استفادہ کیا اور ”رجال السند والہند“ کی تالیف کی ابتداء بیہیں کی۔

.....☆☆☆☆☆☆.....

سفرِ بمبی

(ذوالحجہ ۱۳۶۸ھ، نومبر ۱۹۴۹ء)

زمانہ طالب علمی میں یہ خیال ہوتا تھا کہ کبھی اللہ تعالیٰ حج و زیارت کی توفیق دے گا تو بمبی بھی دیکھنے کا موقع ملے گا، کسے معلوم تھا کہ جس شہر میں اعظم گذھ کے علامہ شبلی غزل کہا کرتے تھے اس میں اسی ضلع کا ایک شخص بقول مولانا عبدالماجد دریابادی تحقیقی علمی اور دینی مقالات اور کتابوں کا انبار جمع کرے گا، اور دولت و تجارت کے بین الاقوامی شہر کے ایک گوشے میں بیٹھ کر زندگی کا بہترین حصہ تصنیف و تالیف اور صحافت میں گزارے گا، مقدرات کا علم کسی کو نہیں ہے۔

مبارکپور، امرتسر، لاہور، بہرائچ اور ڈا بھیل کا چکر کاٹنے کے بعد بھی صحراء نوردی اور بادیہ پیمائی کا ذوق کم نہ ہوا، ایک طرف علمی ذوق و شوق کی فراوانی اور دوسری طرف حالات کی تنگ دامانی، عجیب کشمکش میں مبتلا تھا، اسی دوران خیال آیا کہ بمبی میں مولانا حکیم اعظمی ناظم جمعیۃ علماء صوبہ بمبی کو اس سلسلہ میں خط لکھوں، مولانا حکیم فتح اللہ خان صاحب عظیمی، موضع حمید پور، ندوہ سرائے، کے رہنے والے تھے، مستقل قیام بمبی میں تھا، جمعیۃ علماء صوبہ بمبی کے ناظم اور بمبی کی مسلم سیاست کے سرگرم رکن تھے، عوام اور حکومت میں اثر و رسوخ رکھتے تھے، وہ ”زمزم“ اور ”انصار“ میں میرے مضمایں اور اشعار دیکھتے تھے اور وطنیت کی بنا پر جانبین کو غائبانہ تعلق تھا، کبھی کبھی وہ جمعیۃ علماء کے مراسلات بھی بھیج دیا کرتے تھے، چنانچہ میں نے ان کو لکھا کہ میں اس وقت ملازمت کی تلاش میں ہوں، بمبی میں کوئی جگہ ہو تو مجھے بلا لیں، یہ خط جمعیۃ علماء کے دفتر میں ایسے وقت پہنچا کہ جب جمعیۃ علماء کا ایک وفد حج و زیارت کے سفر میں جاتے ہوئے دفتر میں مقیم تھا، جس میں مولانا حفظ الرحمن صاحب، مولانا سید محمد میاں صاحب، مولانا مفتی عقیق الرحمن صاحب شامل تھے، ان حضرات نے حکم دیا کہ یہ شخص بڑے کام کا ہے، حالات سے پریشان ہے، آپ بلا لیں کوئی نہ

کوئی کامل جائے گا، حکیم صاحب نے مجھے جواب دیا کہ فی الحال کوئی کام نہیں سامنے نہیں ہے مگر آپ آجائیے، میں آپ کو آرام پہونچانے کی کوشش کروں گا، اور میں یوم جمعہ ۲۸ ربیعہ الحجه ۱۴۲۹ء کو بمبئی پہنچ گیا، اس وقت بمبئی کا کراچی ۷/۲/۱۹۴۷ء روپیہ تھا جبکہ اس سے پہلے ۷ ارروپیہ تھا۔

مجھ سے پہلے مبارکپور کے دو عالم بمبئی میں رہتے تھے، ملارحمت علی اسماعیلی نے زندگی کا بیشتر حصہ وہیں گزارا، آخر میں ملاسیف الدین طاہر سے اختلاف کے بعد وطن آگئے، دوسرے ہمارے محلہ کے مولوی محمد یوسف ”آوارہ بمبئی“ وہاں کے اخبارات میں کام کرتے تھے، آخر میں بھیونڈی میں مدرسی کے زمانہ میں وہیں فوت ہوئے۔

میرا قیام دفتر جمعیۃ علماء وزیر بلڈنگ بھنڈی بازار میں رہا، حکیم صاحب نے اپنے ایک دوست غیاث الدین ہوٹل والے کے یہاں دونوں وقت کھانے کا انتظام کر دیا اور میرے ذمہ دفتر میں فتویٰ نویسی کر دی نیز بعض دوسرے تحریری کام سپرد کئے، انچارج آفس مولا نا معین الدین صاحب مرحوم ندوہ سرائے کے تھے، بہت نیک آدمی تھے، میرا بہت خیال کرتے تھے وہی میرے ہدم و رفیق تھے، حکیم صاحب کسی کسی موقع سے میری جیب میں دس پانچ یا اس سے کم زیادہ روپیہ ڈال دیا دیتے تھے، دفتر ہی میں دوڑکوں کو شرح و قایہ، اصول الشاشی وغیرہ پڑھاتا تھا، ان سے پچاس روپیے مل جاتے تھے، اس زمانہ میں صحیح کو صرف ایک کپ چائے ایک آنے میں پی لیتا تھا، اور کہتا تھا کہ مجھے ناشتہ کی عادت نہیں ہے، اس طرح میں نے نومبر ۱۹۴۵ء سے جون ۱۹۴۶ء تک تقریباً ۸ ماہ گزارے، خیال آتا ہے کہ اسی دور میں دو کرتے بھی سلوائے، دفتر جمعیۃ علماء کے کتب خانہ میں کنز العمال، متدرب حاکم، سنن الکبریٰ پہنچی اور بعض دوسری احادیث کی کتابیں تھیں، ان سے استفادہ کرتا تھا، اسی زمانہ کی نقل کی ہوئی احادیث و آثار میری کتاب ”اسلامی شادی“ میں ہیں، نیز اسی زمانہ میں رسائل جاخط اور جمہرۃ

اشعار العرب، ابو زید محمد بن ابوالخطاب قرشی پرانی کتابوں کے ایک مکتبہ سے خریدی، یہ دونوں کتابیں ہندوستان کے مشہور عربی ادیب مولانا ابو عبد اللہ محمد بن یوسف سورتی کی ملکیت اور استعمال میں رہ چکی تھیں اور دونوں پران کے جگہ جگہ نہایت نادر اور قیمتی حواشی ہیں، جمہرۃ اشعار العرب کے پہلے صفحہ پر میں نے یہ یادداشت لکھی۔

”قال ابو المعالی القاضی اطہر المبارکفوری إنتقلت إلى هذه النسخة الفقيدة الفريدة المحسنة بتحشیة الادیب الاریب السورتی المرحوم فی ۲۹ صفر ۱۳۶۹هـ يوم الثلاثاء من مکتبۃ المنار بمیئی وإشتريتها بخمسة روپیات و كان قد امیإليها في سبيل إبتغا فضل الله تعالى في يوم الجمعة ۲۸ ربیعہ الحجه ۱۳۶۸هـ“

میری پہلی کتاب ”اسلامی نظام زندگی“، بمبئی کیلئے میں اور میرے لئے بمبئی دونوں اجنبی تھے، میں اپنی تمام تر حیثیات کو سمیٹنے ہوئے معمولی لکھنے پڑھنے آدمی کی طرح رہنے لگا، اس شہر میں مقام پیدا کرنے میں دیرگتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حکیم اعظمی صاحب اور بعض دوسرے مخلصوں کی وجہ سے چند ہی دونوں میں بعض قدر دان مل گئے جن میں سب سے پہلے جناب عبداللہ بن احمد عرب سمنکری کی، خان منزل، کھانڈیا اسٹریٹ تھے، حاجی عبداللہ عرب صاحب نسلماً تو ہندوستانی تھے مگر ان کے آباء و اجداد مکہ مکرمہ میں مقیم ہو گئے تھے، نہایت نیک، بزرگ اور علماء کے قدر دان خاص طور سے مولانا آزاد اور تجیعۃ علماء سے بے حد عقیدت و محبت رکھتے تھے، قد و قامت، لب و لبچہ اور شکل و صورت میں بالکل عرب معلوم ہوتے تھے، اپنے علاقہ کے کانگریس کے صدر تھے اور ٹرنک کے ایک چھوٹے سے کارخانہ کے مالک تھے، ان کی عرب یہوی جمیلہ بنت ابو حمیدی کا چند ماہ پہلے انتقال ہو گیا تھا، بالکل مجرد تھے، تقریباً اسی سال کی عمر تھی، حکیم اعظمی کے ذریعہ ان سے اچھا خاصاً تعارف ہو گیا اور وہ میرے حال پر شفقت کی نظر رکھنے لگے، میں خان منزل کی سطح پر مغرب کے بعد عربی

مستفید ہوتے ہیں، مگر وہاں کوئی بڑا مدرسہ نہیں ہے، کسی زمانہ میں مدرسہ ہاشمیہ اور مدرسہ محمدیہ تھے مگر دونوں ہاشمیہ ہائی اسکول اور محمدیہ ہائی اسکول بن گئے، ابتدائی عربی درجات کا ایک مدرسہ مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب بہاری چلا رہے تھے، اور پورے مہاراشٹر میں مالیگاؤں میں مدرسہ بیت العلوم (اور بیتل کالج) تھا جس میں مولانا مفتی محمد نقی صاحب وغیرہ دیوبندی تعلیم دیتے تھے، اسی دور میں جمیعہ علماء کے اراکین بمبئی آئے اور مجھے مدرسہ بیت العلوم مالیگاؤں میں مدرسی کی پیشکش کی، مگر بعض وجوہ کی بنا پر میں نہیں جاسکا، البتہ مالیگاؤں آمدورفت مختلف تقریبات میں ہوتی رہی۔

جمهوریت، ۱۵ ار جون ۱۹۵۰ء: اسی دوران جمیعہ علماء کے حلقة کے چند لوگوں نے ”جمهوریت“ کے نام سے ایک روزنامہ نکالنے کا پروگرام بنایا، اخبار کی پالیسی جمیعہ علماء کے مطابق رہے گی، مشورہ میں مولانا حافظ الرحمن صاحب وغیرہ بھی شریک تھے، اخبار مدینہ بخور سے مولانا حامد الانصاری غازی صاحب کو بلا یا گیا، اور مجھ کو ان کے نائب کی حیثیت سے رکھا گیا، غازی صاحب کا مشاہرہ چار سور و پیٹے کر کے قیام کے لئے ایک فلیٹ دیا گیا اور میر امشاہرہ ایک سوچالیس روپیہ ٹھہرا، قیام جمیعہ علماء کے دفتر میں تھا، ہی، ۱۵ ار جون ۱۹۵۰ء کی صبح کو پہلا شمارہ نکلا، ”افکار و مطالعات، علمی، تاریخی، سیاسی“ کے مستقل عنوان سے روزانہ چار پانچ کالم لکھتا تھا، درمیان میں ”قرآنی جواہر پارے“ کے عنوان سے ایک آیت کی تشریخ ہوتی تھی، اس کے علاوہ اکثر پیشتر لمبے چوڑے علمی تاریخی اور سیاسی مضامین لکھتا تھا، میری غزلیں اور نظمیں بھی شائع ہوتی تھیں، اس کے ساتھ مدراسات کی کانٹ چھانٹ اور پر لیں کے لئے اخبار کی کاپی جوڑنا بھی میرے ذمہ تھا اور انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ دلچسپ، معلوماتی، علمی تاریخی، دینی اور سیاسی مضامین لکھتا تھا، دوسرا طرف غازی صاحب کا الفاظ سے کھلینے والا جو شیلا ایڈیٹوریل ہوتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جمیعہ جمیعہ بمبئی کا مقبول ترین اخبار بن گیا، اور یہاں کا قدیم مشہور روزنامہ ”انقلاب“ کی مقبولیت کم

پڑھانے لگا اور نصاب میں مولانا محفوظ الرحمن صاحب نامی کی تحریک ترجمہ قرآن کی کتاب ”مفاتیح القرآن“ کو رکھا، اسی بلڈنگ میں ایک صاحب عبد الغفور لادی والا تھے، وہ مجھے مہینہ میں غالباً ۲۵ روپیہ دیتے تھے، ایک دن بالتوں بات میں حاجی عبداللہ صاحب نے اپنی مرحومہ بیوی کے ایصال ثواب کے لئے کوئی دینی مختصر سی کتاب چھپانے اور تقسیم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، وہ اس سے پہلے مشکوٰۃ شریف کی کچھ احادیث کو کتابی شکل میں شائع کر چکے تھے، میرے پاس ”زمزم“ کے دینی و اخلاقی مضامین کے تراشے تھے، حاجی صاحب نے ان کو پسند کر کے جیب سائز کے ۲۵۶ ر صفحات میں ”حیات جملہ“، یعنی اسلامی نظام زندگی کے نام سے شائع کیا، یہ میری پہلی کتاب ہے، مقدمہ میں ۱۵ ار محرم ۱۳۶۹ھ درج ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بمبئی آنے کے ۱۵۔۱۶۔ دن کے بعد اس کی تیاری ہو چکی تھی، حضرت مولانا سید محمد میاں اس وقت بمبئی تشریف لائے تو ان سے مقدمہ لکھوا یا، ۱۶ دسمبر ۱۹۴۹ء کو لکھا گیا ہے یہ کتاب دو ہزار میں سلطانی پر لیں بمبئی میں چھپی اور حاجی صاحب نے ان کو منتظر کیا اور ملک کے مختلف علاقوں سے لوگوں نے طلب کیا، اس قدر جلد اس کتاب کی اشاعت سے میرے تعارف میں بڑی مدد ملی۔ اسی زمانہ میں یعنی ۱۹۵۰ء میں ”افادات حسن بصری“ کے نام ایک رسالہ ۵۶ صفحات کا میں نے دائرہ ملیہ مبارکپور اعظم گذھ کی طرف سے شائع اس کے مقدمہ میں ۸۸ روزی قعدہ ۱۳۶۲ھ مطابق ۱۲ دسمبر ۱۹۴۷ء درج ہے، میں نے اس کو احیاء العلوم کی عارضی مدرسی کے زمانہ میں لکھا تھا، میر امزاں مدرسون اور کتابوں کا تھا اور اسی فضا میں زندگی بسر کرنے کا ارادہ تھا مگر اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی صورت میں اس سے منسلک رکھا البتہ مدرسون کی سیاست کی وجہ سے ظاہری دوری رہی، بمبئی میں کوئی عربی مدرسہ نہیں تھا، محلہ محلہ انجمنوں اور مسجدوں میں مدرسہ عربیہ جاری تھا جس میں قرآن شریف اور دینیات کی معمولی تعلیم ہوتی تھی، یہ عجیب ساخت ہے کہ ہندوستان کے مدارس بمبئی کے صدققات و تبرعات سے

ہونے لگی، اس کے مالک جناب عبدالحمید انصاری سخت پریشانی میں پڑ گئے، کئی مولویوں سے ”انقلاب“ میں دینی و اخلاقی مضامین نقل کروانے لگے، اور دونوں اخبار ایک دوسرے کے حریف بن گئے، نیز بمبئی کے دوسرے اخبارات پر اس کے اثرات پڑنے لگے، یہ صورت صحافیوں اور اخبار بینوں میں ایک دلچسپ وقتی مشغله بن گئی اور میرے لئے وقتی پریشانی کا باعث بن گئی، کیونکہ میں چارچار پانچ پانچ کالم میں علمی تاریخی، دینی اور سیاسی مضامین لکھنے کے ساتھ اکثر ویژت طول طویل مضامین بھی لکھتا تھا مگر میرا نام کہیں نہیں آتا تھا، مولانا حامد الانصاری غازی مجھے اخلاص سے دینی خدمت کرنے کی تلقین کرتے تھے، نام و نمود اور ریاستے منع کرتے تھے، کہتے تھے کہ بنیاد کا پھر نیچے ہوتا ہے، آپ بنیاد کے پتھر ہیں، اگر میں اپنا نام اوپر یا نیچے لکھتا تو قلم زد کر دیتے تھے، اور میں سمجھتا تھا کہ عمارت جس قدر بلند بالا ہوتی جائے گی بنیاد کا پتھر اتنا ہی زیر زمین ہوتا جائے گا، جب میں اخبار کے ذمہ داروں سے کہتا کہ یہ سب میرے مضامین ہوتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ ہم کیا جانیں، غازی صاحب کہتے ہیں کہ قاضی صاحب صرف قرآنی جواہر پارے اور مراسلات دیکھتے ہیں، اخبار بیں طبقہ بھی کہتا کہ ہم تو مضامین غازی صاحب کے سمجھتے ہیں۔

لاہور میں مولانا فارقلیط صاحب نے غازی صاحب کے بارے میں کچھ بتیں تباہی تھیں، جن کی وجہ سے میں محتاط رہا کرتا تھا، ویسے وہ بظاہر میری بڑی قدر کرتے تھے اور میری تعریف دوسروں سے بھی کیا کرتے تھے، اور میں سوچتا تھا کہ چھ سات مہینے تک اس عالمی شہر میں میں نے اپنی تمام ترجیحیات کو چھپائے رکھا اور اب موقع آیا کہ میرا تعارف ہوتا یہ صورت حال ہو گئی جس سے میں سخت پریشانی میں رہا کرتا تھا، اسی درمیان جمہوریت کے ڈائرکٹروں تاجر انہ ذہنیت کام کرنے لگی اور وہ اپنے اپنے مفاد میں کام کرنے لگے، سازشیں بھی ہونے لگیں، نیوز ایڈیٹر ڈاکر حسین فاروقی کہا کرتے تھے کہ سب سے پہلے میں یہاں سے نکالا جاؤں گا، اس کے بعد

قاضی صاحب کی باری آئے گی، وہ بمبئی کے مشہور صحافی تھے ان کے لئے میدان خالی تھا، اور مجھ سے کہا کرتے تھے قاضی صاحب جس دن آپ یہاں سے نکلیں گے اسی دن میں آپ کو کام دلاؤں گا، آپ بالکل مطمئن رہیں، چنانچہ وہ مجھ سے پہلے الگ ہو گئے۔

وفات شریف انور:- نومبر ۱۹۲۹ء بمبئی آیا تھا اور ایک سال کے بعد ۲۸ نومبر ۱۹۵۰ء میں مجھے وطن واپس آنا پڑا، جمہوریت کی ملازمت میں سارے چار ماہ ہوئے تھے، میرے بچے شریف انور مرحوم کی یہاں کا خط پا کر میں رخصت لے کر ۲۸ نومبر کو گھر چلا آیا، وہ بھی اپنے بھائی جمال انور کی طرح چھپ میں بنتا ہو کر ۲۲ جنوری ۱۹۵۱ء مطابق ۱۳ ربیع آخر ۷۴۰ھ میں انتقال کر گیا، یہ اولاد کا دوسرا غم تھا، کچھ دنوں رہ کر بمبئی واپس گیا۔

جمہوریت سے انقلاب میں (۲۳ فروری ۱۹۵۰ء):- وطن سے واپس آ کر اپنی ڈیوٹی کے مطابق ۲ ربیع دن میں جمہوریت کے دفتر میں گیا تو دیکھا کہ میری میز پر ایک دوسرے صاحب بیٹھے لکھ پڑھ رہے ہیں، غازی صاحب نے قریب ہی میرے لئے کرسی لگوائی، اور معلوم ہوا کہ جمہوریت کے ڈائرکٹر نے ان کو رکھا ہے، میں نے ان سے اٹھنے کے لئے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا، اس کے بعد سے معاملات بگڑتے گئے اور میری وقتی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا گیا، میں نے دہلی حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب کو لکھا کہ مجھے دہلی بلا لیں، وہ اس وقت جمعیۃ علماء حند کے ناظم تھے اور مولانا فارقلیط ”الجمعیۃ“ اخبار کے اڈیٹر تھے، سوچا کہ دہلی میں جگہ مل جائے تو وہیں چلا جاؤں گا مگر مولانا محمد میاں صاحب نے لکھا کہ آپ کو بمبئی ہی میں رہنا ہے، حالات کا مقابلہ کیجئے، ”فلندر ہرچہ گوید دیدہ گوید“ اگر میں بمبئی چھوڑ دئے ہو تو شاید میرے کام کرنے کے اتنے سارے موقع نہ ملتے، مولانا حکیم اعظمی صاحب اور میرے دوسرے ہی خواہ اس صورت حال سے ایک گونہ پریشان تھے۔

اس زمانہ میں عام طور سے دس بجے رات کو دفتر جمہوریت سے نکلتے وقت راستہ میں دوچار آنے کی کھجور خرید لیتا اور وہ راستہ میں کھاتا ہوا جمیعہ علماء کے دفتر میں آتا اور پانی پی کر سو جاتا اس کی خبر میرے کسی بھی بہی خواہ کو نہیں ہوتی تھی ورنہ وہ ایسا ہرگز نہیں کرنے دیتے، حالات روز بروز خراب ہوتے گئے، اور جمہوریت چھوڑنے کے علاوہ کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی تھی، آخر مجبور ہو کر ایک دن ڈاکٹر ذاکر حسین فاروقی کے یہاں پہنچا اور کہا کہ اب میرا انتظام کر دو، اب بات قابو سے باہر ہو چکی ہے، انہوں نے دوسرے دن مجھے بلا یا اور دفتر جمہوریت جاتے ہوئے انکے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اسی طرف سے روزنامہ "انقلاب" جا کر عبد الحمید انصاری سے ملاقات کر لیں، میں نے ان کو فون کر کے آپ کا انتظام کر دیا ہے، انصاری سے میں کہا کہ آپ کو میں جمہوریت کی روح نکال کر دے رہا ہوں فوراً رکھ لو، انہوں نے نام پوچھا کہ وہ خود آپ سے ملیں گے، ان کا نام جمہوریت میں نہیں آنے پاتا ہے اس لئے نام بتانے سے کوئی خاص بات نہیں معلوم ہو گی۔

اس کے بعد میں دفتر انقلاب پہنچا اور انصاری صاحب سے بات چیت کی، "جمہوریت" کی اشاعت و مقبولیت سے انقلاب پر سخت زد پڑ رہی تھی اور وہ پریشان تھے، انہوں نے بڑے انشراح سے مجھے رکھ لیا، پوچھا کہ جمہوریت کا آپ کے ذمہ کچھ باقی تو نہیں ہے یا کوئی تحریر آپ نے ایسی تو نہیں دی یہے جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیدا ہو، میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اب میرا قطعی اور آخری فیصلہ ہے کہ جمہوریت میں نہیں جاؤں گا، ان کو اندر لیشہ تھا کہ "جمہوریت" کے بانی اور ارکین سب قاضی صاحب کے آدمی ہیں، بھلا وہ کیسے ان کو چھوڑ سکتے ہیں اور جمہوریت والوں کی باہمی سیاست میرے بارے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی تھی، مشاہرہ ۱۵۰۰ ار روپیہ ہوا۔

النصاری صاحب نے کہا کہ میں آج کے انقلاب میں آپ کے بارے میں

اعلان کر دیتا ہوں، میں نے کہا کہ ضرور اعلان کر دیں، چنانچہ دوسرے دن ۲۲ ربیوی ۱۹۵۰ء کی صبح کو انقلاب آیا تو اس کے آخری صفحہ پر درمیان میں جلی چوکھے میں یہ اعلان تھا "قارئین! یہ پُرمسرت خبر دی جاتی ہے کہ اخبار جمہوریت میں لکھنے والے قاضی اطہر مبارک پوری کے رشحات قلم آج سے انقلاب میں شائع ہوا کریں گے،" یا اسی قسم کے الفاظ تھے، اور صبح ہوتے ہی یہ انقلابی خبر صحافی برادری اور اخبار بیوں میں بڑے تجھ سے پڑھی گئی، ہر طرف اس کا چرچا ہونے لگا، اور ۲۳ ربیوی کو میرا کالم چھپ گیا، ادھر میں انصاری سے مل کر جمہوریت کے دفتر میں پہنچا اور حسب سابق اپنے متعلقہ کام کئے، رات کو چلتے وقت غازی صاحب سے کہا کہ میں کل سے "انقلاب" میں جاؤں گا، آپ لوگ کوئی انتظام کر لیں، غازی صاحب یہ سن کر چوکے اور کہا کہ آپ کے لئے دہلی بہت مناسب جگہ تھی، میں نے کہا کہ میں یہیں رہ کر لوگوں سے اپنی حیثیت منواؤں گا، میرے بعد غازی صاحب بھی فوراً دفتر سے نکلے اور ڈاکٹروں کے پاس جا کر میری بے وفائی اور خود غرضی بیان کرنے لگے، صبح انقلاب میں یہ خبر پڑھ کر ڈاکٹروں کو اس کا علم ہو گیا، اور ان میں میرے موافق اور مخالف پیدا ہو گئے، اور دفتر جمیعہ علماء سے مجھ کو نکلنے کی دھمکیاں آنے لگیں، میں نے ذرا شدید لب و لہجہ اختیار کیا اور کہا کہ کس کی جرأت ہے کہ مجھ کو جمیعہ کے دفتر سے نکال دے؟ میرے کرم فرماجناب اے اے شیخ الحجیب جذباتی آدمی تھے، مجھ سے خاص تعلق رکھتے تھے چونکہ میں نے ان کو پہلے سے اس کی اطلاع نہیں دی تھی اس لئے وہ میرے شدید ترین مخالف بن گئے،

شیخ الحجیب کا آبائی وطن متوجہ کو پایا گنج تھا، پونہ میں مقیم ہوئے، شیخ الحجیب مستقل طور سے بمبئی میں ڈنکن روڈ رہتے تھے، حکیم عظیم سے قدیم مراسم تھے، مولانا حبیب الرحمن صاحب الاعظی کے بڑے قدر داں تھے، مولانا ان کے یہاں ہفتواں مہینوں ہٹھرتے تھے، شیخ الحجیب نے ان کو متعدد بار بار حج کرایا، مولانا متوجہ سے چکے بمبئی چلے

جاتے تھے اور شیخ الحبیب ان کو حج پر بھیج دیا کرتے تھے، اس وقت ہاتھوں ہاتھ پاسپورٹ وغیرہ بن جاتا تھا، اور بہت کم رقم میں حج ہوتا تھا، یہ سلسلہ میرے کمبی جانے کے بعد تک چاری تھا۔

شیخ الحبیب کی خلگی: شیخ انجینیر سالوں تک مجھ سے بے حد خفار ہے اور میری صورت دیکھ کر بھاگ جاتے تھے، بکواس بھی کرتے تھے، ایک مرتبہ عبد الحمید انصاری نے ”انقلاب“ میں ”شہ سوار جنگ بہادر“ کے نام سے ایک تیز و تند بلکہ سو قیانہ تازیانہ لکھا، اس کے بعد معاملہ ٹھنڈا ہوا، مگر وہ بات نہیں رہی، حکیم عظیمی صاحب کہا کرتے تھے اگر مولانا حبیب الرحمن صاحب چاہیں تو شیخ الحبیب کو منظون میں ٹھنڈا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ شیخ الحبیب کی مغفرت فرمائے اس وقت ان سے بڑا میرا کوئی مخالف نہیں ہوا تھا، انہوں نے ایک مرتبہ مولانا حسین احمد مدینی کی دعوت کی اور مجھ سے کہا کہ دعوت میں آنا، حکیم عظیمی نے کہا کہ جب وہ خود بلا تے ہیں تو آپ چلے جائیں، اسکے بعد ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔

”جمهوریت“ کے ارکین اپنے لوگ تھے، جمہوریت اپنا اخبار تھا، ”انقلاب“ غیر کا تھا اس سے کوئی تعلق نہیں بلکہ ایک گونہ بے تعلقی تھی، اس کے باوجود ایسے حالات پیدا کئے گئے کہ مجھے بادل ناخواستہ انقلاب میں آنا پڑا اور مجھے بے حد قلبی تکلیف ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، اب مجھے کھل کر کام کرنے اور اپنے علوم و معلومات عوام تک پہونچانے میں ہر قسم کی آزادی نہیں بلکہ لنجیج بھی تھی،

نتیجہ کے طور پر جمہوریت آہستہ آہستہ رو بے زوال ہونے لگا، بعد میں غازی صاحب اس کو جمعیۃ کے دفتر کے بازو والے کمرے میں لائے اور ہفتہ وار جاری کیا، آخر میں جمیل مہدی نے آکر غازی صاحب کو اس سے بے دخل کر دیا، غازی صاحب کو بعد میں احساس ہوا اور مجھ سے کہا کرتے تھے کہ اس شخص کی بد دعاء نے جمہوریت کو غارت کیا اور میں کہنا تھا کہ میں نے بد دعا نہیں کی، البتہ اس کی جدائی سے میرا دل

بہت دکھا اور زہنی و قلبی اذیت پہوچی۔

مولانا فارقلط صاحب نے روزنامہ ”زمزم“ میں مجھے نائب مدیر بنانے کے وقت کہا تھا کہ آپ عالم ہیں، صحافت کو پیشہ مت بنائیے گا، یہ پیشہ طوالوں کا ہے جیسے حالات اور جیسی پالیسی ہوتی ہے ویسا ہی لکھنا پڑتا ہے اور ضمیر پر دباؤ پڑتا ہے، البتہ عوام و خواص میں تعارف کے لئے کچھ دنوں پہ کام کیجئے، میں خود اپنی ”مولویت“ سے دست بردار ہونے کے لئے کسی قیمت پر تیار نہیں تھا، مدرسی اور تصنیف و تالیف میرا خاص ذوق تھا مگر ۱۹۶۰ء سے ۱۹۷۲ء کا تقریباً پورا دور صحافت ہی میں گذر رہا، درمیان میں وقفہ و قلم سے مدرسی کی، مدرسون سے تعلق رکھا، اور دوسرا مشاغل بھی رہے، اس کے باوجود الحمد للہ کہ میں نے جو راہ ابتداء میں اپنے علمی سفر کے لئے اختیار کی تھی، حالات کا مقابلہ کرتا ہوا اسی پر چلتا رہا۔ لاہور کا ماحول شعروادب اور صحافت کا تھا، صرف مولانا احمد علی صاحب لاہوری ”شیر انوالہ دروازہ“ کے ایک گوشے میں سلف صالحین کے انداز پر علمی اور دینی زندگی بس رکر رہے تھے اور قرآن حکیم کی تفسیر کی تعلیم چھوٹے سے دیتے تھے، وعظ و تبلیغ فرماتے تھے اور اجمیں خدام الدین کی طرف سے چھوٹے چھوٹے رسائل شائع کرتے تھے، نیلے گنبد کی مسجد میں مدرسہ اشرفیہ چل رہا تھا کبھی کبھی ان دونوں جگہوں پر حاضری ہوتی تھی۔

بمبی میں اتنا بھی دینی و علمی ماحول نہیں تھا، مسجدوں اور محفلوں میں مدرسہ عربیہ کے نام سے قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، مسجد کے موذن و امام پڑھاتے تھے، جو عام طور سے باہر کے ہوتے تھے اور پیشہ کے طور پر کام کرتے تھے، مردہ نہلا تے تھے، فاتحہ، تیجہ، دسوال، چالیسوال کرتے کرتے تھے، مرغی ذبح کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، اور ان سب کی فیس یا قیمت پاتے تھے، مولانا مفتی عبدالعزیز بہاری ایک چھوٹے سے کمرے میں مدرسہ امدادیہ جاری کئے تھے، جس میں عربی کی ابتدائی تعلیم بھی ہوتی تھی، ہر شہر میں کچھ مقامی مولوی اور عالم ہوتے ہیں مگر شہر بمبی میں کوئی مقامی عالم نہیں تھا اور

نہاب ہی ہے، یہ اس شہر کی سب سے بڑی بدمقتو ہے، باہر کے مولوی یہاں کمانے کے لئے آتے ہیں اور سیٹھوں سے رقم وصول کرنے کے لئے ہرجائزنا جائز کام کرتے ہیں، مدرسہ ہاشمیہ اور مدرسہ محمدیہ کسی نہ کسی انداز میں چل رہے تھے جو بعد میں اسکول بن گئے تھے، مقامی لوگوں کا خیال تھا کہ یہ شہر تجارتی صنعتی اور کاروباری ہے، یہاں مولوی بنانے کے بجائے مولوی منگانے میں زیادہ فائدہ ہے، اسکول کالج میں پڑھ کر لڑکے کاروبار کریں گے مولوی بن کر کیا کریں گے، اس کے عوض صدقات و خیرات کا مزاج عام ہے، اس بارے میں بمبئی ہندوستان کے دیگر شہروں سے آگے ہے، بدعاں و خرافات، دینی جہالت، پیر پرستی اور اہام پرستی یہاں عام تھی، نیاز فاتحہ، میلاد شریف، صندل گاگر، عرس کا زور تھا، اور ان ہی خرافات کے حامل مولوی یہاں آکر سیٹھوں سے رقم وصول کرتے تھے، اہل حق خال خال تھے، اور علمائے حق نے سخت حالات کا مقابلہ کر کے کچھ فضاصاف کی تھی۔

میں بمبئی تلاش معاشر میں آیا تھا، اس کے ساتھ اپنی علمی حیثیت کو بچانا چاہتا تھا، اس لئے صحافت اور اخبارنویسی کو میں نے علمی اور دینی مشغله کے طور پر اختیار کیا اور پیشہ ور صحافی بننا پسند نہیں کیا، جواہر القرآن اور احوال معارف کے عنوان سے جمہوریت کے مضامین انقلاب میں لکھنا شروع کیا اور تین تین چار چار کالم روazine لکھتا تھا جن میں علمی، دینی، تاریخی، سیاسی مضامین ہوتے تھے، احادیث اور بزرگان دین کے واقعات اصلاحی انداز میں لکھتا تھا بڑی آزادی اور حوصلہ سے لکھتا تھا، عالم اسلام کے حالات اور اس پر تبصرہ لکھتا تھا، فقہی اور دینی مسائل کے جوابات بھی لکھتا تھا، الغرض احوال و معارف کا کالم ہر قسم کی معلومات کا خزانہ ہوتا تھا، غزلیں اور نظمیں بھی ہوتی تھیں، اور عوام و خواص سبھی اس کو پڑھتے تھے، چند ہی دنوں کے بعد بمبئی کے مسلمانوں میں میرا اچھا خاص اسعارف ہو گیا، ابتداء میں مشاعروں میں بھی شریک ہوتا تھا اور سامعین بڑے احترام سے میرے اشعار سنتے تھے، تحت الملفظ سناتا تھا، ہر

مشاعرہ میں میری شرکت ضروری ہونے لگی، اور یہ بات میرے لکھنے پڑھنے میں حارج ہونے لگی تو بالکل ترک تعلق کر لیا، میرے مضامین کی وجہ سے انقلاب کو بڑا فروغ ہوا، عام طور سے لوگوں کا خیال تھا کہ ”انقلاب“ کی مقبولیت احوال و معارف کے کالموں کی وجہ سے ہے، قدیم و جدید دونوں طبقے اس کالم کو پڑھتے پڑھاتے تھے، بہت سے لوگ تراشے کاٹ کر رکھنے لگے، ۲۳ فروری ۱۹۵۱ء سے ۱۰ اپریل ۱۹۹۱ء تک چالیس سال سے زائد مدت تک میں نے انقلاب میں لکھا ہے اس کے مضامین کو الگ الگ عنوان سے مرتب کیا جائے تو بلا مبالغہ صد ہا معياری کتابیں تیار ہو سکتی ہیں، کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یہ میری علمی محنت اور کاوش صرف ۲۲ رکھنے تک باقی رہتی ہے، اس کے بعد ضائع ہو جاتی ہے مگر پھر خیال آتا کہ اس سے مسلمانوں کی اصلاح اور دینی معلومات مقصود ہے جو حاصل ہو رہی ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کالم نے قارئین انقلاب کو بڑی علمی اور دینی روشنی دی ہے اور اس سے مسلمانوں کو بہت فیض پہنچا ہے، یہی میرا مقصد تھا، ورنہ اس عظیم شہر میں اتنی معمولی تنخواہ پر کون یہ کام کر سکتا ہے، چالیس سال کے عرصہ میں ۱۵۰ ارب روپیے سے بڑھتے بڑھتے آخر میں چند ماہ پہلے پانچ سور و پیٹ تنخواہ ہو گئی تھی، وہ بھی بلا طلب، کیونکہ میں نے کبھی علمی و دینی خدمت کے لئے مول بھاؤ نہیں کیا حالانکہ لوگ سمجھتے تھے کہ میرا مشاہرہ ہزار روپیہ کے لگ بھگ ہو گا، یوں بھی بمبئی کا مزاج استعمال کا ہے، جو شخص یہاں خلوص کا مظاہرہ کرتا یہ نقصان میں رہتا ہے، اور فن باز کا میا ب رہتا ہے، ایک مرتبہ ڈاکٹر ڈاکٹر حسین فاروقی نے مجھ سے کہا کہ قاضی اطہر! تم بیوقوف ہو، یہاں مقالہ لکھنے آئے ہو، یہ کام یوپی میں جا کر کرو، یہاں تو حاجی ملنگ کی کرامتیں لکھو اور پیسے کماو۔

مدرسہ مفتاح العلوم بھیونڈی کا اجراء (۱۳۷۴ھ ۱۹۵۵ء)۔ مولویت کا مزاج لا ہو جیسے نہیں شہر میں نہیں بدلا، بمبئی آکر اس کی حفاظت کا احساس اور شدید ہو گیا، اب دنیا کمانے کے موقع پیدا ہونے لگے تھے مگر ان کی طرف بالکل توجہ نہیں کی

البته: بمبی میں یوپی کے طرز کا مدرسہ جاری کرنے کی فکر ہوئی، ”انقلاب“ میں آنے کے بعد یہ خیال اور پختہ ہوا، اتفاق کہ اسی زمانہ میں ایک مشاعرہ کے سلسلہ میں بھیری (بھیونڈی) جانا ہوا، جہاں عظیم گذھ بلکہ مبارکپور اور اس کے حدود کے متعدد خاندان آباد اور خوشحال تھے۔ اس کے بعد بعض کاموں کے سلسلہ میں بار بار جانا ہوتا تھا اور یہاں مدرسہ جاری کرنے کا ارادہ ہوا، پہلے تو بھیری کے لفظ سے مجھے وحشت ہوتی تھی اور اس کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا مگر ایسا ہوا کہ یہی مقام میرے مقصد کا مظہر بنا، یہاں دو بزرگ حاجی ولی اللہ جان محمد جہاناں تھی اور حاجی محمد صابر خیر آبادی پوری بستی میں اپنے دینی ذوق میں نمایاں تھے، حاجی ولی اللہ صاحب کے یہاں میر آنا جانا ہوتا تھا، ان دونوں کے مشوروں سے دوسروں کو تیار کیا اور بڑی مشکل سے دوسرے لوگ راضی ہوئے، اور ماسٹر حاجی محمد مبین، اور حاجی عبد الغنی رحیم اللہ نے بھی تعاون کیا، چنانچہ ۱۹۵۱ء (۱۴۳۲ھ) کو ایک کمرے میں مفتاح العلوم کے نام سے ایک مکتب کا افتتاح ہوا، اور صفر ۱۴۳۲ھ میں ہندوستانی مسجد میں اس کے لئے شاندار عمارت کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ مدرسہ عظیم الشان علمی و دینی قلعہ بن گیا ہے اور میری فخرانی میں چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے، بمبی میں کھانے میں جو رقم لگتی وہ بھیری کی آمدورفت میں خرچ کرتا تھا اور وہاں مہمان بن کر دو ایک دن رہتا تھا، اس طرح ایک زمانہ تک آتا جاتا رہا، اس راہ میں مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لوگ دیکھ کر وہابی وہابی چلاتے تھے، مارنے کے لئے آتے تھے، مخالفت کرتے تھے، میں تالیف و مصلحت سے کام لیتا تھا حتیٰ کہ محروم کا کچھ را جا کر کھاتا تھا تاکہ مخالفت کم ہو، عجیب حالات تھے،

میرے دوست مولوی محمد یسین ابراہیم پوری اس کے پہلے مدرس ہوئے، وہ بمبی میں تھے وطن آنے کے لئے نکٹ خرید لئے تھے میں نے نکٹ واپس کرا کر ان کو وہاں رکھا،

عبد الصمد شرف الدین سے تعلق: بھیری میں شرف الدین اللہ تعالیٰ اولادہ بمبی کے صاحبزادے مولانا عبد الصمد شرف الدین الہدیث عالم و فاضل تھے، دارالقیمہ کے نام سے ایک اشاعتی ادارہ قائم کر کے المعجم الفہرست اسی سے چھاپ رہے تھے، بڑے نفاست پسند، خشک اور با اصول عالم ہیں، رابطہ عالم اسلامی کے امین عام ڈاکٹر عبد اللہ عمر نصیف کے ماموں ہیں، اور سعودی عرب سے ان کا خاص خاندانی تعلق ہے، ان سے اس زمانہ میں تعلقات ہوئے، وہ میرا بہت لحاظ پاس کرتے تھے، ان کے صاحبزادے عبدالواحد مرحوم بھی باپ کی طرح پیش آتے تھے، انھوں نے امام مرقی کی ”تحفة الاشراف فی الاطراف“ دس جلدوں میں نہایت اہتمام سے چھاپی، یہ تمام جلدیں مجھ کو مولوی عبدالرازق سعید میں مرحوم نے تحفۃ عنایت کیں، اسی دارالقیمہ سے ”سنن النسائی الکبریٰ“ بھی اسی اہتمام سے شائع ہونے لگی، اس کی دو جلدیں مرحوم عبدالواحد نے مجھے دیں تیسرا جلد کی طباعت کے دوران ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے۔

حیات الہبی کوں بمبی بلایا: اسی دور میں اپنے چھوٹے بھائی قاضی حیات النبی مرحوم کو بمبی بلایا، وہ خوشحالی کے دور میں پیدا ہوا تھا، ناز و نعمت میں پروان چڑھا تھا، فطرہ ضعیف و ناقلوں تھا، مزاج میں تیزی تھی، بڑا کام نہیں کر سکتا تھا، ذہین، معاملہ فہم اور صاف گو تھا، اس زمانہ میں رامپور کے ایک علامہ شرف زیدی نے بمبی سے ایک روز نامہ ”مشعل“ کے نام سے جاری کیا، اسی میں کتابت کے لئے حیات النبی مرحوم کو ۶۲ نے فی کالم رکھ دیا، حالانکہ وہ پہلے سے کتابت نہیں جانتا تھا، چند ماہ میں ”مشعل“ بند ہو گیا تو اس کو وطن واپس کر دیا، اور بعد میں ”البلاغ“ میں مستقل کاتب بن کر میرے ساتھ رہا اور حج و حجاج کی پیش بہا خدمات انجام دیں اور پانچ مرتبہ حج و زیارت سے مشرف ہوا۔

میری تیسرا کتاب ”مسلمان“: میری تیسرا کتاب ”مسلمان“ جمعیۃ

مسلمین جنگیہ نے ۱۹۵۲ء مطابق ۱۳۷۲ھ میں بڑے اہتمام سے شائع کی اور کوکن کے اسکولوں کے نصاب میں داخل کیا، مجھے بمبئی آئے ہوئے تین سال گذر چکے تھے اور شہرت و مقبولیت عام ہو چکی تھی، جمعیۃ المسلمین جنگیہ (بمبئی) نے بارہا میرے تبلیغی اصلاحی دورے کا اہتمام کیا اور میں کوکن کے مختلف علاقوں میں آیا گیا، اسی مناسبت سے میری کتاب ”مسلمان“ شائع کی، اور اس کو اصلاحی کتب کی اشاعت کا پہلا اقدام بتایا، مقدمہ میں ارائیں نہ لکھا:

”جمعیۃ کے محسن مولانا قاضی الطہر صاحب مبارکپوری نائب مدیر روزنامہ انقلاب بمبئی کے ہم بیحد ممنون و مشکور ہیں کہ جناب موصوف نے جمعیۃ کی درخواست پر اس مختصر لیکن مغید رسالہ کو بڑی کاوش اور محنت شاقہ سے مرتب فرمایا، اور جمعیۃ کے اصلاحی رسالوں کی اشاعت کے مقصد کو عملی جامہ پہنانے میں بسم اللہ کرنے کی سعادت سے مشرف کیا، خداۓ قادر یہ جناب موصوف کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور جمعیۃ کو اس رسالہ کی اشاعت سے مذکورہ بالا مقصد میں کامیابی سے ہمکنار کرے، آمین“

اور مولانا حکیم عظیم صاحب نے ”عنوان حدیث“ کے ذیل میں لکھا:

”اس رسالہ کے مرتب مولانا قاضی الطہر صاحب مبارکپوری کے فکر و مطالعہ کا محور اسلام ہے، اس سے پہلے آپ کی تصانیف میں سے اسلامی نظام زندگی اور افادات حسن بصری شائع ہو چکی ہیں، اور ملک ان سے استفادہ کر رہا ہے، ان کے علاوہ آپ کی اور بھی اردو، عربی کی کتابیں زیر ترتیب ہیں، ان میں ”رجال السند الہند“ (عربی) اسلامی ہند کے قدیم رجال کی بیش بہا تاریخ ہے، موصوف کی علمی و فکری صلاحیت اور طبعی و ذہنی سلامت روی نے ادھر دو تین سالوں سے صوبہ بمبئی کے مسلمانوں میں بہت کچھ دینی اور ملیٰ بیداری پیدا کر دی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج بمبئی کا تقریباً ہر پڑھا لکھا طبقہ آپ کے علمی و فکری مقام سے اچھی طرح واقف ہے، میری دعا ہے کہ جس طرح آپ کے

علمی و دینی، اسلامی و تاریخی مقالات سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اسی طرح اس ٹھوس اور اہم کتاب سے بھی فائدہ ہو اور مسلمان اس پر عمل کر کے اپنے اندر اسلامی زندگی پیدا کریں“

اور میں نے اس کے ابتداء میں لکھا:

”۱۹۷۱ء کے بعد لاہور کو خدا حافظ کہنا پڑا اور اسکے دو سال بعد جمعہ ۲۸ ربیوالجھر ۱۳۶۸ھ کو عروض البلاد بمبئی میں آنا ہوا، اب ربع الاول ۱۳۷۲ھ ہے، اس سو تین سال کی مدت میں بمبئی اور اس کے اطراف کے اکثر و پیشتر مقامات پر آنے جانے اور وہاں کے لوگوں سے ملنے جانے کا اتفاق ہوا، ان میں دیار کوکن اور ان کے ساکنان جنات درکنار کی کشش کے ظاہر رسم و راہ سے گزر کر قلبی اور دینی علاقہ استوار کر دیا ہے، زیر نظر رسالہ بھی اسی علاقہ کمودت و اخوت کا ایک ثبوت ہے جسے جمعیۃ المسلمین جنگیہ کی طرف سے شائع کیا جا رہا ہے اور عامۃ المسلمین خصوصیت سے مسلمانان کوکن اس کے مخاطب ہیں“

اس رسالہ کو اللہ تعالیٰ نے بری مقبولیت دی، اور اب تک چار مرتبہ اس کی اشاعت ہو چکی ہے، سب سے پہلے ساجد لکھنؤی نے چھاپ کر شائع کیا، پھر میں نے انجمن اسلام ہائی اسکول میں معلمی کے زمانہ میں وہاں کے طلبہ کے لئے شائع کیا، اور اس کے بعد مرسرہ دینیہ غازی پور، ویلفیر اکیڈمی مبارکپور، اور جمعیۃ علماء ہند ولی نے مشترکہ طور پر چھاپ کر شائع کیا،

قادری صاحب سے تعلق: بمبئی جانے کے بعد جن لوگوں سے تعلقات ہوئے، ان میں ہمارے محترم و مکرم جناب سید محمد صدیق صاحب قادری مہر مہسلائی سب سے زیادہ قریب ہوئے جیسے ہم لوگ ایک خاندان کے ہیں، میں بمبئی میں نیا نیا گیا تھا، عید میلاد النبی کے ایک جلسہ کے سلسلہ میں جناب محمد بیگ چغتائی مرحوم کے ساتھ کوکن کے مقام شری وردھن گیا، یہ سفر جہاز کے ذریعہ ہوا، واپسی پر رات میں

بندرگاہ پر ایک جوان، نیک سیرت آدمی سے ملاقات ہوئی، اور پہلی ہی ملاقات میں دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، یہ جناب سید محمد صدیق صاحب قادری مہر مُسلاٰی انڈر سکریٹری حکومت مہاراشٹر تھے، واپسی ساتھ ہوئی بعد میں وہ جمیعہ علماء کے دفتر میں ملنے کے لئے آئے اور میں ان کے ساتھ ان کی قیام گاہ پر گیا، اس دن سے آج تک ہمارے تعلقات حド درجہ شفاقت اور مخلصانہ ہیں، طے ہوا کہ میں ہر جمعہ کو ناشتناہ کے لئے ان کے یہاں آیا کروں، اس طرح ملاقات ہوتی رہے گی، چنانچہ اس وضعداری کو دونوں نے ہر حال میں بھاگا، اس کے بعد یہ تعلق میرے بھائی حیات الہبی سے اور میرے لڑکوں سے ہوا اور سب لوگ ایک خاندان کے افراد معلوم ہونے لگے، قادری صاحب کا وطن کو کون کا مقام مہسلہ تھا جنوب ایران خجیرہ کا ایک تعلق تھا، مگر قادری صاحب نہایت باذوق شاعر تھے اور یوپی والوں سے خاص تعلق رکھتے ہیں، اس تحریر سے چار دن پہلے ان کا خط آیا کہ ان کی اہلیہ محترمہ ۲۵ اکتوبر ۱۹۹۱ء کو انتقال کر گئیں، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے۔

ماستر الحاج سید مجید الدین صاحب:- بالکل ابتدائی دور میں جن حضرات سے تعلق ہوا اور چالیس بیالیس سال سے اب تک نہایت خلوص کے ساتھ قائم ہے ان میں ہمارے محترم اور بزرگ ماستر الحاج سید مجید الدین صاحب (سارین، اعظم گلڈھ) خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، ان کا آبائی وطن املو ہے، پیرزادہ خاندان سے ہیں، اس وقت وہ بھائی میں اردو بھائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، خاندانی آدمی ہیں، میں جس زمانہ میں کھانڈ احمد خان منزل کے اوپر رات کو مفتاح القرآن پڑھاتا تھا وہ بھی پڑھنے آتے تھے، حالانکہ وہ ہیڈ ماسٹر تھے، ہم دونوں میں مزانج کی ایسی ہم آہنگی تھی کہ اس وقت کے وہ میرے منس غنچوار تھے، راقوں کو بھائی کے ساحلوں کی سیر کرتے تھے، میں ان سے اور وہ مجھ سے بید مانوس تھے، آج تک ان سے خاندان کی طرح تعلق ہے، میری طرح وہ بھی وطن ہی میں رہنے لگے اور جانین سے آمد و رفت اور دید

و ملاقات جاری ہے، الحمد للہ
مدرسہ احیاء العلوم کے چندہ کی ابتداء:- بھائی جانے کے بعد مدرسہ احیاء العلوم کے لئے وہاں چندہ کرنے کا خیال پیدا ہوا اور مدرسہ کے نائب ناظم مولانا شمس الدین صاحب حسینی سے اس کے بارے میں بات ہوئی، چنانچہ وہ رمضان میں اس کام کے لئے بھائی پہنچے اور ہم دونوں نے مدرسہ کے لئے چندہ کی کوشش شروع کی، راقوں کو لوگوں سے مل کر چندہ وصول کرتے تھے، اس کیلئے بھروسی بھی آنا جانا ہوتا تھا، ان تک کوشش کے بعد آہستہ آہستہ کام بڑھتا رہا یہاں تک کہ یہ سلسلہ مالیگا وہ، دھولیہ، برہان پور اور ناگ پور وغیرہ تک پھیل گیا، ان علاقوں کی جو فصلیں کٹ کر آج بھی احیاء العلوم میں آرہی ہیں، وہ سب ہمارے بنائے ہوئے کھیت کی ہیں، دیہاں مثل ہے، ”کمائے دھوتی والا کھائے ٹوپی والا“

بھاراب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پیداں ہی کی لگائی ہوئی ہے
مرحوم احمد غریب اور ابھسن خدام النبی سے تعلق:- ابتدائی دور میں حکیم عظیمی صاحب مرحوم ایک شخص کی ملاقات کیلئے مینارہ مسجد کے سامنے فینیسی محل میں گئے، مجھے بھی ساتھ لے لیا، وہ صاحب بڑے تپاک سے ملے، چائے وغیرہ پیش کی اور دونوں میں کچھ باتیں ہوئیں، واپسی پر حکیم صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ کونی ہیں یا میمکن؟ تو بتایا کہ میمکن جماعت کے نہایت مخیر، اور مذہبی آدمی احمد غریب ہیں، یہ احمد بھائی سے میری پہلی ملاقات تھی۔

یہ چار بھائی علی الترتیب محمد، احمد، حافظ محمد صدیق، جامع مسجد کے پاس ان کی کٹلیری کی بہت بڑی دوکان تھی، ۱۹۲۲ء سے مکرمہ میں شارع فیصل پر بھی ان کی کٹلیری وغیرہ کی دوکان تھی، چاروں بھائی عربی زبان سے واقف تھے، میمنی، اردو، انگریزی اور عربی سب زبانوں سے واقف تھے، علمائے حق سے تعلق رکھتے تھے اور میمکنوں میں کھلے ہوئے موحدوں پرست تھے، مولانا عبدالماجد دریابادی

کے خاص معتقد تھے، ان سے غائبانہ عقیدت تھی، مولانا بھی ان سے غائبانہ تعلق رکھتے تھے، احمد بھائی ان کے مضامین کا ترجمہ "میمن ویلیفیر" اخبار میں لکھتے تھے، مولانا علی میاں سے بھی عقیدت تھی، صابو صدیق مسافرخانہ میں انجمن خدام النبی کے سکریٹری تھے، بلکہ روح روائی تھے اور جاج کی ہر طرح خدمت کرتے تھے، حج کمیٹی کے ممبر تھے، اور بسمیلی کے دینی ولی کاموں میں بڑھ چڑھ کر مالی تعاون کرتے تھے، ۱۹۵۵ء میں دینی تعلیمی کونسل کا اجلاس ان ہی کی کوشش اور مالی تعاون سے ہوا تھا، ان حضرات کا طعنِ ثانی گویا مکہ مکرمہ تھا، اس وقت وہاں کی حکومت کے ارکان سے خصوصی ربط ضبط اور اثر تھا، احمد بھائی سے اس ملاقات کے بعد غالباً پھر ملنائیں ہوا اور جب "جمهوریت" کا اجراء ہوا تو مجھ کو اور غازی صاحب کو انہوں نے انجمن خدام النبی کے شعبہ نشر و اشتاعت سے منسلک کر کے مراست وغیرہ شائع کرانے لگے، اور جب میں طعن واپس آنے لگا تو احمد بھائی نے مجھے ایک سور و پیہ دیا، میں نے اس روپیہ سے پانی کی مشین لگائی جس کو اس زمانہ میں اعظم گذھ سے والد مرحوم کے ساتھ جا کر غالباً ۹۳ روپیہ میں لایا تھا، یہ مشین آج بھی کام دے رہی ہے۔

"البلاغ" کا اجراء: - اس کے بعد جمعہ ۹ رمضان المبارک ۱۳۷۴ھ (۱۹۵۵ء) میں ۱۲، امری ۱۹۵۲ء کو ہفتہوار "البلاغ" کا اجراء ہوا، اسی کے ساتھ ماہنامہ "البلاغ" کی تاسیس بھی ہوئی، اور دوسرے دو مدیوں کے ساتھ میں بھی ادارت میں شریک کیا گیا، کچھ دنوں کے بعد دنوں مدیوں نے ترک تعلق کر لیا اور میں نے تقریباً ۲۶ رسال تک "البلاغ" کا مدیر تحریرہ کر اس کو جاری رکھا، ہم لوگوں کو ۵۰ روپیہ ماہوار البلاغ سے ملتا تھا، ایک مرتبہ مجھے کچھ روپیہ کی ضرورت پڑی، میں نے احمد بھائی سے قرض کے طور پر طلب کیا اور انہوں نے مطلوبی رقم فوراً دیدی، اسی کے ساتھ پوچھا کہ آپ عربی پڑھ سکتے ہیں؟ وہ سمجھتے تھے کہ بسمیلی کے باہری مولویوں کی طرح میں بھی چالو مولوی ہوں اور مضمون وغیرہ لکھ لیتا ہوں، میں نے کہا کہ میں عربی زبان کا ادیب

ہوں، فلاں فلاں مدرسہ میں تدریسی خدمت کرچکا ہوں، میں ہر قسم اور ہر فن کی چھوٹی بڑی کتاب پڑھا سکتا ہوں، انہوں نے کہا کہ کل صحیح آٹھ بجے سے نوبجے تک آ کر ہم لوگوں کو پڑھائیے، چنانچہ میں نے چاروں بھائیوں کو "ریاض الصالحین" پڑھانی شروع کی، ایک طرف چاروں بھائی بیٹھ کر مجھ سے حدیث پڑھتے دوسرا طرف ان کے لڑکے بچے ایک حافظ و قاری سے قرآن اور تجوید کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور ایک کمرہ میں مکتب و مدرسہ دونوں جاری رہتے تھے اور گھر کے بچے بڑے سب پڑھتے تھے، ان کی والدہ بڑی عابدہ زادہ اور نیک دل خاتون تھیں، لڑکوں کو بھی اپنے جیسا بنا لیا تھا، اب مجھے مہینہ میں سور و پیہ ملنے لگا جو البلاغ کی ادارت اور گھر کی تعلیم کے عوض میں تھا یا یوں ہی وظیفہ تھا، یہی مشاہرہ آخر تک باقی رہا، نہ میں نے کبھی کچھ کہا اور نہ ہی ان حضرات نے اس کی طرف توجہ کی، مگر اس کے باوجود ان کی ذات سے مجھے بے حد علمی فائدہ ہوا اور وہ لوگ میرے محسن اعظم ہیں جیسا کہ معلوم ہوگا، ان کے پاکستان جانے کے بعد تک یہ تعلیمی سلسلہ جاری رہا، دو مرتبہ "ریاض الصالحین" پڑھائی، صحیح مسلم کا ایک خلاصہ پڑھایا، اور المتنقی ابن جارود پڑھائی، اور بعض دوسری حدیث کی کتابیں پڑھائیں۔

اس محمد احمد برادرس اور انجمن خدام النبی نے مجھ کو ۱۳۷۴ھ (۱۹۵۵ء) میں پہلی بار حج و زیارت کی سعادت دلائی، اور مکہ مکرمہ میں ان ہی کے یہاں قیام رہا، ہر طرح آرام پہونچا یا، اس کے بعد ۱۳۷۸ھ (۱۹۵۸ء) میں پانچ ہزار روپیہ سے زائد خرچ کر کے میری کتاب "رجال السندا والہند" طبع کرائی، جس سے ملک دیرہ ون ملک کے علمی حلقوں میں میرا تعارف ہوا، اور اوساط علمیہ میں باوقار مقام نصیب ہوا، پاکستان جانے کے بعد بھی میرے ساتھ ان کا تعلق باقی رہا، انہوں نے بسمیلی میں مشہور احمد بن عمر آئل مل کے مالک اور ان کے رشتہ دار جناب عبد الشتا رسیٹھ سے میرا تعارف و تعلق پیدا کر دیا، جن کی توجہ و عنایت ان کے انتقال ۱۹۹۰ء تک رہی، اور جب

۲۰۰۷ء میں الجامعہ الحجازیہ مبارکپور میں جاری کیا تو حافظ محمد صدیق صاحب کے صاحبزادے عزیزی حافظ محمد امین مقیم مکہ مکرمہ نے اپنے والد مرحوم کی طرف سے مدرسہ میں حجازی مسجد تعمیر کرائی، اس میں تمام تر سرماہی ان ہی کالگاہ ہے، اس کے علاوہ مدرسہ کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس سلسلہ میں مبارکپور آئے، ان باتوں کی تفصیل اپنے اپنے مقام پر آئے گی۔

مولوی محمد عثمان صاحب بمبئی میں:- اس دوران مولوی محمد عثمان صاحب دوبار بمبئی آئے اور دونوں بار انہمن خدام النبی میں آفس انچارج کی حیثیت سے کام کیا، پہلی بار زیادہ دن تک نہیں رہ سکے، دوسرا ۱۹۵۸ء میں کافی مدت رہے، اور یہیں سے مہدی ملت مالیگاؤں گئے اور وہاں سے مدرسہ سراج العلوم دھولیہ میں کافی دن تدریسی خدمت انجام دی۔

رجال السنہ والہندی کی جمع و ترتیب:- انقلاب اور البلاغ میں لکھنے کے ساتھ مشاعروں اور جلوسوں میں بھی شریک ہوتا تھا، مگر بہت جلد مشاعرہ بالکل ترک کر دیا اور جلوسوں میں بھی جانا بہت کم کر دیا کیونکہ ان باتوں میں باتوں میں وقت ضائع ہوتا تھا اور شہرت و ناموری کی ہوں میں علمی ذوق ختم ہو سکتا تھا جس کیلئے میں نے بچپن ہی سے بہت محنت کی تھی، اب فرصت کے اوقات میں رجال السنہ والہندی کی تالیف و جمع و ترتیب میں لگ گیا، صبح دس بجے سے دو بجے تک ابناء مولوی محمد بن غلام سورتی تاجر کتب جامی محلہ میں بیٹھ کر تاریخ و رجال اور طبقات کی کتابوں سے سندری و ہندی رجال کے حالات جمع کرتا تھا، اسی طرح شرف الدین الکتنی واولادہ تجارتی کتب محمد علی روڈ کے بیہاں مستقل طور سے بیٹھ کر کتابوں سے استفادہ کرتا تھا، دونوں کتب خانوں میں اس سلسلہ کی جو کتاب ہوتی تھی، میں سرسری طور سے دیکھ کر اپنے مطلب کی بات نقل کر لیتا تھا، ان کے مالک میرے ساتھ نہایت محبت اور تعاون کا سلوک کرتے تھے، بعض اوقات کتابیں کمرے میں بھی لا کر نقل کرتا تھا، ان دونوں

کتب خانوں سے میں نے خوب خوب استفادہ کیا، اسی کے ساتھ جامع مسجد بمبئی کے کتب خانہ محمد یہ سے بھی استفادہ کرتا تھا اور محترم سید محمد قادری صاحب کے توسط سے سملیل یوسف کانچ جو گیشوری کے عربی پروفیسر مرحوم احمد بہاء الدین داور کر صاحب کے ذریعہ کتب خانہ سے جغرافیہ کی قدیم کتابیں ”المسالک والممالک“ ابن خرد از به ”مسالک الممالک“، ”اصطخری“، ”حسن التقاسیم“، ”مقدی بشاری“، ”مسالک الابصار“، ”فضل اللہ عمری“ اور ”الائد کی مطبوعہ دیگر کتابیں لا کر ان سے نقل کرتا تھا، پروفیسر داور کر صاحب عربی انگریزی کے عالم تھے، بعد میں ان سے بہت سے انگریزی مضامین کا ترجمہ استاد احمد فرید یمانی کیلئے کرایا، ان سے تعلقات نہایت شگفتہ رہے۔

سلطان مُکْلَّا:- میں جن زمانہ میں ابناء مولوی محمد بن غلام سورتی کے کتب خانہ میں بیٹھا کرتا تھا، اس کے مالک عبد العزیز تھے اور ان کے والد مولوی عبدالستار صاحب تقریباً اسی سال کے نہایت بزرگ جہاندیدہ آدمی تھے، اسی اثناء میں ایک مرتبہ ان کے بیہاں مُکْلَّا کے سلطان (غالباً نام) غالب فیضی اپنے ملازموں کے ساتھ تھا، وہ حیدر آباد میں رہتے تھے، اور کتبخانہ والوں سے ان کا پہلے سے تعارف و تعلق تھا، انھوں نے ایک کتاب کسی دینی موضوع پر لکھی تھی مولوی عبدالستار صاحب نے ان کی کتاب پر مجھ سے عربی میں مقدمہ لکھا، ایک مرتبہ شادی کے سلسلہ میں ان کے وطن سورت بھی گیا تھا، حضرت مولانا ابوالوفاء افغانی حیدر آباد سے آتے تو انہی کے بیہاں قیام کرتے تھے اور میری ملاقات ہوتی تھی، مولانا افغانی سے میرے علمی تعلقات بہت گہرے تھے، حیدر آباد ان کا مہمان بننے کا شرف بھی مجھے حاصل ہے۔

ان کتب خانوں کے علاوہ سفر حضر میں جہاں کوئی ایسی کتاب مل جاتی جس میں میرے موضوع کی کوئی بات ہوتی تو فوراً اسے نقل کر لیتا تھا تاکہ کتاب جلد سے جلد مرتب ہو سکے۔

بعد میں ان تمام اقتباسات کو ترتیب کے ساتھ کتابی شکل میں جمع کیا جو میرے

پاس دو خیم کتاب کی شکل میں موجود ہے اور اس کے علاوہ جغرافیائی اقتباسات علیحدہ علیحدہ کاپی میں محفوظ ہیں، جن سے اب تک کام لیتا ہو۔

مولانا محمد اسحاق بنarsi[ؒ]:- اسی زمانہ میں مولانا محمد اسحاق بنarsi[ؒ] بہ سلسلہ تجارت بمبئی آئے اور مسافرخانہ کے پاس الکریم منزل میں رہائش اختیار کی، ان سے لاہور میں خاص تعلق پیدا ہو چکا تھا جب وہ اپنی کتاب کلمات اکابر کی طباعت میں میرے یہاں مہینوں مقیم رہے، ان کے والد مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب نانا مرحوم کے خاص شاگرد تھے، اس وجہ سے اور بھی تعلق تھا، مولانا محمد اسحاق صاحب بڑے نفاست پسند، باذوق، احباب نواز اور مجلسی تھے، ان کے یہاں رات دن لوگوں کا جمکھنا رہتا تھا، جب تک وہ بمبئی میں مقیم رہے، اہل علم و فضل کا مرجع بنے رہے، ان کی مجلسیں بمبئی کی یادگار مجلسیں ہیں، عربوں سے بنarsi کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، اس لئے عرب بھی وہاں آیا کرتے تھے، ملتوں ان کی عدم موجودگی میں ان کا کمرہ میرے قبضہ واستعمال میں تھا، ویسے میں ان دونوں مدن پورہ میں احمد بلڈنگ میں رہتا تھا مگر صبح و شام دفتر البلاغ اور ان کے یہاں آنا جانارہتا تھا، اور بعد میں میں بھی 153 جنگی اسٹریٹ میں چلا آیا تو گوپا ساتھی ہی رہنے لگا۔

استاذ احمد فرید یماںی[ؒ]:- بمبئی میں عربوں کی اچھی خاصی تعداد تھی، ان کی آمد و رفت بھی رہا کرتی تھی، بمبئی کی زبانوں میں عربی بھی ایک زبان تھی، یہاں کے مقیم عربوں اور آنے والے عربوں کے علاوہ سفارت خانوں کے ذمہ داروں سے بھی ملاقات رہتی تھی، ان میں یمن کے استاذ احمد فرید یماںی سے خاص تعلق تھا، یہ اور محمد علی بجاش دونوں مسافرخانہ کے پاس جونا بگالی پورہ میں ” محلات الفرات ” کے نام سے ایک فرم کے ذریعہ یہاں سے عرب کے ممالک میں مال بھیجتے تھے، استاذ احمد فرید بخاری[ؒ] سیاسی اور علمی آدمی تھے، تعلیم زیادہ نہیں تھی مگر کتب بینی اور مطالعہ خوب کرتے تھے، عربی میں مضمون لکھتے تھے، میں اردو میں ترجمہ کر کے چھاپتا تھا، بعض کو صاف کرتا

جس کوہ عربی اخبارات میں شائع کرتے تھے، ان کے ذریعہ مجھ کئی نادر و نایاب کتابیں ملیں، دولت کویت کے شعبہ ”تراث العربی“، سے شائع کتاب ”التحف والذخائر“ انھوں نے مجھے دی، اور میں نے براہ راست اس شعبہ سے خط و کتابت کی جس کے نتیجہ میں وہاں کی نادر و نایاب مطبوعات میرے پاس ہدیہ و تخفہ کے طور پر آنے لگیں بلکہ وہاں کے ذمہ داروں نے مجھ کو علمی مشیر بنا لیا تھا، استاذ احمد فرید یماںی ۱۹۹۰ء میں بمبئی میں انتقال کر گئے، اللہ مغفرت کرے، ان سے اور ان کے بال بچوں سے میرا خصوصی تعلق تھا ان کی بیوی ایک کوئی خاتون ہیں، میرے حال پر بہت مہربان تھے۔

مولانا غلام محمد خطیب جامع مسجد بمبئی[ؒ]:- مولانا غلام محمد خطیب و امام جامع مسجد بمبئی نہایت نیک، خاموش اور دینی معاملات میں مشتمل تھے، تقویٰ و طہارت میں بے مثال اور خوش خلقی و شرافت کا پیکر تھے، انگریزی میں ایم، اے تھے، کسی زمانہ میں بمبئی کے ایک کالج میں پروفیسر تھے، جناب محمد علی زنیل علی رضا جوہری کے مکہ مکرمہ کے درستہ الفلاح میں چھ سال تک درس دے چکے تھے، علمائے حق کے معتقد اور آخر میں مولانا شاہ وصی اللہ صاحب[ؒ] کے وست گرفتہ تھے، ان سے ابتدائی چند مہینوں میں ”یاد اللہ“، ہو گئی تھی، خاص طور سے کوکن کے اصلاحی اسفار کی وجہ بہت قربت ہو گئی وہ بھی اسی علاقہ کوکن کے تھے، وہ میری قیام گاہ کے قریب ہی رہتے تھے میں ان کے یہاں صبح کواکثر جایا کرتا تھا، اور بہت احترام و تکریم سے پیش آتے تھے، ان کے ذریعہ کتب خانہ محمد یہ جامع مسجد سے کتابیں لا کر پڑھتا تھا اور اقتباس لیتا تھا، ”معجم البلدان“، ”کتاب الکتبی“، دولا بی ان کے ذریعہ کتب خانہ سے لا کر پڑھتا تھا، اور ان ہی کے ذریعہ ”تاریخ اسماء الثقات“، ”ابن شاہین کا نادر و نایاب نسخہ لا کر نقل کیا اور بعد میں اس کو تعلیق و تصحیح کے بعد شائع کیا، اسی طرح ”جو اہر الاصول فی علم حدیث الرسول“، کا قلمی نسخہ کتب خانہ محمد یہ سے ان کے ذریعہ لایا اور اپنے نسخہ سے مقابلہ

کر کے شائع کیا۔

ایک مرتبہ انھوں نے تفسیر بیضاوی کے کچھ مقامات پر اشکال کیلئے مجھ سے کہا تو میں نے پہلو تھی کی، انھوں نے کہا کہ بمبئی میں کون عالم ہے جس سے رجوع کیا جائے، ان کے کتب خانہ میں بیٹھ کر کئی دن تک وہ مقامات حل کئے گئے، چند سال ہوئے وہ بھی انتقال فرمائے، رحمہ اللہ وہ میرے بمبئی کے مخلص علمی معاونین میں تھے۔

”البلاغ“ کا تعلیمی نمبر (۱۹۵۲ء): ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱۹۵۱ء میں آل انڈیا تعلیمی کونسل کا اجلاس صابو صدق مسافرخانہ بمبئی میں بڑے شاندار طریقہ پر ہوا، داعی مولانا حفظ الرحمن صاحب ناظم جمعیۃ علماء ہند اور تنظیم الحاج احمد غریب صاحب سکریٹری انہم خدام النبی تھے، اس موقع پر مجلہ ”البلاغ“ کا شاندار تعلیمی نمبر ۳۳۲ صفحات کا شائع کیا گیا، جو ربع الآخر، جمادی الاولی، جمادی الآخری ۱۳۷۲ھ، دسمبر ۱۹۵۲ء جنوری، فروری ۱۹۵۳ء پر مشتمل تھا، اس کی تیاری میں میں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور طول طویل مضامین لکھے، خاص طور سے ”مسلمانوں کے ہر پیشہ اور ہر طبقہ میں علم اور علماء“، ”استشراق اور مستشرقین“، بہت محنت سے لکھے تھے، جن کے بارے میں مولانا عبد الماجد دریابادی نے ”صدق“ میں ان دونوں مقالوں کے بارے میں اپنی تینی رائے ظاہر کی اور لکھا کہ: ان میں ”مسلمانوں کے ہر پیشہ اور ہر طبقہ میں علم اور علماء“ کو بڑھ کر اچھے اچھے بڑھ لکھوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ان کے علاوہ مدرسۃ الاصلاح سر امیر اور جامعہ اسلامیہ ڈا بھیل کی تاریخ لکھی اور کتابوں پر تبصرہ بھی لکھا۔

البلاغ کا یہ نمبر ہندوپاک کی علمی و دینی تعلیم کے سلسلہ میں مأخذ بن گیا اور غیر ممالک سے اس کی طلب آنے لگی، یہ نمبر مسلمانوں کی علمی و تعلیمی تاریخ کا ریکارڈ ہے جو گذشتہ اور موجودہ صدی کا آئینہ دار ہے۔

معارف القرآن کی اشاعت: اخبار انقلاب میں لکھتے ہوئے چار پانچ سال بیت چکے تھے، میں بڑے ہمت و حوصلہ سے لکھتا تھا اور ہر قسم کی دینی، علمی،

تاریخی، سیاسی معلومات قارئین کے لئے فراہم کرتا تھا، عوام و خواص ان کا لمحوں کی اور میری جس قدر تعریف کرتے تھے اسی قدر میرا یہ احساس بڑھتا جاتا تھا کہ میری محنت ضائع ہو رہی ہے اور ان گروں قدر مضمایں کی مدت بہت کم ہے، یہ ضائع ہو رہے ہیں، اخبارات کے مضمایں وقت طور سے پڑھے جاتے ہیں، حالانکہ یہ خام خیالی تھی کیونکہ اس سے میرا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ان کی دینی خدمت تھی، اسی احساس کے ماتحت میں نے جواہر القرآن کا انتخاب کر کے ایک کتاب معارف القرآن کے نام سے ۱۳۷۲ھ، ۱۹۵۲ء میں شائع کی، جو ۱۲۵ صفحات پر مشتمل تھی، جس کے بارے میں مولانا عبد الماجد دریابادی نے ”صدق“ میں لکھا: قاضی اطہر مبارکپوری صاحب ایک کہنہ مشتق، صاحب قلم ہیں، بمبئی کے اخبارات و جرائد میں ان کے تلمیز سے دینی، اسلامی، اصلاحی، عنوانات پر مضمایں سالہا سال سے نکل رہے ہیں، یہ ان کے اسی قسم کے مختصر مضمایں کا مجموعہ ہے اور ہر مضمون کا تعلق قرآن مجید کی کسی نہ کسی آیت سے ہے، تو حیدر، رسالت، کتاب اللہ اور دینی زندگی نظر آئے، قرآن مجید کی جو خدمت بھی خواہ کسی درجہ کی ہوا خلاص کے ساتھ کی جائے مستحق اجر ہوتی ہے، اور اس کتاب کے مصنف اجر کے حقدار تو بہر حال ہو چکے، حالات حاضرہ پر اشارے مصنف جا بجا کرتے گئے ہیں، جو اکثر صورتوں میں مفید ہیں اور پر لطف بھی، مثلاً الائچ (صدق ۵ ربيع الثانی ۱۳۷۲ھ - ۹ نومبر ۱۹۵۲ء)

البلاغ شاہ سعود نمبر: ۱۹۵۵ء میں جلالۃ الملک سعود الاول ہندستان تشرف لائے، یہ حریمین کے پہلے حکمران تھے جو ہندستان آئے اور ان کے جود و سخا کی دھوم پورے ملک میں پچ گئی، حاتم کی یاد تازہ ہو گئی، بمبئی میں ان کی آمد کے موقع پر انجمن خدام النبی نے اتوار ۱۱ دسمبر ۱۹۵۵ء کو ان کے اعزاز میں شاندار استقبالیہ جلسہ مسافرخانہ میں کیا، اس موقع پر البلاغ کا ”سعود نمبر“ ربيع الآخر، جمادی الاولی، ۵، ۱۳۷۲ھ، (دسمبر ۱۹۵۵ء وجہوری، ۱۹۵۶ء) شائع کیا گیا ۱۲۵ صفحات کا،

ابتداء کے ۱۶ صفحات میں عربی زبان میں مضامین تھے، اس میں ”افکار و مطالعات“ کے علاوہ ”ملک“ معظم کے تین خطبے، اور ”مملکت سعودیہ کے مرکزی شہر“، اہمیت کے حامل تھے، ماموں مولانا محمد بیگی صاحب کا عربی زبان میں ایک منظم استقبال تھا، شاہ سعود کی آمد کے دوران ”البلاغ“، اور خدام النبی کے علاوہ مختلف فرموماں اور اداروں نے مجھ سے شاہ کے استقبالی خطبے اور اشتہارات وغیرہ لکھوائے جس سے مجھ کو ہزاروں روپے ملے، اور اس سے میں نے مبارکپور میں سڑک والا مکان غالباً ۱۲۰۰ روپیہ خریدا، میں اس وقت بیمی تھا وہاں سے روپیہ بھیجا تھا والد مرحوم اور بھائی حیات النبی مرحوم نے معاملہ طے کیا تھا۔

شاہ سعود کے قیام بیمی کے وقت بعض اہل علم ان کے متعلقین کے ذریعہ روپیہ وصول کرتے تھے، مجھ سے بھی بعض ہی خواہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کو کہا مگر میری غیرت و خودداری نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا۔

ال الحاج محی الدین منیری اور الحاج مختار احمد: البلاغ میں آنے کے بعد جناب الحاج محی الدین منیری بھٹکی صاحب اور عزیزی الحاج مختار احمد صاحب جاوید سے تعلق ہوا، منیری صاحب انجمن خدام النبی کے آفس انچارج اور البلاغ کے مدیر مسئول تھے اور مختار احمد کے والد حاجی محمد مشتاق ساحب امروہہ کے ایک نیک آدمی تھے، بیمی میں رومال اور گھڑی کی تجارت کرتے تھے، انہوں نے دوسرا نکاح بھٹکی کی ایک خاتون سے کیا، مختار احمد ۱۸۱۸ء سال کے تھے، مسافر خانہ میں عطر کی ایک دوکان پر ملازم ہوئے، میرے کمرے میں رہتے تھے، اور تعلق ہو جانے پر ایک معلم اہل کو مکہ مکرمہ لوگئے وہاں بھی عطر کی دوکان پر رہے، اور حجاج کے ایک ولیل کے یہاں بھی کام کرتے تھے، تقریباً ۱۸۲۵ء سال سے مکہ مکرمہ میں ہیں، وطن بھٹکی آمدورفت ہے، نہایت شریف الطبع، حجاج اور عوام کے خادم، اور بے لوث و بے غرض خوش دل آدمی ہیں، ان سے تعلقات کی نوعیت خاندانی ہو گئی ہے، خالد مکال اور سلمان ببشر کے جامعہ

اسلامیہ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران گویا مختار صاحب ان کے چچا اور سرپرست رہے ہیں، الجامعۃ الحجازیہ کے قیام میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اب تک اس کی طرف خاص توجہ رکھتے ہیں، انہوں نے مجھے مسعودی کی ”مر وج الذہب“ اور شاطبی کی ”الاعتصام“ ہدیہ میں دی ہے، وہ مبارکپور آچکے ہیں، میں بھٹکل جا چکا ہوں، منیری صاحب جب تک بیمی میں رہے جا ج کی خدمت کرتے رہے اور ان کی ہر قسم کی ضرورت کا خیال رکھتے تھے، اب بھٹکل جامعہ اسلامیہ کے ناظم اور دوسری دینی تحریکات کے رکن ہیں۔

پہلا سفر حج (۱۳۷۲ھ): رمضان ۱۳۷۲ھ (مئی ۱۹۵۲ء) میں انجمن خدام النبی کی طرف سے مجلہ البلاغ جاری ہوا اور اس کی ادارت اور انجمن خدام النبی سے منسلک ہوا، اور ایک سال کے بعد ۱۳۷۴ھ میں حج و زیارت کی توفیق مل گئی، طالب علمی کے زمانہ میں سوچا کرتا تھا کہ مدرسی کی تخلوہ سے بھاجا کر بہت دنوں کے بعد یہ دولت نصیب ہو سکتی ہے، انجمن خدام النبی کے مخلاص ارکین احمد بھائی وغیرہ اپنے متعلقین و متولیین کی بڑی قدر کیا کرتے تھے اور ان کو جہاں موقع ملائج کو بھیج دیا کرتے تھے، اس زمانہ میں نہ آج کی طرح مشکلات تھیں اور نہ ہی اتنے اخراجات تھے، احمد بھائی نے کہا کہ ہم آپ کو حج پر بھیجنے چاہتے ہیں آپ کو منظور ہو تو اجازت دیں اور تیاری کریں، میں نے بڑے تشرک کے انداز میں اپنی خوش بختی کا اظہار کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور ۱۹۵۵ء اگست کی یامظفری جہاز سے روانہ ہوا، زندگی میں پہلا حج تھا، جذبات و احساسات میں طوفان تھا جو بیان سے باہر ہے، اس سال مولانا سید حسین احمد صاحب مدینی، مولانا محمد زکریا صاحب سہارنپوری (شیخ اس سال شاہ عبدالقدور راپوری کی عالالت کی وجہ سے حج میں نہیں جاسکے تھے جیسا کہ ”آپ بیتی“ میں مذکور ہے، قاضی صاحب کو سہو ہوا ہے) اور مولانا محمد یوسف صاحب امیر جماعت بلبغ کے علاوہ اور بہت سے متعارفین تشریف لے جا رہے تھے۔ اس مقدس سفر کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے،

مکہ مکرمہ میں احمد بھائی کے یہاں قیام و طعام تھا، ان ہی نے ہر قسم کے اخراجات برداشت کئے، جدہ میں اتر کر دوسرا دن شہر میں گیا، وہاں یاقوت حموی کی مجمع الادباء میں جلدیں صرف بیس ریال میں مل رہی تھی، سوچا کہ بعد میں خریدوں گا مگر نہیں خرید سکا، پرانی کتابوں کی ایک دکان پر طبقات الخواص عدن کے عباد و صالحاء پر دیکھا اس کو نہیں خرید سکا، مکہ مکرمہ سے امام ابن حزم مکی کی محلی اور انہی کی طرق الحمامہ خریدی، اس کے علاوہ رحلہ ابن جبیر خریدا، مدینہ منورہ سے سمودی کی وفاء الوفاء اور ابن بخاری کی تاریخ المدینہ خریدی مگر یہ دونوں کتابیں واپس پر بستر موڑ کے اوپر سے گر جانے کی وجہ سے دوسرے تمام سامان کے ساتھ ضائع ہو گئیں، روضہ مطہرہ کے اندر کی خاک بھی اغوات سے حاصل کی تھی وہ بھی اس میں چلی گئی جسکا بہت افسوس رہا، عرفاء وصالحین نے کہا کہ دیار پاک کی کنکری بھی نہیں اٹھانی چاہئے، اور ان کو ان کے مقدس مقام سے جدا کرنا ادب کے خلاف ہے، شاید اس وجہ سے یہ خاک پاک وہیں رہ گئی، مولانا عبد اللہ زمزی ایک مجدوب قدم کے بزرگ تھے، انہوں نے مجھے کئی کتابیں دی تھیں جو میرے کتب خانہ میں بطور تبرک کے موجود ہیں۔ ان پر ان کا تہذیہ اور دستخط بھی ہیں۔ رجال السنند والہند کی طباعت میں زیادہ صرفہ ہو گا اور پریشانی بھی ہو گیا، لہذا بھی میں طباعت کرالیں، چنانچہ مطبعہ جازیہ بھی سے بات چیت کی، معاملہ طے ہو گیا، فی صفحہ دس روپیہ اجرت طباعت کاغذ کے علاوہ طے ہوئی، ایک ہزار روپیے کے مزید حروف خریدے اور احمد بھائی نے کاغذ پر لیں میں پہنچا دیا، کم و بیش پانچ ہزار روپیہ ان لوگوں نے خرچ کیا، بعض دوسرے اہل خیر نے تعاون کیا اور کتاب چھپ گئی اس کی اشاعت کے بعد اوساط علمیہ میں میرا خصوصی تعارف ہو گیا، کہنا چاہئے کہ اسی کتاب کی وجہ سے تصنیف و تالیف میں اپنا مقام پیدا کیا، ملک اور بیرون ملک کے اہل علم، جرائد و مجلات نے شاندار استقیال کیا۔

رسالہ معارف سے تعلق (۹۵۸ء): ”البلاغ“ کے تبادله میں رسالہ ”معارف“ دارالمسنفین آتا تھا، میں زمانہ طالب علمی سے اس کو نہایت ذوق و شوق سے پڑھتا تھا، اس کے اڈیٹر حضرت شاہ معین الدین احمد ندویؒ ناظم دارالمسنفین تھے، نہایت نیک، بزرگ اور خاندانی عالم تھے، میں ان سے ملنے کے لئے اور کتابوں کی مراجعت کیلئے بھی سے آتا تو اکثر دارالمسنفین جاتا تھا اور ان

الشقاوی عبد الشکور فدا (اندرون باب السلام) میں جایا کرتا تھا کتاب میں پڑھنا تھا اور اہل علم سے ملاقات ہوتی تھی اور مدینہ منورہ میں مکتبہ علمیہ (باب الرحمۃ کے سامنے) میں جاتا تھا یہاں بھی یہی شغل رہتا تھا۔

سے خاص طور سے ملتا تھا وہ مجھ سے بہت مانویں ہو گئے تھے، ایک مرتبہ "رجال السند والہند" کا مسودہ ان کو دکھایا تھا اور انہوں نے صحیح فرمائی تھی "البلاغ" میں میرے تاریخی اور تحقیقی مضامین پڑھتے تھے، کہتے تھے کہ "البلاغ" آتا ہے تو میں آپ کے مضامین خاص طور سے پڑھتا ہوں اور یہ کہ یہ مضامین "البلاغ" کے قارئین سے بالاتر ہیں، آپ ان کو "معارف" میں دیجئے، میں عرض کرتا کہ میرے مضامین اس لائق نہیں ہوتے ہیں، کہتے تھے کہ میں کورس درست کر دوں گا، بہر حال ان کی مشققانہ فرمائش بلکہ اصرار پر میں نے رجال السند والہند کے مسودہ کا خلاصہ "ساتویں صدی تک کے رجال السند والہند" کے عنوان سے ایک طویل مقالہ "معارف" کیلئے تیار کیا، جس کو شاہ صاحب نے جنوری تاریخ ۱۹۵۸ء کے معارف میں تین قسطوں میں شائع کیا اور پہلی قسط کو سر مقالہ بنایا، اس کے بعد "معارف" میں میرے مضامین و مقالات کا سلسلہ شروع ہو گیا، حضرت شاہ صاحب اکثر مقالات کو سر مقالہ بنایا کرتے تھے، "معارف" کی بزم میں مجھ کو لانے والے حضرت شاہ صاحب ہیں، اب میں بسمی سے آتا تو بار بار ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور کھل کر با تینیں کرتا تھا، دیریک بٹھاتے تھے، اٹھنے نہیں دیتے، فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو آپ سے محبت ہے، ایک مرتبہ ردوی سے تشریف لائے تھے، میں گیا تو مجھ کو اپنے کمرے میں یہ کہہ کر لے گئے کہ گھر سے مٹھائی لایا ہوں اور دفتر سے کمرہ تک میرے کندھے پر اپنا دست شفقت رکھے رہے، دوبارج میں ان کا ساتھ رہا، وہاں بھی خوب گذر تی پڑھی اور بہت خیال فرماتے تھے دوسرے رج میں مولانا عبد السلام قدوالی بھی ان کے ساتھ تھے، وہ کہنے لگے کہ اب آپ کو دیکھ کر بڑھاپے کا احساس ہونے لگا ہے، بسمی چھوڑیئے اور دار المصنفین آئیے، میں نے کہا کہ حضرت شاہ صاحب کی نظمات میں رہ سکتا ہوں، فلاں صاحب کی ماحتی میں نہیں رہ سکتا ہوں، شاہ صاحب نے کہا کہ ناظم تو میں ہی ہوں وہ میرے ماتحت رہ کر کام کرتے ہیں، میں نے کہا کہ ایک مرتبہ عالم اسلام کا سفر

کرنے کے بعد سوچوں گا، شاہ صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ اپنی کتابیں دار المصنفین کو دیا کریں، آپ کو مالی فائدہ بھی ہو گا، اور میں عرض کرتا کہ مفتی عیقیق الرحمن صاحب نے میری کتابیں ابتداء میں شائع کر کے اوس اساطیعیہ میں میرا تعارف کرایا ہے، اب یہ بات مردود و اخلاق کے خلاف معلوم ہوتی ہے اور اس سے ان کو قلبی تکلیف ہو گی، شاہ صاحب کے انتقال کے بعد "معارف" میں میرے مضامین شائع کرنے کا سلسلہ بند کر دیا گیا تھا پھر بعد میں گاہے گا ہے چھپنے لگے۔

امحمدن اسلام ہائی اسکول میں (نومبر ۱۹۶۰ء): - احمدن اسلام ہائی اسکول بسمی کے مشہور اسکولوں میں ہے، جو مسلمانوں کے تعاون و توجہ سے چلتے ہیں، اس میں ایک بوڑھے مولوی صاحب دینیات و اخلاقیات کا درس دیتے تھے، ان کے انتقال کے بعد اس جگہ کیلئے پرنسپل ضیاء الدین خلیفہ نے احمد بھائی سے میرے بارے میں کہا، احمد بھائی نے میری مصروفیات کو دیکھتے ہوئے عذر کیا، مگر ان کا اصرار رہا کہ قاضی اطہر مبارکپوری مشہور عالم ہیں ان کی وجہ سے ہمارے اسکول کو فائدہ ہو گا، احمد بھائی نے مجھ سے کہا کہ آپ منظور کر لیں، بچوں کو دینی فائدہ ہو گا اور آپ کو بھی مالی فائدہ ہو گا، اس وقت مجھ کو انقلاب سے ۱۵۰ روپیہ اور "البلاغ" یا احمد بھائی وغیرہ کو پڑھانے پر ۱۰۰ روپیہ ملتا تھا، میں لکھنے پڑھنے میں بے حد مصروف تھا، مگر قبول کر لیا مشاہرہ غالباً ۳۵۰ روپیہ تھا، اور دس سال تک وہاں دینیات و اخلاقیات کی تعلیم دی، یہ زمانہ بسمی میں میری آمدنی کے اعتبار سے بہترین زمانہ تھا، ابتداء میں پورا وقت اسکول میں دیتا تھا بعد میں پرنسپل نے میری مصروفیات کو دیکھتے ہوئے تمام اسپاٹ پہلے وقت میں کرادئے اور میں ایک وقت جانے لگا تھا، ابتداء میں ٹیچروں اور بچوں کو سلام کرتا تھا تو مذاق اڑاتے تھے، مگر بعد میں پورے اسکول میں سلام کا یوں رواج ہو گیا کہ بعض اساتذہ کے بقول مسلم یونیورسٹی علی گذھ کا سماں پیدا ہو گیا حتیٰ کہ ہندو اور عیسائی ٹیچر بھی سلام کرنے لگے، بچے بے حد مانوس ہو گئے، اور میرے ادب و احترام کا پورا پورا

خیال رکھنے لگے، اسی سے متعلق اردو پیرج انسٹی ٹیوٹ تھا، مرحوم عبد الرزاق قریشی (پسمان، عظم گذھ) اس کے رکن اور دو ماہی رسالہ کے مدیر تھے، وہ مجھ سے عربی پڑھنے لگے اور شد بد کی حد تک پڑھ لیا نہایت نیک، صالح اور مغلص آدمی تھے، نجیب اشرف ندوی ڈائرکٹر تھے، حامد اللہ ندوی بھی تھے، ان سب سے تعلقات تھے، انجمن اسلام کے میرے شاگرد اب تک بڑے بڑے عہدوں اور باحثیت ہونے کے باوجود مل جاتے تھے تو احترام میں بچھے جاتے ہیں، یہ بات عربی مدرسون کے طلبہ میں نہیں ہے بلکہ اس کے برخلاف معاملہ ہے۔

ڈاکٹر شیخ عبد منعم النمر اور شیخ عبد العال العقباوی: - ڈاکٹر شیخ عبد المنعم النمر اور شیخ عبد العال العقباوی دونوں حضرات جامعہ ازہر قاہرہ سے دارالعلوم دیوبند میں مبعوث ہو کر جنوری ۱۹۵۶ء میں آئے، اور ۲۷ ماہ یہاں قیام کر کے ۱۹۵۸ء میں واپس ہوئے، ڈاکٹر شیخ عبد منعم النمر سے میری پہلی ملاقات سورت میں جمعیۃ علماء کے سالانہ اجلاس میں ہوئی، وہ ہندوستان کی اسلامی تاریخ جمع کر رہے تھے، اس سلسلہ میں باقی ہوتی رہیں، اسی زمانہ میں انہوں نے "محلہ الحج" مکہ مکرمہ میں "المسلمون فی الهند" کے عنوان سے مضمایں صالح نے "محلہ الحج" مکہ مکرمہ کے ذکر میں میرا حوالہ دے کر بعض باتیں درج کیں، اور جب وہ دونوں حضرات واپس ہونے کیلئے بمبئی آئے اور ہفتتوں بھری جہاز کے انتظار میں مسافر خانہ میں رہے تو ہر وقت ملاقات ہوتی تھی، اس وقت میری کتاب "رجال السندا والہند" چھپ رہی تھی، اور اس کے مطبوعہ فرمتے ڈاکٹر النمر ساتھ لے گئے اور کتاب پر اپنی رائے لکھی جو مطبوعہ بمبئی میں موجود ہے، آدمی متنور، ملنسار، علم و تحقیق کے ذوق کے تھے، اس لئے تعلقات بے تکلفا نہ اور عمیق ہو گئے، اور میرے کمرے میں آنے جانے لگے، پہلی بار آئے اور چٹائی پر کتابوں اور اخبارات کو بکھرا ہوا دیکھا تو بے ساختہ بول اٹھے "یا سلام تأهلت بالكتب والكتابة" یہ جامع جملہ میرا بہترین اور جامع تعارف

ہے، قاہرہ جا کر تاریخ الاسلام فی الہند شائع کی تو ایک نسبت میں ۲۲ اپریل ۱۹۶۱ء کو بھیجا اور لمبا چوڑا خط بھی لکھا، اور "رجال السندا والہند" کا تقاضا کیا جس کو میں نے بھیجا، اس زمانہ میں ہندوستانی سفارت خانہ قاہرہ نے "صوت الہند" کے نام سے عربی میں ایک کتابچہ پروپیگنڈہ کیلئے صالح کیا جس میں نہ صاحب نے ہندوستان کے بارے میں طویل مضمون لکھا اور اس میں انجمن خدام النبی رسالہ البلاغ اور میرا ذکر کیا، بعد میں "محلہ الوعی الاسلامی" کویت کے اڈیٹر ہو کر آئے اس زمانہ میں کویت کے ایک صاحب کو جو بھی آرہے تھے، میرا پتہ دے کر ملاقات کرنے کی تاکید کی تھی وہ کوئی علمی آدمی رہے ہوں گے، مغرب کے بعد میں کمرے میں لکھ پڑھ رہا تھا وہ صاحب کوٹ پتلوں میں ملبوس تھے دروازہ کھولا، سلام کے بعد بیٹھنے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ کہاں بیٹھوں؟ میں نے کرسی کھول دی مگر وہ کھڑے رہے اور کہنے لگے کہ میں تاج محل (ہوٹل) کے فلاں کمرے میں مقیم ہوں، وہاں ملنے، میں نے اچھا تو کہا مگر ملنے کیلئے نہیں گیا، وہ بیچارے نہ صاحب کی ہدایت پر آئے، اپنے موجودہ عربی ذوق کے مطابق ذہن میں بلند خیالات رہے ہوں گے مگر یہاں گرا پڑا کمرہ ٹوٹی گندی چٹائی اور کتابوں کے ڈھیر دیکھ کر ان کو وحشت ہوئی ہوگی، شیخ عبد منعم النمر نے مولانا ابوالکلام آزاد پر ڈاکٹریٹ کی تھی، اور ہندوستان کی آزادی اور مسلمانوں کی جدوجہد پر عربی میں کتاب لکھی تھی، عرب افریقہ کے سفر میں قاہرہ آتے جاتے ان سے بار بار ملاقات ہوتی تھی، ایک مرتبہ ان کے مکان پر بھی گیا تھا، اس وقت وہ جامعہ ازہر کی بعثت کے مدیر تھے اور مبعوثین و مدرسین کا جمیع ان کے آفس میں لگا رہتا تھا، اس کے بعد بھی آئے تو ملاقات ہوئی اور آخر میں گز شستہ سال مولانا آزاد صدی پر حکومت ہند کی دعوت پر دہلی آئے تو دارالعلوم دیوبند سے ان کی ملاقات کیلئے ہوٹل میں گیا اور "العقد الشمین" ان کی طلب پر پیش کی، انہوں نے "الحكومات العربية في الهند" پر شاندار مقدمہ لکھا۔ افسوس کہ ذوق قدر ۱۳۱۱ھ میں قاہرہ میں انتقال کر گئے،

ہاں دارالعلوم دیوبند کے جشن صدر سالہ پر تشریف لائے تھے، اس وقت وزیر اوقاف تھے، اس وقت بھی برابر ملنا ہوتا تھا،

علی و حسین (۱۹۵۹): ۱۹۵۹ء کے حدود میں پاکستان (کراچی) سے محمد احمد عباسی امرد ہوئی کی فتنہ انگیز کتاب ”خلافت معاویہ ویزید“ شائع ہوئی اور ہندوپاک کے بعض طبقوں نے اس کو خوب خوب اچھا اور چھاپ کر شائع کیا، اس کے متعدد جوابات اخبارات و رسائل اور کتابوں میں دئے گئے، میں نے بھی اخبار انقلاب میں ۲/۲ رجماڈی الاولی لغا یت ۱۶ رجماڈی الثانی ۹/۳/۴۷ء مطابق ۷ نومبر تا ۱۸ دسمبر ۱۹۵۹ء قسطوں میں اس کا جواب لکھا، جن کو مرتب کر کے ”علی و حسین“ کے نام سے مارچ ۱۹۶۰ء میں شائع کیا جو کتاب ”خلافت معاویہ ویزید“ کے جواب میں تمام مضامین و کتب میں سب سے بہتر مدل اور صحیح مانی گئی اخبارات و رسائل اور اہل علم نے اس کو واقعی جواب قرار دیا، ”خلافت معاویہ ویزید“ کے پُزور مبلغ و ناشر مولانا عامر عثمانی ”میر تھی“ تھے اور جماعت اسلامی کے عام لوگ اس کوئی تحقیق قرار دیتے تھے، ان کے علاوہ بھی نیم خواندہ طبقہ اس کا پروپیگنڈا کرتا تھا، ہندوپاکستان میں ہنگامہ برپا تھا۔

دبوان احمد (۱۹۵۸): نانا مولانا احمد حسین صاحب عربی کے بلند پایہ شاعر تھے، ان کے اشعار کاغذات میں بکھرے ہوئے تھے، ”رجال السندر والہند“ کی طباعت کے دوران انکو مرتب کر کے شائع کرنے کی تاکہ کسی حد تک یہ ادبی جواہر پارے محفوظ ہو جائیں، اور جیسے تیسے اس کا انتظام کر کے رمضان ۱۳۴۷ء، اپریل ۱۹۵۸ء میں طبع کرایا، مولانا احمد حسین صاحب، مولانا عبد العزیز میمنی راجکوئی اور مولانا ظفر الدین صاحب بہاری تینوں اہل علم نے مولانا شیخ محمد طیب صاحب عرب ملی سے مدرسہ عالیہ را مپور میں عربی ادب کی تعلیم حاصل کی، مولانا احمد حسین صاحب صاحب دیوان شاعر ہوئے، مولانا ظفر الدین صاحب بہاری نے بعد میں مولانا احمد رضا خان بریلوی سے تلمذ حاصل کیا اور حدیث میں ”صحیح البهاری“

لکھی، اور مولانا عبد العزیز میمنی راجکوئی عربی زبان و ادب کے عالمی ادیب و عالم تسلیم کئے گئے، ”کتاب الامالی“ ابو علی قالی کی شرح لکھی..... کے زائد اشعار جمع کئے، ابوالعلاء معری پر کتاب لکھی، الغرض عالمی شهرت کے مالک تھے، ان تینوں حضرات کے شیخ محمد طیب صاحب عرب کے شرف تلمذ کے بارے میں مولانا ابو محفوظ الکریم موصوی (کلکتہ) نے رقم کو براہ راست معلومات دی ہے اور اپنے ایک طویل عربی کے قصیدہ میں اس کا ذکر بھی کیا ہے۔

مولانا عبد العزیز میمنی راجکوئی (۹۲۳ھ): ۹۲۳ھ میں دنیا نے ادب و عربیت کے مشہور عالم ادیب مولانا عبد العزیز میمنی راجکوئی سے ملاقات ہوئی، معلوم ہوا کہ صابو صدقیق انسٹی ٹیوٹ شیفرو ڈی میں ”عربی اور فارسی“ کے موضوع پر ان کا لکھر ہے، دفتر انقلاب سے قریب ہی یہ اسکول ہے، شام کو چار بجے میں اپنے کام سے فارغ ہو کر سادہ لباس میں لکھر سننے کیلئے گیا، پورا ہاں جدید تعلیم یافتہ لوگوں سے پُر تھا، پرنسپل سید شہاب الدین دسنوی نے مجھے ایک میز پر بٹھایا اور خود بھی اسی پر بیٹھے، لکھر ختم ہونے پر لوگ میمنی صاحب سے ملاقات ٹوٹ پڑے، آخر میں دسنوی صاحب نے میرا تعالیف کرایا، فوراً انہوں نے کہا کہ میں آپ کی کتاب ”رجال السندر والہند“ پڑھی ہے، (جونی نئی شائع ہوئی تھی) اور کہا کہ معارف میں آپ کا مقالہ ”دولت سامانیہ سنجان“ بھی پڑھا ہے، (یہ مقالہ معارف میں مارچ تا مئی ۱۹۵۹ء تین قسطوں میں شائع ہوا تھا) ”رجال السندر والہند“ کے بعض اشعار کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ کہتے ہوئے میرا ہاتھ بکڑا اور سب سے یکسو ہو کر بات کرتے ہوئے موڑ پر بٹھایا اور اپنے ساتھ مینارہ مسجد کے عقب میں آفندی صاحب کے بیہاں لیوا گئے جہاں وہ مقیم تھے، (آفندی صاحب راشنگ آفسر تھے) وہ پاکستان سے آئے تھے، کئی دن تک صحیح و شام ان کے بیہاں آتا جاتا رہا، بڑی محبت اور خوردنوازی سے ملتے تھے، ان میں اہل علم کی شان تھی، تعلیٰ بھی بہت تھی، کہتے تھے کہ مجھے عربی کے دولا کھا اشعار یاد

ہیں، اپنے حریف مولانا ابو عبد اللہ سورتی کا نام لیتے تو اخی رض کہتے تھے، ہماری طالب علمی کے زمانہ میں جب ان کی شرح ”امالی“ ابو علی قالی مصر سے شائع ہوئی تھی تو مولانا ابو عبد اللہ سورتی نے اس پر ”معارف“ میں سخت تقدیم کی اور مولانا راجکوٹی نے ”برہان“ میں اس کا جواب لکھا، دونوں ادیبوں کی نوک جھونک کافیصلہ مولانا اعزاز علی صاحب نے کیا اور معاملہ ختم ہوا بات میں مولانا نے بتایا کہ ”مقامات حریری“ کا سب سے صحیح نسخہ ہے جو ۱۹۲۳ھ میں لکھنؤ میں فارسی ترجمہ کے ساتھ چھپا ہے، یہ نسخہ میرے پاس موجود ہے، ان کا ارادہ کراچی میں ایک شاندار کتب خانہ قائم کرنے کا تھا، اسی زمانہ میں احمد بھائی مرحوم نے ناسک کے مشہور عالم عبد الفتاح گلشن آبادی کا پورا کتب خانہ خرید لیا تھا جس میں بہت سے مخطوطات تھے، مولانا نیمنی بہت سے مخطوطات لے گئے جن میں فتاویٰ مولانا ہاشم تتوی کی جلدیں بھی تھیں، میں نے بھی اس کتب خانہ سے کئی کتابیں حاصل کیں، کئی دنوں تک مولانا نیمنی کی مجالس سے علمی وادبی اور تاریخی فائدے حاصل ہوئے اور ان کو بہت قریب سے دیکھنے اور سننے کا اتفاق ہوا، میں نے اپنے بعض مضامین میں ان کے استفادات سے کام لیا ہے، اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ میرے نانا کے ساتھ مدرسہ عالیہ رام پور میں مولانا شیخ محمد طیب صاحب عرب کی سے پڑھتے تھے، یہ بات چند سال پہلے معمومی صاحب سے معلوم ہوئی ہے۔

الحج سیٹھ ابراہیم موتی والا صاحب نیمن، دھوراجی کے اہل علم ہیں اور اہل علم کے قدر داں ہیں، ان کا بیان ہے کہ کراچی میں مولانا عبد العزیز راجکوٹی نے ایک مجلس میں فرمایا کہ ہندوستان میں عربی کے دو عالم و مصنف قابل ذکر ہیں، ایک مولانا ابو الحسن علی ندوی اور دوسرے مولانا قاضی اطہر مبارکپوری، اس وقت سے میں نے قاضی صاحب سے علمی ربط پیدا کرنا شروع کر دیا، (وہ مجھے اپنے طلن دھوراجی لے گئے تھے) نارجیل سے خیل تک (۱۹۶۲ء): ”narjil سے خیل تک“ کے عنوان

سے عرب و ہند کے تعلقات پر میرا ایک طویل مقالہ ”معارف“ میں میں تا اگست ۱۹۶۲ء میں چار قسطوں میں شائع ہوا، اس کی اہمیت و افادیت حکومت ہند نے بھی محسوس کی اور اس کے بعد اس کا عربی ترجمہ کر کے سرکاری سہ ماہی عربی مجلہ ”ثقافة الہند“ میں شائع کر کر بہت سے پرچے عرب ممالک کے سفارت خانوں میں بھیجا اور ہندوستان کے عرب ممالک میں ہندی سفارت خانوں کو بھیجا اور تقسیم کرایا، اس کی اہمیت کے پیش نظر سعودی عرب کے مشہور ادیب و محقق اور مصنف و صحافی استاذ عبد القدوس انصاری نے اپنے مجلہ شہریہ ”المنهل“ جدہ میں دو یا تین قسطوں میں اہتمام سے شائع کیا اور اس پر کچھ تعلیقات بھی کیں، ”ثقافة الہند“ اور ”المنهل“ کے یہ سب پرچے میرے پاس محفوظ ہیں،

носاری (گجرات) کے گجراتی پرچہ ”قلم“ میں اس کا گجراتی ترجمہ شائع ہوا، احمد آباد سے ایک غیر مسلم اسکالرنے اس کے بارے میں مجھ سے خط و کتابت کی۔

جدہ میں سعودی سفارت خانہ میں دعوت (۱۹۶۵ء): میں جب ۱۹۶۵ء میں دوسری بار حج و زیارت کیلئے گیا تو ہندوستانی سفارت خانہ جدہ نے میری شاندار دعوت کی اور سعودی عرب کے صحافیوں کو مدعو کیا، اس وقت جناب سید شہاب الدین ممبر پارلیمنٹ ہندوستانی سفارت خانہ میں غالباً فرست سکریٹری تھے، بڑے چاق و چوبند اور فعلی آدمی ہیں، اخبارات میں اس دعوت کا اعلان کیا اور رات کو سفارت خانہ کی طرف سے اس کے آفس میں دعوت کی، جس میں سعودی عرب کے ادباء و مصنفوں اور صحافی مدعو تھے، ان ہی میں استاذ عبد القدوس انصاری بھی تھے، جنھوں نے اپنے مجلہ میں میرا مقالہ شائع کر کے اس پر تعلیق کی تھی، اس تقریب میں ان سے پہلی ملاقات ہوئی جو بعد میں مستحکم علمی تعلقات کا باعث بن گئی، میری دو کتابوں پر انھوں نے مقدمہ لکھا، ۷ رب جب ۱۹۶۳ء کو فوت ہوئے، رحمۃ اللہ استقبالیہ میں کھانے کا انتظام مغربی طرز پر کھڑے کھڑے تھا، میں نے جرأت

کر کے کہا کہ میں اسلام کے وطن میں نصاریٰ کے طریقہ پر نہیں چلوں گا، یہ کہہ کر اپنے حصہ کا کھانا لے کر دوسری طرف میز کری پر بیٹھ گیا، یہ دیکھ کر سب حضرات نے ”والله صحیح والله صحیح“ کہتے ہوئے میز کری پر کھانا کھایا۔

اس زمانہ میں میرے کئی مضامین متعلقہ ہندو عرب مطبوعہ ”معارف“ کا عربی میں ترجمہ ”ثقافۃ الہند“ میں چھپا، ترجمہ مولانا وحید الزماں صاحب کیرانوی کے بھائی مولانا عمید الزماں کیرانوی کرتے تھے، ایک بار انھوں نے اس سلسلہ میں بعض باتیں بھی معلوم کی تھیں، ”ثقافۃ الہند“ کے مضامین پر معاوضہ ملتا ہے اسی دوران اس کے شرکیک ادارہ مصر کے صحافی زبی قاہرہ جاتے ہوئے بمبئی آئے اور میری ان سے ملاقات ہوئی، میرے مضامین کا تذکرہ آیا تو انھوں نے پوچھا کہ معاوضہ ملتا ہے یا نہیں؟ میں نے انکار کیا تو کہا کہ ادارہ کے لوگ اس رقم کو لے کر ہضم کر جاتے ہیں، آپ ان پر مقدمہ کریں، میں نے ان کو لکھا تو جواب دیا کہ ہم نے دارالصنفین سے اجازت لی ہے، اور مولانا شاہ عین الدین صاحب ندوی کو میں نے لکھا تو انھوں نے جواب دیا کہ مجھ سے کسی نے اجازت نہیں لی ہے، بات آئی گئی ہوئی، سالوں تک ”ثقافۃ الہند“ میرے نام آتا رہا،

مزید انہاک :- میں ”انقلاب“ اور ”البلاغ“ کے علاوہ ”معارف“ ”صدق جدید“ اور ”برہان“ وغیرہ میں مضامین لکھنے کے ساتھ عربی اردو میں تصنیف و تالیف میں ہمہ وقت مصروف رہا کرتا تھا، اسی میں بہت محمد دطور پر شہر کی علمی و اصلاحی سرگرمیوں میں حصہ لیتا تھا، الغرض اپنے کو بالکل مصروف کر رکھا تھا، مولانا محمد منظور صاحب نعمانی نے ایک مرتبہ بمبئی میں کہا کہ آپ کے انہاک و مصروفیت کو دیکھ کر الفرقان کے لئے مضمون کا تقاضہ کرنے میں ڈر معلوم ہوتا ہے، اس دوران انجمن اسلام ہائی اسکول کی ملازمت کرنی پڑی، ابتداء میں پورا وقت دینا پڑتا تھا جس کی وجہ سے میرے لکھنے پڑھنے میں حرج ہو رہا تھا اور سخت پریشانی تھی کہ میں عربی مدرسہ کا

آدمی ہوں، اگر مدرسی کرنی ہو تو کسی مدرسہ میں جانا چاہئے تھا، اسکول وغیرہ کی ملازمت میرے ذوق کے بالکل خلاف تھی، اسکول کے طلبہ کو دینی باتیں سکھانا، دینی قصہ سنانا اور دین کی موٹی موٹی باتیں بتانا میرے نزدیک بے جوڑ بات تھی، میں نے دولت کے شہر میں دولت کی طرف نہیں دیکھا، اسکول میں آ کر میرا علم ختم ہو رہا ہے، روپیہ مقصود ہوتا تو بڑے بڑے سرمایہ داروں کی پیش کش کو قبول کر لیتا، اس احساس کے بعد میں نے لکھنے پڑھنے میں مزید انہاک پیدا کر لیا، انجمن اسلام ہائی اسکول میں کریمی لاہوری کے نام سے قدیم اردو عربی فارسی کتابوں کا اچھا خاصاً ذخیرہ تھا، اس کو میں نے غنیمت سمجھا اور اس سے کتابیں لا کر استفادہ کرنے لگا، قدیم اردو اخبارات سے مبارکپور اور عظیم گلڈھ کے بارے میں معلومات جمع کرنے لگا، گذشتہ صدی میں یہاں کے فسادات وغیرہ کے بارے میں کافی مواد جمع کیا۔

عرب و ہند عہد رسالت میں (۱۹۶۲) انجمن اسلام ہائی اسکول کی ملازمت اور اپنی مصروفیات میں میں نے علمی کام کی توجہ زیادہ کر دی اسی وقت خیال ہوا کہ عہد رسالت اور ہندوستان کے نئے موضوع پر لکھنا چاہئے، میرے پاس رجال السنداں والہند کے مسودات تواریخ و جغرافیہ کے اقتباسات مختلف مقدار میں محفوظ تھے، ان سے کافی مدد ملی، نیز اس موضوع کے متعلق معلومات کرنا شروع کیا اور پہلی قسط ”نارجیل سے خلیل تک“ چار نمبروں میں ۱۹۶۲ء کے معارف میں شائع کیا جو بیجد مقبول ہوا جیسا کہ لکھ چکا ہوں اس کے بعد اس سلسلہ کے مضامین لکھتا رہا جو شائع ہوتے رہے، بعد میں آخری ابواب و صفحات کا اضافہ کر کے عرب و ہند عہد رسالت میں مرتب کر لی، سوال اسکی طباعت و اشاعت کا تھا، مولانا مفتی عقیق الرحمن صاحب مختلف تقریبات میں بمبئی آتے جاتے تھے، وہ پہلے ہی میرے حال پر مہربان تھے، میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ اس کونڈوہ امصنفین سے شائع فرمائیں۔ مفتی صاحب نے نہایت اشراحت سے اس کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ ایسی عمدہ تاریخی کتاب ندوہ امصنفین

سے ضرور شائع ہوگی چنانچہ میں نے ربیع الثانی ۱۳۸۲ھ (اگسٹ ۱۹۶۲ء) کو مسودہ ان کے حوالہ کیا اور کتاب رمضان المبارک ۱۳۸۵ھ (جنوری ۱۹۶۵ء) میں تقریباً پانچ مہینہ کے اندر چھپ کر شائع ہوگئی، اور خدا کے فضل و کرم سے اوساط علمیہ میں امید سے زیادہ مقبول ہوئی، ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالجلیل عزت عضو جماعت الجوث الاسلامیۃ قاہرہ نے العرب والہند فی عہد الرسالت کے نام سے اس کا ترجمہ کر کے الہیۃ المصریۃ العالمة لکتاب قاہرہ سے شائع کیا، مکتبہ عارفین کراچی نے اس کا عکسی فوٹو شائع کیا، تنظیم فکر و نظر سکھر سندھ نے بھی اس کا فوٹو شائع کیا اور سندھی زبان میں اس کا ترجمہ ”عرب ہند نبی جن جی زمانی ہر“ کے نام سے شائع کیا، یعنی یہ کتاب اب تک تین بار چھپ چکی ہے اور عربی اور سندھی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔

پروفیسر میر محمود حسین ایم اے، نیپکر رفارسی عربی، شعبہ تحقیق اردو، جامعہ میسور نے ۱۴۲۸ء کو اس کتاب کے انگریزی زبان میں ترجمہ کی خواہش کی اور اجازت طلب کی۔ معلوم نہیں انہوں نے یہ کام کیا یا نہیں؟

ڈاکٹر عبدالعزیز عزت مصری:- اس دوران بمبئی میں استاذ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالجلیل عزت مصری جامع ازہر کے ایک فاضل مصری جوان حکومت مصری کی طرف سے بمبئی میں عربی تعلیم کیلئے معمول ہو کر آئے، ان کو میرے بارے میں قاہرہ ہی میں معلومات تھیں، اور مصری قڑاء جو رمضان میں بمبئی آتے تھے ان سے میرے حالات معلوم ہوئے تھے، انہوں نے قاہرہ میں اچھی خاصی اردو زبان حاصل کر لی تھی، جس طرح ہم لوگ عربی زبان پڑھ کر سب بچھ سمجھ لیتے ہیں مگر بولنے میں وہ بات نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح وہ اردو کی کتابیں اخبارات و رسائل سب اچھی طرح پڑھتے اور سمجھتے تھے مگر بولتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ کوئی مدرسہ کا مولوی عربی بول رہا ہے، انہوں نے مجھ سے ملاقات کی اور اسی وقت سے ہم دونوں میں علمی تعلقات ہو گئے، بعد میں وہ رئیس ہائی اسکول بھیونڈی میں چلے گئے اب اور زیادہ تعلقات ہو گئے، وہ

تقریباً تین سال یہاں رہے اور ۱۹۶۵ء میں قاہرہ والپس جانے لگے تو میں نے اپنی تازہ تصنیف ”عرب و ہند عہد رسالت میں“ ان کو دے کر عربی میں ترجمہ کرنے کی خواہش ظاہر کی اور انہوں نے بخوبی اس کو منظور کر لیا اور کچھ ہی مدت کے بعد عربی ترجمہ شائع ہو گیا، ایک ملاقات میں انہوں نے بتایا کہ جماعت الجوث الاسلامیۃ میں کئی سو کتابیں قبل اشاعت تھیں، مگر ان میں سے صرف چھ کتاب کو فی الحال منتخب کیا گیا جس میں یہ کتاب بھی تھی، کیونکہ یہ اپنے موضوع پر بالکل نئی کتاب تھی اور اس میں ندرت بھی تھی۔

بعد میں ڈاکٹر عبدالعزیز نے کراچی میں رہ کر وہاں کی یونیورسٹی سے داکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، ان کے میرے لڑکوں خالد کمال، سلمان بشیر اور مرحوم بھائی حیات النبی وغیرہ سے ذاتی اور خجی تعلقات ہو گئے تھے، عرب و افریقہ کے سفر میں قاہرہ میں آتے جاتے ان سے ملاقاتیں رہا کرتی تھیں، انہوں نے میری کتاب ”ہندوستان میں عربوں کی حکومتیں“ کا بھی عربی میں ترجمہ کر کے ریاض سے شائع کیا ہے، نیز علامہ سید سلیمان ندوی کی کتاب ”عربوں کی جہاز رانی“ کا ترجمہ ”الملاحة عند العرب“ کے عنوان سے کیا ہے، بہت خلیق، شریف انسف اور علمی آدمی ہیں، میری کتاب ”تدوین و سیر و مغازی“ پر جامع ازہر کے مجلہ ”الازہر“ میں بہترین تبصرہ کیا ہے، گاہے گاہے خط و کتابت رہتی ہے۔

شیخ صلاح ابو اسماعیل اور مصری قراء:- حکومت مصر کی جانب سے رمضان میں بمبئی میں مصری قراء و مجوہ دین بھیجے جاتے تھے جو جمیعہ علماء کے زیر اہتمام بمبئی وغیرہ کی مختلف مساجد میں تراویح کے بعد قرأت کا مظاہرہ کرتے تھے اور خطبہ بھی دیتے تھے، اور میں ان کا ترجمہ کیا کرتا تھا، پورے شہر اور اطراف میں ان کے ساتھ رہتا تھا، ان کی قیام گاہوں (ہوٹلوں) میں جاتا تھا، ان میں ایک جوان ازہری عالم و فاضل شیخ ابو اسماعیل تھے، جوز بردست عالم دین، نہایت پابند شرع اور نیک

اس سے پہلے مولانا عبد الحمید نعماٰنی نے معهد ملت کے نام سے ایک مدرسہ جاری کیا، وہ بمبئی میں اکثر آتے تھے اور میرے کمرے میں ”عثمان تاریخ کی روشنی“ نامی کتاب کی کتابت کر رہے تھے، جوڑا کٹر طہ حسین کی ایک کتاب تھی، اس میں انحراف بھی تھا، اسی زمانہ میں مولانا حبیب الرحمن صاحب عظیمی بمبئی زیادہ آتے جاتے تھے، معهد ملت کے افتتاح کیلئے میرے دوست استاذ اسْعَیلِ مدحت استاذ المدرسة الکویتیہ بمبئی میری سفارش پر میرے ساتھ گئے، مولانا نعماٰنی چاہتے تھے کہ مولانا حبیب الرحمن صاحب عظیمی معهد ملت میں کچھ وقت دیں اور ایک اسکیم بنائی کہ ایک ادارہ مالیگاؤں میں قائم کر کے عربی کی نادرونا یاب کتب اور مخطوطات کی اشاعت کی جائے، تاکہ مولانا عظیمی وہاں آئیں جائیں، وہ مجھ سے بار بار کہتے تھے کہ مولانا عظیمی کو تیار کرو، مولانا عظیمی سے بھی کہتے تھے، جب ان کا اصرار زیادہ ہوا تو مولانا عظیمی نے مجھ سے کہا کہ مالیگاؤں چلو ادارہ قائم کیا جائے، چنانچہ ہم لوگ مالیگاؤں گئے، اس وقت معهد ملت کے اولیں مدرسین مولانا بشیر احمد صاحب مبارکپوری، مولانا محمد عثمان صاحب مبارکپوری اور مولانا حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی تھے، نیز مقامی اہل علم میں مولانا محمد عثمان، مولانا عبد القادر، مولانا نعماٰنی، حاجی یحییٰ زیر وغیرہ تھے، سب نے اس کیلئے کوشش کی، مالیات فراہم کئے اور عہدہ دار منتخب ہوئے، میں اس سلسلہ میں ایک ہفتہ تک مالیگاؤں میں ٹھہر ارہا اور ۱۹۶۰ء (۱۳۸۰ھ) میں اس ادارہ سے مولانا حبیب الرحمن صاحب عظیمی کی تعلیق و صحیح کے ساتھ پہلی کتاب ”انتقاء“ (اختصار کتاب الترغیب والترہیب للمنذری، لابن حجر، م، ۲۵۷ھ) عربی ٹائپ میں شائع کی گئی، اس درمیان مولانا نعماٰنی وغیرہ نے یہ اسکیم بنائی کہ باہر کے مدرسین کے بجائے مقامی مدرسین رکھے جائیں، اور مبارکپور وغیرہ کے مدرسین الگ کر دئے گئے، یہ تجویز علاقائی عصیت کے ماتحت تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ دوسری جگہ کے لوگ ہمارے یہاں آ کر پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہم کو چاہئے کہ اپنے لوگوں کو رکھیں، اور مقامی فارغین

وصاحح انسان تھے، ان سے میرے تعلقات خاص طور سے ہو گئے، وہ کئی سال تک آتے جاتے رہے اور میں ان کے ساتھ رہتا تھا، ایک مرتبہ آزاد میدان میں انھوں نے عید کا خطبہ دیا اور میں نے ترجمہ کیا، بعد میں ان سے خط و کتابت نہیں رہی، اور جب عرب و افریقہ کے سفر کے سلسلہ میں پہلی منزل ریاض میں پہنچا تو ایک مصری اخبار میں ان کی تصویر اور ان کا نہایت شاندار دینی مقالہ دیکھا اور یہ اس وقت مصری پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، خیال ہوا کہ قاہرہ میں ان سے ملاقات ہوگی وہاں پہنچ کر ان کا پتہ معلوم کیا، مغرب کے بعد ان کے یہاں پہنچے، خالد کمال ساتھ تھے، اس وقت ان کے یہاں کئی مصری علماء و فضلاء اور اعیان جمع تھے، ایک پکے عالم دین دوسرے پارلیمنٹ کے ممبر، صورت دیکھتے ہی مصریوں کے خاص انداز میں استقبال کیا اور بار بار کہتے رہے: این اڑاک، این اڑاک این بمبئی و این القاهرہ، پھر اپنے احباب سے تعارف کرایا اور خاطر تواضع کی، ان لوگوں میں ہندوستان و پاکستان کا تذکرہ آیا تو کہا کہ ہم لوگوں کا قول ہے: الاسلام فی الہند والمسلمون فی باکستان، یعنی اسلام تو ہندوستان میں ہے اور مسلمان پاکستان میں ہیں، اس کے بعد سخت اصرار کر کے دوسرے دن رات میں نہویت پر تکلف دعوت طعام سے نوازا، اور اسلامی اخلاق کے ساتھ مصری اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہے، وہ خالص دینی عالم تھے، کہتے تھے کہ میں اپنے حلقہ انتخاب میں ہفتہ میں دو دن وعظ کیلئے جاتا ہوں، آج وہاں جانے کی باری ہے، پارلیمنٹ میں میلاد النبی کے بارے میں نہایت تند و تیز تقریر کی تھی، اس کا تذکرہ بار بار کرتے تھے اور حکومت پر تنقید کرتے تھے، وہ اخوانی تو نہیں تھے مگر ان کے ذہن و مزاج کے عالم تھے، مصری پارلیمنٹ میں ان کے علم و فضل اور تقویٰ کی وجہ سے بڑی وحاشی بیٹھی تھی۔

ادارہ احیاء المعارف، مالیگاؤں (۱۹۶۰ء): ۱۳۸۰ھ (۱۹۶۰ء) کے حدود میں مالیگاؤں میں ”ادارہ احیاء المعارف“ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا،

وعلماء ہی کام سنپھالیں، اس کا اثر دور نزد یک پڑنے لگا اور میں اس کا مقابلہ ہو گیا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ادارہ سے پہلی کتاب نکلی تو اس میں مولانا حبیب الرحمن صاحب عظیمی، مولانا عبدالحمید نعماںی اور مولانا محمد عثمان صاحب مالیگانوی ہی ادارہ کے سب کچھ تھے، اور ان یہی کی جدوجہد سے یہ ادارہ قائم ہوا تھا، بہر حال اس کے بعد مولانا عظیمی کی تعلیق و تصحیح سے حضرت عبد اللہ بن مبارکؓ کی کتاب ”الزہد والرقائق“ ۱۳۸۵ھ (۱۹۶۶ء) میں شائع ہوئی، اس کے بعد نہ یہاں سے کوئی کتاب شائع ہوئی اور نہ ادارہ کا پتہ چلا، البتہ اس سے مولانا حبیب الرحمن صاحب عظیمی کی علمی خدمت کا شہرہ ہوا، اور مجلس علمی ڈائیکٹر کی طرف سے شائع ہونے والی کتب احادیث کی تعلیق و تصحیح کی خدمت انجام دینے لگے، یہ اس ادارہ کی برکت تھی کہ مولانا عظیمی کا علمی مقام تسلیم کیا گیا اور نہ اس سے پہلے ان کے علم کا فیض ”نصرۃ الحدیث“، الاعلام المرفوع، رکعات تراویح اور بعض دیگر تخلص رسائل تک محدود تھا، جو منوں میں رہ کر مولانا کے قلم سے نکلے تھے۔

اہل بمبئی کی پیشکش اور میری بے رغبتی: ”انقلاب“ اور ”البلاغ“ کی وجہ سے میرا تعارف شہرت کی حد تک ہر طبقہ میں ہو گیا، عوام خواص، امیر غریب، قدیم و جدید تعلیم یافتہ اور اہل سیاست سب، ہی محبت بلکہ عقیدت کا مظاہرہ کرنے لگے، کیونکہ میں خدمت کے طور پر بے لوث کام کرتا تھا، سیمیٹھوں اور مالداروں سے دور رہ کر اپنے علمی کاموں میں مصروف رہتا تھا۔

کئی بڑے لوگوں نے خواہش ظاہر کی میں ان کے یہاں آؤں جاؤں یا ان کو اور ان کے بچوں کو ٹیشن کے طور پر تعلیم دوں، دوسروں سے کہلواتے تھے مگر میں اس کیلئے تیار نہیں ہوتا تھا، حالانکہ پیسہ کمانے کا خوب موقع تھا اور بہت سے مولوی ملا اس طرح کماتے تھے مگر میرا مقصد دولت کمانا نہیں تھا، بلکہ دولت کے شہر میں رہ کر علم دین کی خدمت تھا، البتہ ایک خاندان محمد احمد برادرس (احمد بھائی) سے اس قسم کا تعلق

انجمن خدام النبی اور البلاغ کے ذریعہ پیدا ہوا اور ان حضرات نے میری ہر طرح قدر دانی کی اور میرے علمی کام کو آگے بڑھایا، ایک زمانہ میں احمد بھائی مجھ سے بار بار کہتے تھے کہ کوئی چھوٹی سی فیکٹری لگالیں، فیکٹری ایریا تلاش کریں تاکہ اطمینان و سکون کے ساتھ کام کریں اور معاشری حالت اچھی رہے، ان کے اصرار پر میں بعض جگہ گیا بھی، مگر چونکہ روحانی نہیں تھا اس لئے بیٹھ گیا، حکیم عظیمی صاحب مجھ کو بار بار تاکید کرتے تھے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاوا اور احمد بھائی کی توجہ سے کوئی کارخانہ یا فیکٹری لگا لو۔ بعض احباب خصوصاً ہمارے مخلص دوست قادری صاحب بار بار کہتے تھے کہ میں کمرے کا انتظام کر دیتا ہوں بال بچوں کو یہاں بلا لیں مگر میں اس کیلئے تیار نہیں ہوا، کیونکہ بمبئی کی زندگی مجھے بالکل پسند نہیں تھی، میں تیس سال بمبئی میں رہا مگر اپنے کو بمبئی والا نہیں بنایا اور نہ کبھی وہاں مستقل قیام کا خیال ہوا۔

ایک زمانہ میں انجمن خدام النبی، مسافرخانہ، حج میٹی بحری جہاز اور ہوائی جہاز سب سے گہر اتعلق رہا اور ان کے ذمہ داروں سے بھی تعلق رہا، یاروں نے حج کی راہ سے خوب خوب کمایا لال پیلے نوٹ کا دھندا، بلیک، اسم گلنگ اور غیر ملکی کرنی کے ذریعہ خوب کمایا، مگر الحمد للہ کہ میں نے اور میرے بھائی حیات النبی مرحوم نے اس قسم کا کام کبھی نہیں کیا۔

محمد علی زنیل علی رضا جو ہریٰ: دنیا کے مشہور احجار کریمہ (تیتی پتھر) کے تاجر محمد علی زنیل علی رضا جو ہریٰ دنیا کے مالدار تین لوگوں میں سے تھے، پہلی بار حکیم عظیمی کے ساتھ ان کے آفس سیتا رام بلڈنگ میں گیا، ان کا مزار خالص عربی تھا، اور شاہانہ بھی، ان سے بعد میں بہت زیادہ تعلق ہو گیا، وہ بڑے قدر دان تھے، لوگ ان سے سلام کرنے کو فخر سمجھتے تھے، جب میں جاتا تو بہت خیال کرتے تھے، اور خصوصی توجہ سے بات چیت کرتے تھے، مدرسۃ الفلاح کے نام سے مکہ مکرمہ اور جده کی طرح بمبئی میں انھوں نے مدرسۃ الفلاح جاری کیا تھا، استاد احمد فرید صاحب کے ذریعہ مجھ سے

کہلوایا کہ میں ان کے مدرسہ میں تعلیم دوں اور بچوں کو پڑھاؤں، اس سلطانی پیشکش پر میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے معدود ری ظاہر کی، حالانکہ اس تعلق سے میں بڑی دولت کا سلکتا تھا، ان کے یہاں کے معمولی معمولی ملازمین لکھ پتی ہو گئے تھے، وہاں کو علاج کیلئے غیر ممالک بھیجتے تھے۔

شام کے صدر شکری قوائلی سرکاری دورہ پر ہندوستان آئے تھے، بمبئی آئے تو محمد علی جو ہری صاحب نے ان کی شاندار دعوت کا انتظام کیا اور ان کو عربی میں ایڈریس پیش کیا، اس کو لکھنے بھی بلا یا اور گیارہ بجے دن سے گیارہ بجے رات تک ایک جملہ کیلئے روکے رکھا، بڑی محبت اور پیار سے روکا جبرا نہیں، بس وہ جملہ ان کے مزاج سے میل نہیں کھاتا تھا، آخر دس بجے رات میں ان کو تسلی ہوئی تو کھانے کیلئے اپنے مکان لے گئے، موڑ میں لے کر چلے دوچار ملازمین ساتھ تھے، راستہ میں اتر کراں ایک مشہور ہوٹل سے بریانی وغیرہ لیتے، راستہ میں گاڑی روک کر فروٹ لیتے تھے اور فوراً آس پاس کے پولیس اور عوام ان کو گھیر لیتے تھے، بہر حال کسی طرح گھر پہنچے اور دستِ خوان پچھوا�ا، ساتھ کھانے بیٹھے اور اپنے سامنے سے مختلف قسم کی چیزیں میرے سامنے کرتے رہے، اسی درمیان ان کی لمبی آگئی تو اس کے کھلانے میں مصروف ہو گئے، بہت دیر تک با تین کرتے رہے، ان میں یہ بات بھی تھی کہ ہم لوگ خالص عرب ہیں مگر چونکہ جواہرات کی تجارت کے سلسلہ میں ہمارا خاندان ایک مدت تک ایران میں مقیم رہا اس لئے یہ نام مشہور ہوا۔

انھوں نے شاہ سعود کی دعوت کی تھی، شاہ حسین وغیرہ کی بھی دعوت کی تھی، ہر

دعوت میں میرے نام دعوت نامہ بھیجا کرتے تھے۔

فلم والوں کی پیشکش:- میری شہرت فلمی دنیا تک ہو گئی اور وہ لوگ بھی تعلق پیدا کرنے کی ترکیب سوچتے تھے، ایک مرتبہ دفتر ”انقلاب“ میں فلم والے آئے اور کہا کہ فلاں فلم کی کہانی کا خلاصہ عربی میں کر دیں، پہلے تو میں نے کہا کہ فلم بینی عوام کا

مشغلہ ہے اس لئے عربی عامی ہونی چاہئے اور نئی زبان میں اس کا ترجمہ ہونا چاہئے اور میں پرانی عربی جانتا ہوں، اس جواب پر وہ لوگ چلے گئے، مگر دوسرا دن آ کر کہنے لگے کہ پرانی عربی ہی میں ترجمہ کر دیں، اس پر میں نے کہا کہ میں نے عربی دین کی خدمت اور اس پر عمل کرنے کیلئے حاصل کی، فواحش و منکرات پھیلانے کیلئے نہیں سکھی ہے، اور وہ ما یوں ہو کر چلے گئے۔

ایک مرتبہ فلم والے دفتر میں آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور شوٹگ میں پانچ منٹ حاجی ملگ کے بارے میں تقریر کر دیں، میں نے کہا کہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، بہبیتی اور اطراف کے بزرگوں کے بارے کچھ نہ کچھ معلومات ہیں مگر ان کے بارے میں آج تک کچھ نہیں ملا ہے، میں غلط سلط بات کیسے کہدوں اور پھر فلم کے پردے پر پانچ منٹ کے لئے آ کر اپنا سب کچھ کھو دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔

اسلم لکھنؤی انقلاب میں انگریزی خبروں کے مترجم تھے، باندراہ میں رہتے تھے، انھوں نے ایک فلم ایکٹریس کا جو بوڑھی ہو کر نماز و تلاوت میں رہا کرتی تھی، سلام پہنچایا اور اس کا پیغام دیا کہ قاضی صاحب بہت بڑے عالم ہیں اور بڑے باشوروں ہیں، وہ ہر جمعہ کو ہمارے یہاں آ کر دینی بتائیں بتادیا کریں تو ان کی مہربانی ہو گئی، میں نے برجستہ کہا کہ اس سے کہہ دینا کہ اگر تم قاضی صاحب کو اتنا بڑا عالم سمجھتی ہو تو پھر یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ ایسا عالم گانے بجانے والی عورت کے پاس آئے گا، جا کر اس سے یہی کہہ دینا،

ایک مرتبہ کینی اعظمی صاحب مشہور مغنی اور ادا کار محمد رفیع کو انجمن ہائی اسکول لے کر آئے اور مجھ سے کہا کہ ان کیلئے قرآن شریف کی ایسی صورتوں اور آیتوں کا ترجمہ کر دیجئے جس میں انسانی مساوات اور بھگتی کا بیان ہوتا کہ یہ صحیح کو ریڈ یو پر اس کی تلاوت کریں اور ترجمہ سنائیں تاکہ مسلمان صحیح کو ریڈ یو کھو لیں تو پہلے قرآن شریف

سین، میں نے کہا کہ اچھا بہم مولویوں کا فریضہ فلم اور ریڈیو والے انجام دیں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ اس کوئی اعظمی اور محمد رفع نے مذاق سمجھا، پھر میں نے بتایا کہ تجوید و قراءت ایک مستقل فن ہے، موسیقی اور غناء دوسرا فن ہے، اس لئے پہلے رفع صاحب باندرہ میں مولانا قاری سید اختر احمد صاحب کے یہاں قراءت کی مشق کر لیں پھر یہ کام کریں، اس پروہ لوگ چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد قاری سید اختر احمد صاحب ملے تو انھوں نے کہا کہ کیفی اعظمی اور رفع میرے پاس آئے تھے اور آپ کی بات نقل کر رہے تھے، میں نے ان کو بتادیا کہ اس چکر میں نہ پڑیں، قاری صاحب سے فلم والے بہت منوس رہا کرتے تھے، جمعہ کی نمازان کی امامت میں پڑھتے تھے اور ان کا عظمنا کرتے تھے۔

دائرۃ المطبوعات والنشر کویت (۱۹۶۰ء):- استاذ احمد فرید یمانی مرحوم کے پاس دولت کویت کے سلسلہ دائرة المطبوعات والنشر کی پہلی کتاب ”الذخائر والتحف“ آئی، میں نے ان سے مطالعہ کیلئے لیا، انھوں نے میرے شوق کا احترام کرتے ہوئے مجھے ہدیہ کر دیا، اس کے بعد ۳۰ را کتوبر ۱۹۶۰ء کو میں نے دائرة کے مدیر کو خط لکھ کر اس کی مطبوعات کی خواہش ظاہر کی اور ”الذخائر والتحف“ کا حوالہ دیا، تقریباً چار ماہ کے بعد مجھے جواب دیا اور اب تک کی یہ مطبوعات بھری ڈاک سے روانہ کیں، جو مجھ کو ۱۲ جنوری ۱۹۶۱ء کو وصول ہوئیں، (۱) ”الذخائر والتحف“ قاضی رشید (۲) الاصول فی اللغة، انباری (۳) العبر فی خبر مَنْ غَبَر جلد اول، اس کے بعد خط و کتابت اور کتابوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا بلکہ انھوں نے اس ادارہ کا مجھے علمی مشیر بنالیا، یہ ادارہ وزارتِ ارشاد و الانباء کے ماتحت ”الترااث العربي“ کے عنوان سے جاری تھا۔

امام ذہبی کی العبر فی خبر مَنْ غَبَر کا ایک ذیل خود ذہبی نے لکھا تھا، اور ان کے ذیل پر ایک ذیل ۱۹۷۴ء سے ۱۹۷۷ء تک ابوالحسن محمد بن علی بن حسن، شمس

الدین حسین مکتب نے لکھا تھا، اس کا ایک قلمی نسخہ کتب خانہ عارف حکمت مدینہ منورہ میں تھا جس کو میں نے ۱۹۵۵ء پہلے حج و زیارت کے موقع پر دیکھا تھا اور دائرة المطبوعات والنشر کو اس کی اطلاع کی، اس کا ایک نسخہ ترکی میں تھا، دونوں نسخوں کی مدد سے ذہبی اور حسینی کے دونوں کے ذیل الگ کتابی شکل میں وہیں سے شائع ہوئے، دائرة سے کتابوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ میں بھی کم رہنے لگا اور بعض کتابیں واپس چل گئیں تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا، آخر میں ”تاج العروس“ کی ابتدائی جلدیں آئیں، ان میں بھی بعض میری عدم موجودگی کی وجہ سے بعض حصے واپس چلے گئے۔

امیر کویت عبد اللہ السالم الصباح:- امیر کویت کی دو بلندگیں بھی کے مغربی ساحل سمندر پر الصباح کوٹ اور الجابریہ کوٹ تھیں جن میں اس کے حاکم و امیر عبد اللہ السالم الصباح آتے رہتے تھے اور قیام کرتے تھے، میں نے استاذ احمد فرید مرحوم کے ساتھ شعبان ۱۳۸۵ھ (نومبر ۱۹۶۵ء) میں کئی باران سے ملاقات کی تھی، وہ بڑے تپاک اور محبت سے ملت تھے، ایک مرتبہ رجال السند والہند ہدیہ کیا تو دیکھ کر کہا کہ یہ ابن خلکان کے انداز کی کتاب ہے، پھر پوچھا کہ کبھی کویت گئے ہیں یا نہیں؟ میں نے نفی میں جواب دیا اور کہا کہ وہاں کے دائرة المطبوعات والنشر سے میرا علمی تعلق ہے اور وہاں کی تمام مطبوعات میرے پاس ہدیہ آتی ہیں۔

استاذ سعید رمضان اخوانی:- ایک مرتبہ اخوان المسلمين کے سرگرم اور فعال رکن ”المسلمون“ جنیوں کے اڈیٹر استاذ سعید رمضان بھی آئے، اسلامی جم خانہ چوپائی پر ان کو عشاہی دیا گیا جس میں انھوں نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں بتایا کہ ابتداء میں ہمارے عرب دیہاتی دنڈے مار مار کر یہودیوں کو ارض مقدس سے بھگا سکتے تھے مگر ہمارے حکمرانوں نے خود کچھ کیا اور نہ ہم کو کچھ کرنے دیا، انھوں نے یہ بھی بتایا کہ جمال عبدالناصر اخوان المسلمين کے خاص ممبروں میں سے تھے

اور وہ ہمارے تمام پروگراموں اور تحریر کی سرگرمیوں سے واقف تھے، ایک رات وہ اخوان المسلمين کی میٹنگ میں شریک ہوئے اور صحیح کو اخوان المسلمين کی گرفتاری اور غارت گری کا سلسلہ جاری کر دیا۔

مصطفیٰ احمد سباعی: - اس دورانِ شام کے مشہور عالم محقق اور "السنۃ" و مکانتها فی الشریع الاسلامی " کے مصنف بمبی آئے اور انہم خدام النبی میں ان کا استقبال کیا گیا اور انہوں نے خطبہ دیا، تقریب کی۔

جمال عبد الناصر اور قونصل عام عبد المعمم البخاری: - الجھوریہ العربیہ الامتحنہ مصر کے صدر جمال عبد الناصر ۲۷ اگسٹ ۱۹۶۰ء میں ہندوستان کے سرکاری دورے پر آئے اور ۱۲ ارشوال ۹ اگسٹ ۱۹۶۰ء پر میل ۱۹۶۰ء کو جمیعہ علماء صوبہ بمبی کے وفد کے ساتھ گورنر ہاؤس میں ان سے ملاقات کی، رجالِ السندا و ہند اور دیوانِ احمد پیش کیا، میں اور وہ برابر براہم بیٹھے تھے، با تین کرتے رہے، اس وقت جمہوریہ عربیہ تحدہ مصر کے قونصل استاذ عبد المعمم البخاری تھے جن سے میرا گھر تعلق تھا، اور مصری قراء کی بمبی آمد پر میرا ان سے تعاون ان کو معلوم تھا، یوں بھی بھی بھی مصری قونصل خانہ میں ان سے ملاقات کیلئے جایا تھا، انہوں نے رئیس جمال عبد الناصر کی آمد پر یادگار کے طور پر قرآن کریم مع قفسیر صفوہ البیان فی معانی القرآن مصنف شیخ حسین ملکوف مفتی الدیار المצריہ ہدیہ کی اور شیخ القراء عبد الباسط کی قرأت سے پورا مسجد قرآن دیا، اور بار بار تقاضا کیا کہ اپنے دونوں لڑکوں خالد کمال اور ظفر مسعود میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو میں جامع ازہر میں داخل کر دوں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، سفارتی سطح کی یہ تجویز بہت وزنی ہے اور فوراً داخلہ ہو جائے گا، مگر میں اس کیلئے تیار نہیں ہوا، کیونکہ جامع ازہر کے بارے میں معلوم تھا کہ وہاں کے تعلیم یافتہ حد سے زیادہ متغور اور آزاد خیال ہو جاتے ہیں، اس وقت کے ازہر یوں کا یہی حال تھا، اس کے چند دن کے بعد استاذ عبد المعمم البخاری ہاگ کا گنگ کے سفیر بن کر چلے گئے۔

مدرسہ کویتیہ اور استاذ مدحت اسماعیل: - چرچ گیٹ اسٹیشن کے قریب اسی کالج کے سامنے ایک عمارت میں مدرسہ کویتیہ جاری تھا جس میں بمبی کے عربوں کے بچے بچیان تعلیم حاصل کرتی تھیں، ایک مصری استاذ مدحت اسماعیل دوسرے محمد ثابت اس کے معلم تھے، مغرب کے وقت باذوق عرب وہاں جمع ہو کر تبادلہ خیالات کرتے تھے اور چاہئے کا دور چلتا تھا، عربی اخبارات بھی آتے تھے، ایک زمانہ میں میں بھی اکثر مغرب کی نمازوں ہیں پڑھتا تھا، ۱۹۵۲ء میں اسرائیل، برطانیہ اور فرانس نے نہر سویز پر مل کر حملہ کر دیا جس میں ان کی فوجوں کی پسپائی ہو گئی، اس سلسلہ میں مسلمانان بمبی ایک عظیم الشان جلسہ مستان تالاب پر ہوا، استاذ اور مدحت اسماعیل نے عربی میں بڑی ولولہ انگیز تقریری کی، میں نے اس کا ترجمہ اسی انداز میں کیا، وہ چند جملے بول کر خاموش ہو جاتے تھے اور جب میں اس کا ترجمہ کر لیتا تھا تو پھر بولتے تھے، اس رات بمبی کے عوام نے مدحت اسماعیل اور میرے ساتھ بے پناہ عقیدت اور محبت کا مظاہرہ کیا، عوام و خواص ہم لوگوں پر سلام و مصافحہ کے لئے ٹوٹے پڑتے تھے، اعظم گذھ والے الگ اپنے علاقے کے عالم پر فخر کرتے تھے، یہ جلسہ بہت ہی جذباتی قسم کا تھا، بمبی والے یوں بھی وقیٰ جو شدھانے میں مشہور ہیں۔

مصر کا مرکز شفافی بمبی میں: - جمال عبد الناصر کے دورہ ہندوستان کے بعد بمبی میں حکومت مصر کی طرف سے ایک مرکز شفافی جہانی کیسیل میں قائم ہوا، عظیم الشان لاہری ری جاری ہوئی، اخبارات و رسائل آنے لگے، اور متعدد مصری عہدیدار اور ملازم رکھے گئے۔ کتابوں کی وجہ سے میں اکثر وہاں جایا کرتا تھا اور تمام عملہ سے اچھا خاصاً تعارف ہو گیا تھا۔

مصریوں کا جھگڑا: - اس زمانہ میں بمن کی زیادی حکومت اور مصر کی حکومت کے درمیان باہمی تعاون تھا، اس وقت بمن کے زیادی حاکم غالباً امام حمید الدین تھے، انہوں نے ایک طویل قصیدہ اسلامی محسن و مفاخر کے بارے میں لکھا اور اس میں کچھ

سیاسی باتیں بھی جمال عبدالناصر کے نزدیک قابل اعتراض تھیں اور انہوں نے اس بنا پر یمن کی زیدی حکومت سے تعلق ختم کر کے نہایت سخت رویہ اختیار کیا، اس پر میں نے انقلاب میں امام یمن کی طرفداری میں سخت قسم کا نٹ لکھا جس پر مدرسہ کوتیہ اور مرکز ثقافتی کے بعض ارکان میرے خلاف سخت سست باتیں کرنے لگے اور معاملہ شدت اختیار کر گیا، نیز مرکز ثقافتی کے ملازمین آپس میں لڑنے لگے اور ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کرنے لگے، ایک طبقہ نے مجھسے کہا کہ ہم آپ کو مصر بھیجتے ہیں تاکہ آپ وہاں کے ذمہ داروں سے ان جھگڑوں کی صحیح نوعیت بیان کر دیں، مگر میں مصریوں کے باہمی جھگڑے میں نہیں پڑا، نتیجہ ہوا کہ مصریوں کی لڑائی میں ”مرکز ثقافتی“ بند ہو گیا اور اسکی تمام کتابیں تتر بتھو گئیں، بہت کم واپس جائیں۔

قضیہ تصاویر:- اس مرکز میں سیرت نبوی پر ایک کتاب بچوں کے لئے محمد برائق کی بہت مفید اور سہل زبان میں بیس پچھس چھوٹے بڑے اجزاء میں بالتصویر تھی، اس میں مغربی تقلید میں جگہ جگہ انبیاء و علی مرتضی کو رسول اللہ ﷺ، حضرت زینب اور بعض دوسرے حضرات صحابہ ﷺ کی تصویریں تھیں، اور ان کے نیچے ان کے نام تھے، اس زمانہ میں ہندوستان میں رسول اللہ ﷺ کی تصویر پر سخت احتیاج ہوتا تھا، جو غیر مسلم اخبارات دانستہ یا نادانستہ طور پر چھاپتے تھے، میں اس سلسلہ میں کتاب کو لایا اور دیکھ کر سخت اضطراب ہوا کہ اگر غیر مسلم اس کو دیکھ لیں گے تو ان کو دلیل مل جائے اور قبیة الاسلام قاہرہ اور جامع ازہر سے نکلی ہوئی اس کتاب میں ان لوگوں کی تصویریں ہیں اور ہندوستان کے مسلمانوں اور عالمیوں کو جواب دیتی میں بہر حال دقت ہوگی اور یہ بات ہو یا نہ ہو، اسلام کی تصویر حرام ہے، پھر حضرات انبیاء و صحابہ کی تصویر چھاپنا بڑی جرأت کی بات ہے، اس لئے میں نے انقلاب میں ان تصویریوں کی نشاندہی کر کے سخت قسم کا مضمون لکھا اس سے پہلے میری مخالفت میں بعض مصری پیش پیش تھے، یعنی کے قضیہ کی وجہ سے، اب ان کو اور بھی طیش آیا اور میرے مضمون کے جواب میں عربی

میں مضمون لکھا جس کا ترجمہ میں نے خود کر کے انقلاب میں شائع کیا اور اس کا جواب الجواب لکھا، بات بہت بڑھ گئی، بعض لوگ مجھے ڈراتے تھے کہ ہندوستان اور مصر کے تعلقات جواہر لال اور جمال عبدالناصر کی حکمت عملی سے نہایت خوشگوار ہیں، ان پر آپ کی تحریر سے برا اثر پڑ سکتا ہے اور حکومت ہند آپ کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، آخر استاذ عبدالعزیز عزت در میان میں پڑے اور مصری قوں نصل خانہ کے قفل مددوہ عزت نے مجھے بلا یا اور بڑے ادب و احترام سے بات چیت کی، اور کہا کہ اپنے اعتراضات مجھے دیں، میں ان کو مجمع الحجۃ الاسلامیہ کے پاس بھجو کر جواب طلب کروں گا، چنانچہ انہوں نے میرے اعتراضات کا ترجمہ کرا کے قاہرہ بھیجا اور کئی مینے کے بعد وہاں سے طول طویل جواب عربی اور انگریزی میں آیا، جس میں مختلف قسم کی تاویل کے باوجود یہ اقرار کیا گیا کہ آئندہ ان تصویریوں کے نیچے نہیں لکھے جائیں گے، میں نے ان کا یہ جواب انقلاب اور البلاغ دونوں میں شائع کر دیا، اور معاملہ رفع دفع ہوا۔

ریاست جنگیہ کی تاریخ:- عالمگیر بادشاہ کے زمانہ میں کون کے پہاڑی ساحل پر ریاست جنگیہ کا قیام ہوا، سلاطین احمد نگر کے ہر عامل یہاں کے دنداتاج ہو ری کے قلعہ میں رہتے تھے جو ساحل سمندر کے تحوڑی دوری پر ایک بستی کی شکل میں ہے، میں اس میں گیا ہوں، یہ جزیرہ تھا جو مقامی کوئی زبان میں جنگیہ ہو گیا، جب شیوا جی نے حملہ کیا تو اندر فوجوں نے مقابلہ کر کے پسپا کر دیا، یہاں کا امیر اور فوج سیدی تھے، یعنی وہ جذشی جو سلاطین گجرات کے زمانہ میں یہاں فوج وغیرہ میں تھے اور آباد ہو گئے تھے، ان کی دوری استیں بعد میں ہوئیں، ایک گجرات میں ”تھیں“، ”معمولی سی“، اور دوسری جزیرہ جہشائی (جزیرہ، جنگیہ) تھا، سیدیوں نے اس قلعہ پر قبضہ کر کے عالمگیر کی مدد کی اور اور باقی تین تعلقات یہ تھے، قلایہ، مہسلہ، مروڑ، میں نے اس ریاست کی تاریخ کیلئے کافی مواد جمع کر لیا تھا، بعد میں ایک عزیز عبد الشکور قادری ام، اے نے

طلب کیا میں مرتب کروں گا مگر وہ مرتب نہ کر سکے اور نہ مسودات مجھے دے سکے، البتہ رسالہ ”صحیح امید“ کے اوپر عبد الحمید بوہرے نے میرا ایک مضمون اپنی کتاب ”تاریخ قوم کوئی“ میں شامل کیا۔

عبد الحمید بوہرے : عبد الحمید بوہرے ادیب تھے، مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے، دورہی دیکھ کر پکارا تھتے ”بیا بیا برادر تو ز خاص گان مائی“، (آ جاؤ بھائی! تم تو میرے خاص لوگوں میں سے ہو) بھی بھی میں ان کے یہاں جایا کرتا تھا، پنویل کے رہنے والے تھے۔

زادہ شوکت علی : اس زمانہ میں خلافت حاوس اور اخبار خلافت پر مولا نا شوکت صاحب کے صاحبزادے زادہ صاحب قابض تھے، بڑے باپ کے بڑے بیٹے تھے، حکومت کے ارکان ان کا لاحاظ کیا کرتے تھے، مگر کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتے تھے۔

روزنامہ ہندوستان کے مدیر و مالک آور روز و صاحب را مپوری بھی بڑے خلوص و محبت سے ملتے تھے، وہ کچھ عربیت سے واقف تھے، اس لئے بھی بھی اس کا اظہار کیا کرتے تھے۔

وجد حیدر آبادی : مشہور شاعر علی سکندر وجد حیدر آبادی اور نگ آبادی سے مکتبہ جامعہ میں ملاقات ہوا کرتی تھی، وہ کسی زمانہ میں مکمل رہے چکے تھے، عثمانیہ یونیورسٹی میں مولا نامناظر احسن گیلانی کے شاگرد رہے چکے تھے، اس لئے مولویوں سے تعلق رکھتے تھے، ”اجتنا“ ان کی مشہور نظم ہے۔ سید اشراق حسین (اکسپریس بلاک) کے یہاں بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی۔

سید اشراق حسین : سید اشراق حسین صاحب کے بچوں کو میں ہفتہ میں ایک دن تعلیم دیتا تھا، سید آصف حسین، سید خالد حسین میرے تلامذہ میں ہیں اور خصوصی تعلق رکھتے ہیں، مدرسہ جازیہ میں تعاون بھی کرتے ہیں۔

مولانا شہاب مہر مالیر کوٹلی : جناب مولا نا شہاب مہر مالیر کوٹلہ کے، بسمیٰ کے کسی اسکول میں فارسی کے مدرس رہ چکے تھے، غالباً باقاعدہ عالم نہیں تھے، مدت دراز سے بسمیٰ میں رہتے تھے اور وہاں کے جدید حلقوں میں کافی شہرت رکھتے تھے، پہلے قادریانی تھے، بسمیٰ سے کوئی رسالہ بھی جاری کیا تھا، آخر میں غالباً اہل حدیث ہو گئے تھے اور ان کے ایک آدمی سے معلوم ہوا کہ وہ بہائی فرقہ سے متعلق ہو گئے تھے، آخر وقت تک ہدایت سے محروم رہے، اٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، مجھ سے بڑے انتراح سے پیش آتے تھے اور میرے مضامین انقلاب و معارف وغیرہ میں پڑھتے تھے، جب مولا نا عبد الماجد دریابادی میری کتاب پر تبصرہ کرتے تو شہاب صاحب دورہی سے مبارکباد دیتے اور کہتے تھے کہ مولوی عبد الماجد قلم کے بہت بخیل ہیں، مگر آپ کے بارے میں بہت سختی ہیں، آپ کی فلاں کتاب کی خوب خوب تعریف کی ہے۔

معین الدین حارث جامعی : روزنامہ اجمل کے مدیر و مالک جناب معین الدین حارث جامعی سو شلسٹ پارٹی میں تھے، منتشر، نماز روزہ کے پابند، آخر میں حج کمیٹی کے چیرین تھے، دینی جلسوں میں شریک ہوتے تھے، اپنے مقرر تھے اور اصول کے بیچ پابند تھے اس لئے کسی کو ان سے کسی فیلم کا فائدہ نہیں ہو سکا اور اپنی دینداری، پابندی اور اصول پرستی کی انتہا کی وجہ سے عوام و خواص میں مشہور تو ہوئے مگر مقبول نہیں ہو سکے، اتنی خشکی بھی اچھی نہیں ہے۔

علامہ احمد شبیلی : علامہ احمد شبیلی کا نام زمانہ طالب علمی میں مولا نا عبد الشکور لکھنؤی اور مولا نا شمار احمد کانپوری کے مابین بسمیٰ میں علم غیب کے موضوع پر سنا تھا وہ حکم تھے، بسمیٰ گیا تو ان سے بار بار ملاقات ہوتی تھی، وہ بعض مشاعروں میں شریک ہوتے تھے اور ”صحیح امید“ میں معمولی قصہ کہانی لکھا کرتے تھے، وہ سلطان مسقط کے معتمد کی حیثیت سے تھے، اسی علاقہ کے رہنے والے تھے، مگر اردو میں شاعری اور مضمون نگاری کرتے تھے، ان میں زیادہ پڑھے لکھ آدمی شان نہیں تھی، مسلک کے

اعتبار سے خارجی ہونا چاہئے تھا، عربی ادب سے بھی زیادہ تعلق نہیں تھا، وہ بمبی کے علماء تھے۔

سلطان مسقط سعید تیمور: انگریزوں نے سلطان مسقط سعید تیمور صاحب کو معزول کر کے بمبی میں رکھا تھا، معمولی سا وظیفہ تھا، سفید شیر و انی، پائچامہ کرتے پہنچتے تھے، بعض اوقات استاذ احمد فرید کے بیہاں آتے تھے اور وہ سود و سور و پیہ دیدیا کرتے تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ اردو کیوں نہیں سیکھ لیتے ہیں، تو انھوں نے علامہ احمد شبیلی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ نہیں سکھاتے ہیں، بمبی میں انتقال کیا، ایک سلطان کو نقیر بنتے میں نے دیکھا ہے، رحم آتا تھا۔

امیر قطر ہندوستان میں: امیر قطر ہندوستان کے سرکاری دورہ پر آئے، بمبی میں انہم خدام النبی کے اراکین نے ان کے استقبال میں مسافر خانہ کے سامنے ایک عظیم الشان جلسہ کیا جس میں امیر قطر نے جوابی تقریر کی، میں نے ان کی تقریر کا ترجمہ کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا، دوسرے دن ان کی قیامگاہ پر محترم احمد بھائی وغیرہ ملاقات کیتے گئے، دیر تک بات ہوتی رہی، وہ نادر و نایاب کتابوں کو خریدنا چاہتے تھے، احمد بھائی نے سورہ لیسین شریف کا وہ نسخہ پیش کیا جو حضرت عثمان رض کے ہاتھ کا لکھا ہوا اس میں موجود ہے، اور اس سے عکس لے کر گزشتہ صدی میں ایک روشنی عالم نے بعینہ اس کو چھاپا تھا، انھوں نے قیمت معلوم کی تو احمد بھائی نے شاہی حساب سے اس کی قیمت بتائی اور انھوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا، اس سورہ شریف پر میرا مستقل مقالہ معارف میں جھپٹ چکا ہے، امیر قطر نے غالباً میں ہزار روپیہ مسافر خانہ کو عطا یہ دیا تھا۔

شاہ حسین والی اردن: شاہ حسین والی اردن بمبی آئے، جناب محمد علی زنیل علی رضا صاحب نے کوشائی انداز کی دعوت دی، میرے پاس بھی دعوت نامہ بھیجا مگر میں اس میں شریک نہیں ہوا، کیونکہ شاہ حسین کے اعزاز میں انڈو عرب سوسائٹی کی

طرف سے قصہ و سرد کا پروگرام ہوا تھا، اس سے مجھے انقباض تھا۔

رضا شاہ پہلوی: اسی طرح شاہ ایران رضا شاہ پہلوی بمبی آئے، جناب محمد علی زنیل علی رضا صاحب نے ان کی بھی شاندار دعوت کی، اور مجھے بھی دعوت نامہ بھیجا مگر میں اس میں بھی شریک نہیں ہوا، کیونکہ اس کی آمد پر تین دن کیلئے بمبی میں شراب بندی ختم کر دی گئی تھی۔

شاہ افغانستان: شاہ افغانستان کی آمد پر کیسرا باغ میں استقبالی جلسہ ہوا، میں بھی اس میں شریک تھا، وہ مغربی لباس میں معمولی حیثیت کے آدمی معلوم ہوتے تھے، شکری قولی صدر شام: شکری قولی صدر شام کا استقبالیہ جلسہ بھی اسی باغ میں ہوا تھا، بمبی کے گورنر شری پر کاش رائے (بنارس والے) نے تقریر میں کہا کہ ہم آپ کا استقبال ایسے شہر میں کر رہے ہیں جس کا جٹ آپ کے ملک شام سے زیادہ ہے۔

ڈاکٹر عبد الحق مدرسی اور مولانا عبد الوہاب بخاری: ایک دن دفتر ”انقلاب“ میں ڈاکٹر عبد الحق مدرسی اور مولانا عبد الوہاب بخاری پر نسل نیو کالج مدرس تشریف لائے، کسی دینی ادارہ کے لئے مالیات کی فراہمی کے سلسلہ میں نوٹ لکھانا تھا، میں نے لکھا، ان حضرات سے پہلی ملاقات تھی، ۱۹۵۶ء سے پہلے کی بات ہے، اس کے بعد وقتاً فو قتاً ان دونوں حضرات سے ملاقات ہوتی رہی، ڈاکٹر صاحب اکثر بمبی تشریف لایا کرتے تھے یونیورسٹی کے کام سے، انہم خدام النبی اور اہنائے مولوی غلام رسول سورتی کے بیہاں اکثر ملاقات ہوتی تھی، ۱۹۶۵ء کے سفرنامہ میں بھری جہاز میں ہفتوں ساتھ رہا، علمی باتیں ہوتی رہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مدرس آڈی میرے کتب خانہ سے استفادہ کرو، جہاز میں میری تقریر ہوتی تھی، یہ حضرات دوسرے مدرسی علماء و اعیان کے ساتھ رہا کرتے تھے، دونوں حضرات خور دنو ازی اور شفقت سے پیش آتے تھے، ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب کے صاحزادے

بھی: بمبئی میں ملے جنھوں نے ایک انگریز عورت کو مسلمان کر کے اس سے شادی کر لی تھی۔

مولانا محمد یوسف کوئی عمری مدرسی: - مولانا محمد یوسف کوئی عمری سے بمبئی میں اکثر ملاقات ہوتی تھی، وہ بمبئی یونیورسٹی میں آیا کرتے تھے، بعد میں ان سے بہت تعلق پیدا ہو گیا تھا، مدراس حاضری کے وقت ان کے یہاں بھی حاضری ہوئی، انھوں نے اپنی تصانیف پیش کی، وہ دارالمصنفین اعظم گذھ میں رہ چکے تھے، یہیں امام ابن تیمیہ نامی کتاب لکھی تھی، جسے مجھے عنایت کیا، ان کو اعظم گذھ کے ساتھ خاص محبت تھی، بعد میں اس کی انتظامیہ کے رکن تھے، اور بمبئی میں آیا کرتے تھے، اسی سلسلہ میں ایک مرتبہ میرے یہاں مبارکبور بھی آئے تھے۔

مولانا عبدالباری حاوی: - مولانا عبدالباری حاوی مدراس کے مشہور اہل علم میں سے تھے، ان سے بمبئی ملاقاً تین ہوتی تھیں اور خاص تعلق ہو گیا تھا، عربی کے ادیب و شاعر تھے، حجاز و حج سے خاص تعلق تھا، ان کے صاحبزادے مولوی عبدالباقي سلمہ ہیں، مدراس میں ان کے یہاں قیام رہا،

مولانا صبغۃ اللہ بختیاری مدرسی: - حج میں جہاز پر مولانا صبغۃ اللہ بختیاری مدرسی سے ملاقات ہوئی، وہ پہلے جماعت اسلامی کے سرگرم رکن تھے بعد میں الگ ہو گئے، علمی اور روحانی عالم ہیں، بڑے دلچسپ محبوب قسم کے ہیں، ”معہدِ احسانی“ کے نام سے کٹرتا مدراس میں ادارہ قائم کیا ہے، بعد میں ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، بڑی محبت و خلوص سے بات کرتے ہیں، مجھ کو ”ابوز رغفاری“ سے تشییہ دیتے ہیں، کہا کرتے تھے کہ مولویوں کے ”ہمز ولمز“ سے اللہ بچائے، ان کے ہم درس و ہم عصر احباب ان سے تفریح کرتے تھے۔

(قاضی صاحب کی غیر مطبوعہ خودنوشت سوانح ”کاروان حیات“ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے، اب آگے کے حالات ہم مطبوعہ خودنوشت سوانح ”قاعدہ“

بغدادی سے صحیح بخاری تک“ کے تکملہ ”فراغت کے بعد کا علمی سلسلہ حیات“ سے نقل کر رہے ہیں۔ (مدیر)

تیس سال سے زائد مدت تک بمبئی میں مستقلًا قیام رہا اور جس شہر میں علامہ شبلی مرحوم ”کنار آب چوپائی و گل گشت اپالو“ کی سیر کر کے غزل کہا کرتے تھے، ان کے ایک ہم طلنے ایک معمولی سے کمرے میں ”مرکز علمی“ کا بورڈ لگا کر تصنیف و تالیف اور مضمون نگاری و مقالہ نویسی کا دور شباب گزارا، میں نے بڑے بڑے عقیدتمندوں کی عقیدت اور بڑی بڑی پیشکش کرنے والوں کی پیشکش کا شکریہ ادا کر کے شہر کی چک دمک میں کھو جانے کے مقابلہ میں بوریہ نشینی کو ترجیح دی، میرے بھی خواہ اور مخلص بزرگ و احباب اس معاملہ میں مجھے احمق سمجھتے تھے اور میں کم از کم اس بارے میں اپنے کو عالمی سمجھتا تھا بلکہ اب بھی سمجھتا ہوں۔

بمبئی غریب پرور ہونے کے ساتھ علم لکھن شہر ہے، جس کا احساس مجھے یہاں آنے سے پہلے ہی تھا، اس لئے میں نے دولت و ثروت کے اس ”اندر وون قعر دریا“ میں تیس سال سے زائد ”تخت بند“ ہونے کے باوجود اپنے دامن علم کو تر نہیں ہونے دیا، اور مختلف قسم کی مصروفیات کے باوجود عرب و ہند کے ابتدائی چار سو سالہ تعلقات پر عربی اور اردو میں متعدد کتابیں لکھ کر ایک بڑے خلا کو پُر کیا، مولانا مفتی عقیق الرحمن صاحب عثمانی نے ”خلافت عباسیہ اور ہندوستان“ کے پیش لفظ میں تحریر فرمایا کہ ”اس میں شک نہیں کہ قاضی صاحب اس بے آب و گیاہ صحراء میں تنہا چلے، اور جب لوٹے تو باعث و بہار کا ایک پورا قافلہ اپنے ساتھ لائے“ اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر کتابیں لکھیں،

(اسکے بعد اس دوران شائع شدہ کتابوں کا تذکرہ ہے، ان کا ذکر دوسرے کسی مضمون میں مستقلًا آئے گا، اور بعض کا ذکر تفصیل سے اسی میں آچکا ہے، اس کے آگے قاضی صاحب تحریر فرماتے ہیں۔)

ہے، اسی علاقے میں امام شافعی کا بھی مزار ہے، کشتی میں بیٹھ کر دریائے نیل پار کیا، مصر سے گھانا (مغربی افریقہ) کا سفر ہوا جہاں عزیز مولوی خالد کمال دارالافتاء کی طرف سے مبعوث تھے، اس کے دارالحکومت ”اکرا“ میں کئی ماہ قیام رہا اور وہاں کی بام یونیورسٹی کی لائبریری کے شعبہ عربی سے خوب خوب استفادہ کیا، امام سمعانی کی کتاب ”الاملاء والاستملاء“ نقل کی، ابن حوقل کی کتاب ”صورالارض“، ابن اخوه کی کتاب ”معالم القربة في احكام الحسنة“، وغیرہ سے اقتباسات نقل کئے، علمائے اندلس کی کئی کتابوں کے عکسی فوٹو کی زیارت کی، مشہور ماہر بحریات ماجد بحدی کی متعدد کتابیں یہاں موجود ہیں، کوماسی، کیپ، کوسٹ، تماںے اور شہابی علاقوں کا ہفتوں تک دورہ کیا، اسی سے متصل ٹوجو (لووی) کی سیاحت کی، واپس قاہرہ آ کر رجال السندر والہندی کی طباعت کا معاملہ دارالانصار سے طے کیا، ہوٹل لوسکی میں کئی دن قیام رہا، طبقات المفسرین داؤدی، کتاب البرہان والمعیان جاھظ، اور بعض دوسری کتابیں خریدیں، قاہرہ میں الاستاذ عبد المعمم الغمر، شیخ صلاح ابوالعلیل مصری اور ڈاکٹر عبد العزیز عزت سے بار بار ملنا جانا ہوتا تھا، اکثر وقت جامع ازہر کے اداروں اور کتب خانوں میں گذرتا تھا، قاہرہ سے اردن کیلئے روانہ ہوئے، دارالسلطنت عمان پہاڑوں کے نشیب و فراز میں آباد ہے، یہاں خندق ابراہیم میں قیام رہا، یہاں سے ملک شام کیلئے کوشش کی مگر ناکامی رہی، حکومت اردن کی اجازت سے بیت المقدس میں حاضری کا ارادہ کیا اور ارضِ محلہ میں داخل ہو گئے، مگر اسرائیل نے واپس کر دیا، اردن یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات کے اساتذہ سے ملاقات ہوئی، ادارہ شہون اسلامیہ و اوقاف نے اپنی مطبوعات دیں، ایک دن زرقاء جانا ہوا، وہاں کوئی مسجد نظر نہیں آئی اور کئی گرجے دیکھے، اردن میں روئیوں کے قدیم درج اور آثار بہت زیادہ ہیں، عجائب خانہ میں اموی خلفاء و امراء کے لباس اور استعمالی ظروف موجود ہیں۔
یہاں سے بذریعہ یکسی سعودی عرب کیلئے روانہ ہوئے، راستہ میں معان، قلعہ

کرک وغیرہ آئے، عصر اور مغرب کے درمیان مقام مجرسے گزرے جو قومِ شمود کا مسکن تھا، سلسلہ کوہ دور تک چلا گیا ہے۔

درمیان میں سڑک ہے پہاڑوں میں قومِ شمود کے مساکن کے آثار نظر آتے تھے، رمالِ متحرک جگہ جگہ تو دے کی شکل میں تھے، سر شام سعودی عرب کی سرحد حالۃ عمر سے گزرے، بتوک سے دوسری ٹیکسی پر چلے، رات میں مقام العلاء سے گزرے جو بارونق شہر ہے، اس علاقہ کو کتابوں میں ”قریٰ عربیہ“ سے تعبیر کیا گیا ہے، خبر سے گذرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے، دو چار دن قیام کر کے مکہ مکرمہ اور وہاں سے جدہ آئے، استاد عبد القدوس انصاری مرحوم مدیر مجلہ ”المنہل“ نے اپنی جملہ تصانیف ہدیہ میں عنایت کیں، ریاض پہنچ کر فندق التاج الجدید میں دارالافتاء کی طرف سے قیام ہوا، مؤرخ الجزیرہ استاد احمد الجاسر نے دارالیمامہ کی مطبوعات و منشورات ہدیۃ دیں، دار عبد العزیز کے مدیر محترم نے اس کی مطبوعات پیش کیں، اور فضیلۃ الشیخ عبد الفتاح ابو غده نے اپنی تصانیف و مطبوعات کا ایک معتمد بہ حصہ عنایت فرمایا، وہاں کے بعض کتب خانوں سے استفادہ کیا۔

ریاض سے کراچی آئے، مکتبہ عارفین جا کر اپنی کتاب میں طلب کیں جن کو انھوں نے چھاپا تھا تو دونوں کتاب کا ایک ایک نسخہ دیا جس پر ”حق تصنیف“ لکھا تھا، مجھے یہ دیکھ کر طیش آیا اور اس تحریر کو کٹوایا، دو دن وہاں رہ کر لا ہو رائے، مگر میرے دور کا لا ہوئی کوئی ملا، گری سخت تھی دوسرے دن والی آگئے۔

مارچ ۱۹۸۲ء میں تنظیم فکر و نظر سکھر کی دعوت پر ہندوستان کے ایک علمی و فد کے ساتھ سندھی ادبی میلہ کے اجلاس میں شرکت ہوئی اور جزل محمد ضیاء الحق مرحوم صدر پاکستان کی زیر صدارت جلسہ ہوا، جس میں صدر محترم کے ہاتھوں سندھ کی روایتی ٹوپی اور تنظیم فکر و نظر کا اعزازی نشان دیا گیا، اور ان کے حکم سے ارکان وفد کو سرکاری مہمان کی حیثیت سے دورہ کرایا گیا، اس سلسلہ میں کراچی، ٹھٹھ، دبیل، لاہور، اسلام آباد،

ٹیکسلا، پشاور، بلوجستان، کوئٹہ، لاڑکانہ، موہن جو داؤ (مون جو درویجی موت کا ٹیلہ) سکھر، اڑورہ، نواب شاہ اور حیدر آباد وغیرہ کی سیاحت کی، اڑورہ (جس کو عربی تاریخوں میں انور لکھتے ہیں) کراچی اور ٹھٹھ کے درمیان دبیل دونوں کے ٹھنڈروں میں حضرت محمد بن قاسمؓ کی مسجد کی جگہ نمایاں تھی دونوں مقام پر دو دور کرت نماز پڑھی، اس بار بھی لاہور جانے کے باوجود اپنی قیام گاہ اور اخبار ”زمزم“ کا آفس نہ پاسکا۔

۲۰۰۴ء میں اسلام آباد میں تیسری عالمی قرآن کانفرنس اور سرکاری سیرت کانفرنس میں شرکت ہوئی، دونوں کانفرنس میں جزل محمد ضیاء الحق مرحوم شریک تھے، ان سے بار بار ملاقات ہوتی تھی، مرحوم سے جو شخص ایک بار ملتا تھا محسوس کرتا تھا کہ وہ اس سے خاص تعلق رکھتے ہیں، پیر مرحوم کے اخلاق کی خوبی تھی، میں بھی یہی محسوس کرتا تھا، انھوں نے مجھے ایک نہایت قیمتی لیمپ، عمدہ کشمیری مصلی اور ایک حمال شریف ہدیہ دیا ہے، ان سے خصوصی مجلسوں میں بار بار ملاقات ہوتی رہی،

۱۹۸۲ء میں تنظیم فکر و نظر سندھ نے میری کتاب میں چھاپیں اور ان کے رسم اجراء میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مجھے دعوت دی، وزیر اعلیٰ سندھ سید غوث علی شاہ کی صدارت میں تاج محل ہوٹل کراچی میں نہایت شاندار جلسہ ہوا، جس میں پاکستان کے مشہور ماہر قانون جناب خالد ایم اسحاق، پروفیسر سراج منیر مرحوم، ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور، پروفیسر ذیشان خٹک، چانسلر گول یونیورسٹی پشاور، ماہر سندھیات ڈاکٹر نبی بخش بلوج، پروفیسر ایاز کراچی یونیورسٹی وغیرہ نے ان کتابوں اور اس کے مصنف کے بارے میں اپنے بہترین خیالات کا اظہار کیا، اسی سلسلہ کا دوسرا جلسہ تنظیم فکر و نظر کے صدر مقام سکھر میں ہوا جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت ہوئی

جن اداروں سے تعلق تھا یا بھی باقی ہے:- جن علمی اداروں سے پہلے تعلق رہا ہے اور ان میں رہ کر مفوضہ خدمت انجام دی ہے، وہ یہ ہیں، معتمد احمد بن

تعمیرات ادب مُرِنگ لاہور، مشیر علمی ادارہ التراث العربي کویت، صدر جمیعۃ علماء مہاراشٹر بمبئی، صدر دینی تعلیمی بورڈ مہاراشٹر، رکن انجمن خدام النبی بمبئی، رکن رویت ہلال کمیٹی جامع مسجد بمبئی، اور فی الحال رکن تاسیسی آل انڈیا مسلم پرشل لاء بورڈ، مشرف شیخ الہند اکیڈمی دارالعلوم دیوبند، اعزازی رفیق دارا مصنفین اعظم گلڈھ، اعزازی مدیر ”برہان“ دہلی، رکن مجلس شوریٰ دارالعلوم تاج المساجد بھوپال، رکن مجلس شوریٰ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، رکن مجلس شوریٰ جامعہ اشرفیہ نیا بھوجپور (بہار) حکومت کی قدرشناصی:-

۱۵ اگست ۱۹۸۲ء کو صدر جمہوریہ ہند کی جانب سے عربی زبان اور علمی شغف پر توصیی سند، کشمیری چادر اور پانچ ہزار روپے سالانہ تا حیات پیش کش ہوتی، ۱۹۸۸ء سے یہ رقم دس ہزار ہوتی ہے۔



اہل حریم سے ملاقاتیں

مولانا قاضی اطہر صاحب مبارکبوری

ہندوستانی علماء کرام جوزندگی بھر علوم دینیہ کو عربی زبان میں پڑھنے پڑھاتے ہیں، چونکہ انھیں عربی میں گفتگو کرنے کی مزاحمت نہیں ہوتی، اس لئے حج کے موقع پر گوکران کی ملاقاتیں عرب علماء سے ہوتی ہیں، لیکن عربی گفتگو پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے اظہار خیال نہیں کر سکتے، اور ان کا علم اور ان کی ذہانت ”کنز تخفیٰ“ بن کر رہ جاتی ہے، اس بات کا احساس اکثر ویژت علماء کو رہا کرتا تھا۔

اسی تاثر کا اظہار محترم احمد غریب صاحب نے اپنے ایک خط میں کیا تھا، قاضی صاحب جب حج کو گئے تو وہ عرب علماء سے بے تکلفانہ ملے، ان سے حل کرا ظہار خیال کیا، کیونکہ عربی لکھنے اور بولنے کا انھیں ملکہ تھا۔ اس سے عرب علماء متاثر ہوئے، قاضی صاحب نے اپنے اس مضمون میں اسی کی داستان بیان فرمائی ہے۔

弗روی کے ”البلاغ“ میں مختصرم احمد بھائی صاحب کا ایک خط ”مکتب مکرمہ“ کے عنوان سے شائع ہوا ہے، جس میں موصوف نے ہندوستان کے علماء کے عربی میں بات چیت نہ کرنے پر اظہار خیال فرمایا ہے (۱)، ان کی علمی و دینی حیثیت نے ہمیشہ یہ بات بڑی شدت سے محسوس کی ہے کہ ہمارے علماء عربی زبان حاصل کرنے اور اور اس کے پڑھنے پڑھانے میں مدت العمر رہنے کے باوجود اس پر

(۱) بہت دنوں سے قاضی اطہر صاحب کی کچھ بخبر نہیں، دو ہفتے قبل مدینہ منورہ میں ان کے صاحبزادے مولوی خالد کمال سے ملاقات ہوئی تھی، ماشاء اللہ دینی معلومات میں کافی ترقی کر لی ہے اور ہمارے یہاں کے علمائے کرام و فضلاۓ عظام میں جو کمی محسوسی کر رہا تھا عربی بول چال میں کی، انھوں نے وہ کی بہت چھی طرح پوری کر لی ہے، عربی میں گفتگو بہت اچھی طرح کر رہتے ہیں اور اس چیز کی مجھ پر جیسے خادم علماء کو کہک رہتی تھی، ایک مرتبہ ہم بھائیوں نے یہاں ایک دعوت گئی، جسکے میں چار پانچ ہندوستان و پاکستان کے علماء کو مدعا کیا، اسی موقع پر یہاں کے علماء کو بھی دعوت دی، عربی و بھی دنوں پار یہاں علیحدہ علوم ہوتی تھیں، کیونکہ اپنے علماء عربی میں گفتگو پر قادر نہیں ہوتے ہیں۔ ہندوستان کے مولانا علی میاں اس سے مشتمل ہیں کہ وہ عربی زبان پر قدرت رکھتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے مولانا محمد یوسف صاحب بخوبی بھی عربی میں گفتگو پر قدرت رکھتے ہیں۔

قدرت نہ رکھنے کی وجہ سے عرب علماء کے سامنے بے زبان بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی حد تک دیار عرب کے علماء ہندوستانی علماء کو پچھلے یوں ہی سا سمجھتے ہیں، جو شخص کسی زبان کو زندگی بھر پڑھے پڑھائے وہ بہر حال اس میں بات چیت کرنے پر کچھ نہ کچھ قدرت رکھتا ہوگا، اگر نہیں رکھتا تو اسے رکھنا چاہئے، موصوف نے جب اپنے حلقة کے ایک طالب علم (عزیزم خالد کمال مبارک پوری) کو اس معاملہ میں چند ہی سالوں میں مدینہ منورہ میں رہ کر بہت آگے پایا تو اپنے ذوق میں ایک اہنزہ اور نشاط محسوس کرتے ہوئے اس کا نہایت اچھے انداز میں اظہار فرمایا، اور بہت افزائی کی، محترم احمد بھائی صاحب کی ان ہی چند سطروں پر تعلق کے طور پر یہ معراضات پیش کی جا رہی ہیں، اس میں گذشتہ سال کے سفر حج کے کچھ سفر پارے بھی ہیں اور عربی زبان میں بات چیت کرنے کے تجربات بھی۔

ہندوستان کے عام علماء کی عربی گفتگو پر قدرت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول میں اس کو روایج نہیں دیتے اور عمر بھر پڑھنے پڑھانے کے بعد بھی جب عربی میں گفتگو کی بحث آتی ہے تو ”هذا شیٰ دیگر“، کہہ دیتے ہیں، ورنہ ان ہی عالموں میں جن کو تھوڑا بہت سابقہ پڑھاتا ہے، وہ چند ہی دنوں میں اس پر قادر ہو جاتے ہیں اور ہر موضوع پر نہایت بے تلفی سے عربی میں بات چیت کرتے ہیں۔

رقم کو نہ عربیت کا دعویٰ ہے، نہ عربی دانی کا زعم ہے اور نہ ہی عربی زبان میں زیادہ گفتگو کرنے کا سابقہ ہی پڑا ہے، مگر بمبئی میں رہ کر مختلف عرب ممالک کے علماء، ادباء، فراء، ارباب حکومت، اہل دُول اور تجارت و عوام کے ساتھ بسا اوقات عربی میں گفتگو کرنے کا سابقہ پڑا، ابتداء میں جھجک اور جھینپ محسوس ہوتی تھی اور میں نیک صورت بن کر نعم کہہ دیا کرتا تھا، مگر آخرب کتب تک یہ بات باقی رہتی، علمی، سیاسی، تاریخی ہر قسم کی باتیں نہ لکھتی تھیں، اور ان میں حصہ لینا پڑتا تھا، تیجہ یہ ہوا کہ ”کام چلاو“، عربی گفتگو پر قدرت ہو گئی، اور اٹے سیدھے بحث و مباحثہ میں حصہ لینا شروع کر دیا

جس کی وجہ سے جھجک ختم ہو گئی اور زبان بہر حال چلنے لگی۔
پہلی بار ۱۳۷۴ھ میں حج و زیارت کی دولت نصیب ہوئی تھی، اس زمانہ میں بھی علمی اور دینی طبقہ سے بات چیت میں کبھی ناکام نہیں ہوئی، اور ہر جگہ کام چلتا رہا، اور گذشتہ سال ۱۳۸۵ھ میں حاضری ہوئی تو گویا کوئی بات ہی نہیں تھی، جدہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کہیں بھی کسی حلقة میں ایسا نہیں ہوا کہ گفتگو پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے خاموشی رہی ہو، یہ دوسری بات یہ ہے کہ بھل اور برجستہ گفتگو میں عربیت کے ابر و پر بُل آجاتا رہا ہو، اس کی نفسیاتی وجہ یہ تھی کہ اب کے بار عزیزم خالد کمال سلمہ متعلم جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے تعارف و تعلق اور ”رجال السندر والہند“ کے مطالعہ کی وجہ سے اکثر مشايخ اور علماء پہلے ہی سے یاد فرماتے تھے اور ملنے کے خواہ شمند تھے، ان سے زیادہ رقم اپنے ان نادیدہ بزرگوں اور حسن ظن رکھنے والے ارباب صفا سے نیاز حاصل کرنے کی تیاری کر کے گیا تھا، نیز رقم کا ایک مقالہ عربی زبان میں ”من النار جیل إلى النخلیل“ حکومت ہند کے عربی سہ ماہی مجلہ ”شقافۃ الہند“ میں تین قسطوں میں چھپ چکا تھا جس کی زائد کا پیاس جدہ کے ہندوستانی سفارت خانہ کے آفسروں نے طلب کر کے سعودی عرب کے صحافیوں، ادبیوں اور عالموں کو پیش کیا تھا، اس مقالہ میں عرب اور ہندوستان کے ابتدائی اسلامی تعلقات کو جغرافیہ، رحلات اور تاریخ کی کتابوں سے بیان کیا گیا تھا، یہ مقالہ سعودی عرب کے علمی اور تحقیقی حلقة میں بہت زیادہ پسند کیا گیا، بلکہ سعودی عرب کے سب سے مشہور اور قدیم صحافی و مؤرخ الاستاذ عبد القدوس الانصاری نے پورا مقالہ چار قسطوں میں اپنے مجلہ ”المنهل“ جدہ میں نہ صرف شائع کیا بلکہ اس پر جگہ جگہ تعلیقات لکھیں، نیز ہندوستانی سفیر محترم کامل قدوالی صاحب، فرنٹ سیکریٹری محترم سید شہاب الدین صاحب، محترم مولانا خالد صاحب اور عزیز گرامی فضل الرحمن صاحب نے وہاں کے ادبیوں اور صحافیوں سے تذکرہ کیا کہ اس سال فلاں آدمی آرہا ہے، وہ سب حضرات

مدینہ منورہ چلے جانے کے بعد قیام مکرمہ کے زمانہ میں بارہا ”رباطۃ العالم الاسلامی“ میں حاضری ہوئی، تنہا بھی اور بعض دوسرے ہندوستانی احباب کے ساتھ بھی، عام طور سے مجلہ ”رباطۃ العالم الاسلامی“ کے ایڈٹر شیخ محمد سعید العامودی اور ان کے دفتر کے دوسرے عملہ سے بات چیت رہا کرتی تھی، رُخ سیاسی اور ملکی ہوا کرتا تھا، اکثر دیگر ممالک سے آئے ہوئے صحافی اور اہل علم بھی رہا کرتے تھے اور سیاسیات پر بحث چھڑ جاتی تھی، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بات میں تیزی آجائی، رقم کھل کر پورے طور سے ان مباحثت میں حصہ لیتا تھا، اور آخر میں ٹیپ کابنڈ یہ ہوتا کہ یہ بائیں ذاتی اور شخصی ہیں، جب بھی شیخ محمد سعید عamودی کی مجلس سے چلا تو موصوف نے فرمایا کہ پھر کب آئیں گے؟ ہم پھر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ رقم کو بھی جب موقع ملتا پہنچ جاتا، اس مدت میں وہاں کے کئی حضرات سے اچھی خاصی انسیت پیدا ہو گئی تھی، رابطہ کے دفتر میں بھندوستان کے بعض حضرات کی ترجمانی بھی کی اور فیجی مسلم لیگ کے سکریٹری جناب بہادر علی صاحب کو ساتھ لے جا کر رابطہ کی طرف سے فیجی میں اسلام اور مسلمانوں کی ضرورت کیلئے ہر قسم کے تعاون کی بات چیت کرائی، اس مدت میں متعدد بار شیخ سید علوی مالکی کے مکان (قرارہ میں) حاضری ہوئی تھی، وہ مکرمہ کے نہایت ذی علم حضرات میں سے ہیں۔ اور ہر وقت باغ و بہار رہتے ہیں، پہلے سفر حج میں بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی، اب کے بارتو نہایت گھری ملاقاتیں رہیں، آخر میں مدینہ منورہ روانگی کے وقت ملاقات نہ ہو سکی، جس کی شکایت ان کے صاحبزادے نے مدینہ منورہ میں خالد کمال سے کی کہ والد محترم ان کا انتظار کر رہے تھے اور تصنیف ہدیہ دینے کیلئے رکھا تھا، نیز مکرمہ میں مکتبہ الحرم میں جانا ہوا تھا، جب مکتبہ الحرم پہنچا تو اس کے مدیر و شیخ سے بات چیت ہونے لگی موضوع ہندوستان کی وہ علمی و تاریخی کتابیں تھیں جو عہد قدیم سے لے کر آج تک حر میں شریفین کی تاریخ پر لکھی گئیں ہیں، احقر نے بتایا کہ فلاں تاریخیں ہندوستانی علماء کی مطبوعہ ہیں اور فلاں فلاں غیر مطبوعہ ہیں، جن میں

ملاقات کے خواہش مند تھے، رقم کو ہندوستانی ہی میں معلوم ہو گیا تھا کہ سفارت خانہ کے ارکان اس مقالہ کی وجہ سے، نیز عزیزم خالد کمال سے تعلق و تعارف کی وجہ سے میری حاضری کے منتظر ہیں، ان باتوں کی وجہ سے رقم کو ضغطہ اور احساس کمتری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تشکر و امتنان کی فضائیں ادھر بھی امنگ اور خواہش تھی کہ اب کے چجاز مقدس کے علماء، مشائخ اور ارباب علم سے کھل کر تبادلہ خیالات کرنا چاہئے، چنانچہ اس اشراحت و انشباط نے اور بھی ہمت افزائی کی، اور جدہ اترتے ہی اس کا سلسلہ شروع ہو گیا، میں ابھی کشم ہاؤس کے باہر ہی تھا کہ جناب خالد صاحب ملے اور انداز سے پہچان کر نام دریافت کیا میں نے بتایا تو بڑی محبت سے لپٹ گئے اور انتظار کا تذکرہ کیا، اتنے میں کامل قد و امی صاحب تشریف لائے اور تعارف ہوتے ہی پان پیش فرمایا، اور نہایت حسن خلق سے ملے، ادھر خالد صاحب نے محترم سید شہاب الدین صاحب سے جا کر کہا کہ میں ایک خاص آدمی سے مل کر آیا ہوں انہوں نے جب میرانام لے کر پوچھا کہ فلاں صاحب ہونگے، پھر وہ بھی فوراً تشریف لائے، اور بڑی محبت سے ملے، تقریباً ان سب حضرات نے ”من النار جيل الى النخيل“ والے مقاولے کا تذکرہ کیا، اور یہ کہ یہاں کے اہل علم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، یہ باتیں بالکل ہنگامی تھیں، رات بھر جدہ میں رہکر کل مکہ مکرمہ جانا تھا، پھر خالد کمال کی والدہ کی وجہ سے ایک گونہ پابندی بھی تھی، وہ بھی ایک دودن پہلے مدینہ منورہ سے جدہ آگئے تھے۔

چونکہ آخری جہاز مظفری سے روانگی ہوئی تھی اور ایام حج قریب تھے، اس لئے اصل کام میں مصروفیت رہی جس کیلئے حاضری ہوئی تھی، اس درمیان میں مختلف ممالک کے اہل علم اور مشائخ سے ملاقات ہوتی رہتی تھی، عزیزم خالد کمال حج کے بعد دس بارہ روز تک ساتھ رہے، ان کے ہمراہ ”رباطۃ العالم الاسلامی“ کے دفتر میں آتا جاتا رہا، نیز شیخ سید علوی مالکی اور دوسرے مشائخ سے ملاقات ہوتی رہی، ان کے

سے بعض کا قائم نسخہ ہمارے پاس اب تک محفوظ ہے، انھوں نے اس گفتگو کی بڑی قدر کی اور فرمایا کہ یہ بتیں عام ہوتی چاہئیں، پھر انھوں نے ایک عربی روزنامہ کے مدیر کو فون کیا کہ فلاں کو میں روانہ کرتا ہوں آپ ان سے انٹریو لے کر کل کے اخبار میں شائع کر دیں، مگر اتفاق سے ایڈیٹر صاحب موجود نہیں تھے، اور انھوں نے مجھ سے معدرت کرتے ہوئے عصر کے بعد بلا یا کہ میں آپ کے ساتھ اپنا آدمی کر دوں گا، آپ یہ بتیں ایڈیٹر سے کر لیں تاکہ ان معلومات سے یہاں کے اہل علم بھی واقف ہوں، میں ان کے وعدہ پر گیا مگر وہ اتفاق سے اس وقت نہیں مل سکے، پھر نہیں جاسکا، حالانکہ اس کیلئے بہت سے حضرات کوشش کرتے ہیں کہ عربی اخبارات میں ان کا انٹریو اور بیان آجائے۔ مدرسہ صولتیہ میں با بارہ حاضری ہوتی تھی جہاں ہندوستانی اور عرب علماء سب ہی ہوتے تھے، مولانا محمد سلیم صاحب اور ان کے صاحبزادے مولانا محمد شیم صاحب بہت زیادہ خیال فرماتے تھے۔

۱۸۶ھ کو مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی اور ایک ماہ تک یہاں قیام کی سعادت نصیب ہوئی، مدینہ منورہ کو یا گھر تھا، ہر وقت جامعہ کے ہندوستانی پاکستانی طلباء، ہہاں کے اہل علم اور مشائخ سے ملاقاں میں کتب خانہ شیخ الاسلام میں حاضری نماز اور صلوٰۃ وسلمان کے بعد کے مشاغل تھے، عزیزم خالد کمال سلمہ نے مدینہ منورہ کے ہر دینی و علمی حلقوں میں تعلق پیدا کر رکھا ہے، اور ہر کوچہ ولگی کے حضرات ان سے آشنا و مانوس ہیں اس لئے شہر کے بہت سے اہل علم سے ملاقاں میں رہا کرتی تھیں، ۲۰ محرم کو الشیخ محمد بن ابراہیم العبودی امین عام جامعہ اسلامیہ نے رات کو کھانے پر بلایا، جہاں الشیخ عمر افریقی اور دوسرے بعض مشائخ بھی مدعو تھے، کھانے کے بعد تین گھنٹے تک مجلس ججی رہی اور مختلف علمی و دینی موضوعات پر بات چیت رکھی، بعد میں تقریباً دلچسپ اور علمی و معلوماتی تھی، شیخ عبودی نے دریافت فرمایا کہ آپ نے یہ عربی کہاں سیکھی ہے؟ میں نے کہا کہ ہندوستان میں عربی زبان اور اسلامی علوم بڑے اہتمام

سے پڑھے پڑھائے جاتے ہیں، یہ دوسری بات ہے کہ وہاں باہمی گفتگو کا موقع نہیں ملتا اس لئے وہاں کے علماء آپ لوگوں کے سامنے گونے بہرے بننے رہتے ہیں، اور آپ حضرات خیال کرتے ہیں کہ یہ بولی سے ناواقف نہیں علماء ہیں، بات یہ ہے کہ میں نے بسمی میں عربوں سے ملنے جلنے کی وجہ سے تھوڑا بہت عربی بولنا سیکھ لیا ہے، جس کی وجہ افہام و تفہیم میں دقت نہیں ہوتی، ۷ احریم کو استاذ شیخ عمر افریقی مساعدامیں عام جامعہ اسلامیہ نے عشاء کے بعد کھانے کی دعوت دی، ان کے یہاں افریقیہ اور سوڈان غیرہ کے دو تین علماء تھے، یہاں دو گھنٹے سے زائد مجلس رہی اور مختلف موضوعات پر بتیں ہوتی رہیں، ان حضرات کی مجلس میں کھل کر نہایت بے تکلفی سے دوستانہ انداز میں گفتگو رہی، ۱۶ احریم کو جمعہ کی نماز کے بعد حضرت الشیخ عبدالعزیز بن بازنائب الرئیس جامعہ اسلامیہ نے کھانے پر بلایا، یہاں بھی گھنٹوں گفتگو رہی، شیخ نے یہاں کے علماء کا علمی اور دینی حال دریافت کیا، سلسلہ کلام میں بعض تاریخی مباحث پر گفتگو نکلی اور بعض کتابوں کے بارے میں بات چیت رہی، شیخ ابن باز پوری مملکت میں بڑے معزز و محترم مانے جاتے ہیں اور بڑے باوقار ہیں، مگر بھی مجلسوں میں بے تکلف نظر آتے ہیں، یہاں بھی شیخ عبودی اور کئی مشائخ شریک تھے، محترم الشیخ سید محمود الطرازی مدنی سے پرانی ملاقات تھی، ایک دن ان کے یہاں ناشتہ کی دعوت رہی، ہندوستان کے طلباء نے بڑے ذوق و شوق اور اخلاص سے دعویں کیں، عزیزان مولوی امیر احمد صاحب را مپوری، مولوی ہلال احمد مبارک پوری، مولوی نعمان صاحب بہاری، مولوی جیل احمد صاحب بہاری، مولوی سعود صاحب، شیخ سعد الدین صاحب ملیپاری، استاذ جامعہ اسلامیہ وغیرہ نے کھانے، ناشتے اور چائے کی دعویں کیے، جامعہ اسلامیہ میں شیخ عبد القادر سیپیہ الحمد کے درس میں شرکت رہی، بعد میں تقریباً روزانہ ہی ان سے مسجد بنوی میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہا کرتی تھی، ان موقع پر اکثر جامعہ کے ہندوستانی اور پاکستانی طلباء بھی رہا کرتے تھے، اخوان المسلمین کے کئی

سرگرم حضرات سے اکثر گھنٹوں گھنٹوں مسجد نبوی میں اخوان اور حکومت مصر کے موضوع پر بات چیت ہوا کرتی تھی، میں جامعہ اسلامیہ کے کتب خانہ میں ایک روز بیٹھا ہوا تھا، کئی اساتذہ بھی تھے، ایک عرب استاذ نے باتوں باتوں میں فقہی مسلک کے متعلق کہہ دیا کہ احناف حدیث کے مقابلہ میں رائے پر عمل کرتے ہیں اس پر اقم نے جم کران سے گفتگو کی اور کہا کہ میں حنفی ہوں کوئی ایک مسئلہ ایسا بتائیے کہ جن میں میں حدیث کے مقابلہ میں رائے پر عمل کرتا ہوں، یہ گفتگو مناظر انداز کی تھی، دوسرے اساتذہ خاموش مسکرار ہے تھے، اور دونوں کی گفتگو میں سن رہے تھے، اسی طرح ایک ملیاری صاحب جو جامعہ میں کسی شعبے سے متعلق ہیں، ان سے میں نے کہا کہ آپ عرب یا ملیاری زبان جانتے ہیں، افسوس کہ آپ ہندستانی ہیں مگر اردو نہیں جانتے، اس پر انہوں نے کہا کہ ہم کوارڈ زبان کی ضرورت ہی نہیں ہے، دینی زبان عربی ہے، دیناوی زبان ملیاری ہے، اردو کی ضرورت ہی کیا ہے، اس وقت موقع نہیں تھا میں خاموش رہا، مگر کتب خانہ میں جب وہ ملے تو پھر ان سے حل کربات چیت ہوئی، اور ان کو اپنی اس بات کے بے تکنے پن کا احساس ہوا، مسجد نبوی میں ایک روز مغرب بعد حسب معمول تبلیغی اجتماع ہورہا تھا، میں بھی پاس ہی الگ بیٹھا ہوا تھا، ایک مولوی صاحب ایک عرب طالب علم کو لیکر آئے کہ یہ کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو سمجھا بتا دیں، میں نے اس کو بھایا اور کہا کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو، اس عزیز نے انسان کے چاند پر جانے کے بارے میں قرآن و حدیث کی رو سے سوالات کئے، میں نے اسے سمجھا ناشریہ کیا تو اور لوگ بھی ہندستانی پاکستانی اور عرب حضرات آگئے میں نے اپنی وقتی یادداشت کے مطابق اسے قدیم و جدید انداز میں سمجھایا، آخر میں وہ میرا شکریہ ادا کرتا ہوا یہ کہکر اٹھا کہ اب اس بارے میں میرے شبہات دور ہو گئے۔

دوسرے حضرات بھی اس بحث سے مخطوط ہوئے اور انشراح کا اظہار کیا۔

مولانا سعد الدین صاحب ملیاری استاذ جامعہ اور بعض دوسرے حضرات کی

رائے ہوئی کہ میں جامعہ کے طلبہ کے سامنے ہندستان اور عرب کے علمی تعلقات پر کوئی مقالہ پڑھوں یا تقریر کروں، میں اس کے لئے تیار بھی ہو گیا، مگر معلوم ہوا کہ دو ایک دن میں جامعہ کی چھٹی ہونے والی ہے تاکہ طباء اختبار کی تیاری کریں لہذا اگر ایسا ہوتا ہے تو کل پرسوں تک ہو جانا چاہئے کیوں کہ وقت نہیں ہے، اس صورت کی وجہ سے میں نے پہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر کوئی چیز پیش کی جائے تو ہر اعتبار سے معیاری ہونی چاہئے، یہ نہیں کہ جیسے تیسے ایک مقالہ تیار کر کے سنادیا جائے، میں سفر میں ہوں مراجعت کے لئے کتابیں نہیں ہیں پھر جلدی میں مقالہ کی تیاری کچھ یوں ہی سہی ہو گی اور اصل موضوع کئی پہلو سے تشنہ رہ جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ یہ خیال ہی ترک کر دیا جائے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ اس قسم کے مقالات کے لئے اچھے اچھے اہل علم و تحقیق مہینوں پہلے سے تیاری کرتے ہیں، معلومات جمع کرتے ہیں، اور الفاظ و عبارت میں تراش خراش کرتے ہیں، تب جا کر ایک معیاری مقالہ تیار ہوتا ہے (چاہے وہ بعد میں ظاہر کریں کہ یہ مقالہ بہت عجلت میں لکھا گیا ہے، جیسا کہ اس کاروان بھی ہے) ایسی حالت میں اللہ اکبر مقالہ تیار کر کے پیش کر دینا نہ جامعہ کے طباء کے لئے مفید ہو گا اور نہ اپنے لئے بہتر ہو گا۔ چنانچہ یہ ارادہ ترک کر دیا اور اس میں اپنی کوئی ہتھ نہیں محسوس کی اور نہ احساسِ مکتری میں بمتلا ہوا، کتب خانہ شیخ الاسلام میں تقریباً روزانہ حاضری ہوتی اور مخطوطات و نوادرات سے استفادہ کا موقع ملتا، وہاں مختلف بلا و مصار کے اور خود مدینہ منورہ کے اہل علم و تحقیق آتے جاتے، ان سے ان کے خصوصی فن اور موضوع پر بات چیت ہوتی، تقریباً روزانہ ہی یہاں کسی نہ کسی نئے صاحب علم سے ملنے کا موقع ملتا۔ ان کے علاوہ مدینہ منورہ میں کئی اہل علم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور علمی گفتگو کا موقع ملتا رہتا تھا۔

ایک مرتبہ ہندو پاکستان کے چند طلبہ مسجد نبوی میں کہنے لگے کہ ہمارے یہاں کے علماء جب یہاں آتے ہیں اور ہمارے جامعہ کے شیوخ و اساتذہ سے ملتے ہیں تو

عربی گفتگو پر قدرت نہ رکھنے کی وجہ سے تبرک بن کر رہ جاتے ہیں، نہ وہ شیوخ و اساتذہ سے تبادلہ خیال کرپاتے ہیں اور نہ وہ ہمارے علماء سے زیادہ گفتگو کر سکتے ہیں، بلکہ جانین ایک دوسرے کی برکت حاصل کرنے پر اکتفاء کرتے ہیں، صرف مولانا محمد یوسف صاحب بنوری، مولانا ابو الحسن صاحب ندوی اور مولانا ابوالاعلیٰ صاحب مودودی ان حضرات سے کھل کر ملتے جلتے ہیں اور ہر موضوع پر نہایت واضح انداز میں معاصرانہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہوتی کہ اس سال آپ یہاں کے اہل علم سے کھل کر ہر موضوع پر بات چیت کرتے ہیں، اور ہر قسم کی بحث اور موضوع میں حصہ لیتے ہیں، پھر اس گفتگو میں مرعوبیت اور جھجھک نہیں ہوتی اور یہاں کے اہل علم کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہندستان و پاکستان کے اہل علم بھی علم اور مطالعہ رکھتے ہیں۔ مختلف موضوعات پر ان کے یہاں بھی معلومات ہوتی ہیں، اور ان کی اپنی رائے بھی ہوتی ہے جس کے لئے وہ دلائل رکھتے ہیں۔

حضرت مظہر جان جاناتا وغیرہ کے ملفوظات و مکاتیب کے نادر قلمی نسخ دیکھنے میں آئے۔ نیز ایک قرآن شریف دیکھا جو اسی سلسلہ کے ایک مشہور بزرگ کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، بارہا ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ کی ان علمی مجلسوں میں عزیزم خالد کمال ساتھ رہے، اور اساتذہ و شیوخ سے گفتگو کے درمیان کہیں کوئی لفظ بروقت یاد نہیں آیا اور مطلب کی ادائیگی میں دقت محسوس ہوئی تو وہیں باق نے بیٹھ کی طرف مراجعت کر لیا، اور یہ بات بھی ان شیوخ و اساتذہ کے نزدیک علمی شان کی ایک ادا بن گئی، اگر دل و دماغ میں معلومات ہوں تو زبان کسی نہ کسی طرح ان کو ادا کرہی دیتی ہے، اور سننے والے اس کی قدر کرتے ہیں طرز ادا پر نہیں جاتے کیوں کہ مادری زبان کے مقابلہ میں کوئی زبان مانی الفہری کے ادا کرنے پر کماۃ قدر نہیں ہو سکتی۔

و اپسی کے موقع پر جدہ میں راقم کے اعزاز میں ۳ / جون ۲۶ء کو محترم سید شہاب الدین صاحب نے ایک پر تکلف اور شاندار دعوت اپنی قیام گاہ پر دی، جس میں جدہ اور مکہ مکرمہ کے اکثر صحافی، مدیران جرائد و مجلات اور ادباء و مصنفوں تھے، ان میں شیخ حسین سراج امین رابطہ عالم اسلامی، الاستاذ عبد القدوس انصاری مدیر مجلہ "امن حل" ، شیخ محمد احمد جمال مشہور انشاء پرداز و مصنف، شیخ محمد حسین مدیر جریدہ عکاظ وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں، ایک دن پہلے ہی عربی اخبارات میں اس دعوت کا اور اس میں شرکاء کا اعلان آگیا تھا، عرب کے ان صحافیوں اور ادیبوں کی راقم سے دلچسپی کی بڑی وجہ مقالہ "من النار جیل الی اخْتِلَل" تھا جسے انہوں نے "ثقافتہ الہند" دہلی اور "امن حل" جدہ میں پڑھا تھا، مجھے جہاز سے اترتے ہی جدہ میں معلوم ہو چکا تھا کہ استاذ عبد القدوس انصاری میری ملاقات کے بیحد شائق ہیں اور بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں، مگر چونکہ جگہ کا زمانہ تھا اور مصروفیات غیر معمولی تھیں، اس لئے ان سے اسی دن ملاقات نہیں پڑھا تھا اور جگہ تھوڑے تھوڑے حواشی لکھے تھے، جتنے لباقع کے قریب رباط مجددیہ میں بھی جانا ہوا جو حضرت مجدد الف ثانیؒ کے سلسلہ کے بزرگوں کی ہے، اس میں

ہندستان کے رجال اشخاص پر جو عرب میں گذرے ہیں، انھوں نے بیجا صرار کیا کہ آپ دو تین ماہ کے لئے رک جائیں، ہم تمام انتظام کر دیں گے اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مگر چونکہ خالد کمال کی والدہ ساتھ تھیں اس لئے ایسا نہ ہو سکا، انھوں نے اصرار کیا کہ آپ کی جس قدر تصنیفات ہیں عربی یا اردو میں سب کی سب میرے پاس خالد کمال کے ذریعہ بھجوائیں، میں اپنی تصنیفات اور ”امنحل“ پیش کروں گا۔ چنانچہ رقم کی تمام کتابیں خالد کمال کے ذریعہ پہنچ گئیں، استاذ محمد احمد جمال غزوات نبوی کے سلسلے کے مصنف ہیں، وہ اس بارے میں موثر اسلوب نگارش رکھتے ہیں، ان کے مقالات و مضامین سے پہلے سے واقف تھا، قیام مدینہ منورہ کے دوران میں ان کی بعض تصنیفات کے مطالعہ کا موقع ملا، ان سے اسی موضوع پر گفتگو رہی، شیخ حسین سراج امین عام رابطہ عالم اسلامی چونکہ عالم اسلام کے ایک اہم ادارہ کے ذمہ دار ہیں، اس لئے میں نے ان سے کہا کہ آپ حضرات ایک طرف عالم اسلام کے ربط و تعلق کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لئے جان و مال کی بازی لگادی ہے جو فی نفسہ نہایت مفید اور ضروری کام ہے، مگر دوسری طرف حال یہ ہے کہ حرم محترم میں ہندوستان پاکستان کے بعض اہم دینی علماء اردو میں نہایت اشتغال انگیز تقریریں کرتے ہیں، مقلدین خاص طور سے احناف کے بارے میں نہایت برے الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کے ائمہ کو نازیبا اور دلآلزار لہجہ میں یاد کرتے ہیں، اور ہر تقریر میں تنگ نظری اور تنگ دلی کا مظاہرہ کر کے نہایت گستاخانہ انداز میں سب و شتم تک کا انداز اختیار کرتے ہیں، جسے ہندوستان کے منجان مرنج اہل علم بھی سن کر شدید کوفت محسوس کرتے ہیں۔

چنانچہ شاہ معین الدین احمد صاحب ندوی دارِ مصنفین اعظم گذھ، مولانا سید عبد الوہاب صاحب بخاری مدرسی اور افضل العلماء مولانا عبدالباری مدرسی اور دیگر علماء ان کی تقریروں کو سن کر سخت کوفت محسوس کرتے ہیں۔ آپ عالم اسلام کے ربط و اتحاد کے داعی ہیں اور دوسری طرف ہندوستان و پاکستان کے ان تنگ نظر اور مفاد

پرست مولویوں کو مسلمانان عالم کے مرکز میں ان کو برا بھلا کہنے اور ان کے خلاف نفرت پھیلانے کی اجازت دیتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان میں اکثر و بیشتر ایسے ہیں جو اپنے کو حکومت اور شیوخ کی نظر میں اچھا ثابت کرنا چاہتے ہیں، کوئی اقامہ چاہتا ہے، کوئی تابعیہ کے چکر میں ہے، کوئی کسی ادارہ میں ملازمت کے حصول کیلئے سرگردان ہے اور ان کی حرکتوں کو ذمہ دار حضرات ہرگز پسند نہیں کرتے، چنانچہ خود بجدور یا ضر کے علماء الہدیث اس حرکت کو ناپسند کرتے ہیں، حرم محترم مقلد اور غیر مقلد کا اکھاڑہ نہیں ہونا چاہتے اور نہ اس طرح کسی مسلک کے خلاف نفرت و تحارت کا مظاہرہ ہونا چاہتے، یہ مسلمانان عالم کو خدا کے گھر میں پا کر برا بھلا کہنا ہوا، ہمارے ان تاثرات کو شیخ حسین سراج نے کفر مایا کہ فلاں شیخ سے آپ نے اس کا تذکرہ کیا یا نہیں؟ اس کے بعد بات کارخ پھیرتے ہوئے کہا کہ چونکہ میری والدہ سندھ کے قبیلہ تمیم سے تعلق رکھتی تھیں، اور ہندوستان و عرب آپ کا خاص موضوع ہے اس لئے قبیلہ کے بارے میں مجھے معلومات دیں کہ تاریخ میں ان کے کن کن افراد کا تذکرہ ملتا ہے، اس دعوت میں ایک پُر لطف بات یہ رہی کہ مغربی طرز پر کھانے کا انتظام تھا، مگر رام نے بھرے مجمع میں کہا کہ میں تو اسلامی تعلیم کے مطابق کھانا کھاؤں گا یہ کہہ کر پلیٹ میں کھانا لیا اور دوسرے کمرے کی میز کرتی پر بیٹھ کر کھانا شروع کیا، اس کے بعد تمام حاضرین نے ایسے ہی کھایا، کھانے کی پوری مدت تقریباً اسلامی دستخوان ہی موضع عین بنارہ، بعد میں یہ مجلس دو گھنٹے سے زائد تک رہی، اور مختلف سیاسی، ملکی اور علمی و تاریخی موضوعات پر تبادلہ خیالات ہوتا رہا۔

دعوتوں کے سلسلے میں جدہ کی ایک دعوت کا ذکر ضروری ہے، ہمارے بھبھی کے پرانے دوست جناب الحاج عبدالرحیم صاحب انصاری کئی سال سے جدہ میں مقیم ہیں اور وہاں کے ہندوستان و پاکستان کے لوگوں میں کافی مقبول و محبوب ہیں، وہ اردو شعر و ادب سے اچھی خاصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایام حج میں ملتے رہے، جب جدہ پہنچا تو

انھوں نے دوستوں سے تعارف اور ملاقات کیلئے ایک خاص دعوت کا انتظام کیا جو جناب محترم محمد احمد صاحب (لکھنؤ) کے دولت کدہ پر رکھی گئی تھی، اس پر تکلف دعوت میں ان کے حلقة، احباب کے تمام ادب نواز شعراء و ادباء شریک تھے، عشاء کے بعد کھانا کھایا گیا پھر بارہ بجے رات تک شعروادب کی نہایت لطیف و سمجھیدہ محفل رہی۔

اوپر جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا مقصد نہ اپنی علمیت و قبلیت دکھانا مقصود ہے اور نہ اپنی عربیت اور عربی دانی کا اشتھار دینا ہے، رام نے جو لکھا پڑھا تھا بمبئی کے تجارتی اور ہنگامی شہر میں اس کا باقی رکھنا مشکل ہے، پھر بھی الحمد للہ کہ لکھنے پڑھنے کا سلسلہ تاہنوں باقی ہے، یہاں بتانا یہ ہے کہ ہمارے علماء مدارس کی فضائیں وہی پرانی عربی استعمال کرتے رہیں تو ان کو اچھا خاصا ملکہ ہو جائے اور عرب ممالک میں یا عرب علماء سے بات چیت اور تبادلہ خیالات میں کوئی دقت اور جھومنہ ہو، اگر رقم یہاں تھوڑی بہت عربی کلام پر قدرت نہ رکھتا تو شرم اور جھجک کی وجہ سے ہر عالم اور ہر محفل سے جی چراتا، اور مختلف قسم کے وجوہ تلاش کر کے اپنے کو تسلی دے لیتا، اس کے لئے ضروری ہے کہ آدمی اپنے علم اور ذات پر اعتماد کرے، اور ہر موضوع پر اپنے فی الجملہ تیار پائے، ہمارے علماء علوم و معلومات میں دوسرے ممالک کے علماء سے کم نہیں ہیں، مگر صرف عربی میں تھوڑی بہت قدرت نہ ہونے کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، ادھر پچھلے چند سالوں سے یہ خاموشی ٹوٹ رہی ہے، مگر اس میں تیزی کی ضرورت ہے، ہمارے مدارس عربیہ کے اساتذہ کو چاہئے کہ وہ اپنے طلباء سے عربی ہی میں گفتگو کریں، پہلے تو استاذ شاگرد دونوں ہی ضيق محسوس کریں گے، مگر چند دنوں کے بعد بے تکلف قصیر و بلیغ عربی بولنے لگیں گے، جسے عرب علماء سن کر محسوس کریں گے کہ ہم ان کے مقابلہ میں غیر تصحیح بولتے ہیں۔

دوسرے ممالک میں جانا ہو یا نہ ہو خود اپنے ملک میں رہ کر عربی زبان بولنا، عربی میں خط و کتابت کرنا اور عربی زبان کو اپنی دینی زبان سمجھ کر زندہ رکھنا ہمارے لئے ضروری ہے۔

قاضی صاحب کے علمی کارناموں کی مکمل فہرست قاضی ظفر مسعود ابن قاضی اطہر صاحب مبارکپوری

قاضی صاحب نے جو زبردست علمی و تحقیقی کارنامہ انجام دیا اس کو علمی دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی، یہ قاضی صاحب کے علمی و تحقیقی کارناموں کی مکمل اور جامع فہرست ہے اس میں ان کی تمام اردو اور عربی تصنیفات کے علاوہ جن زبانوں میں دوسروں نے ان کے ترجمے کئے اور جن اداروں نے اپنے طور پر شائع کیا اور جن مخطوطات کی تصحیح و تحقیق کی ان پر تعلیقات لکھیں یا ان کتابوں کے مسودے حوادث کا شکار ہو گئے اور شائع نہ ہو سکے، ہر ایک کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ یہ فہرست اتنی جامع اور مکمل ہے کہ آئندہ قاضی صاحب کے کارناموں پر تحقیق اور ریسرچ کرنے والوں کیلئے بہترین رہنمایا بابت ہو گی، یہ فہرست قاضی صاحب کے صاحبزادے عزیزم قاضی ظفر مسعود سلمہ نے تمام کتابوں کو سامنے رکھ کر مرتب کی ہے۔ ہم ان کے شکریے کے ساتھ شائع کر رہے ہیں۔ (اسیر اردوی)

(۲) عرب و ہند عہد رسالت میں (اردو)

یہ کتاب ۲۰۰ صفحات پر مشتمل ہے، ۱۹۶۵ء میں اس کا پہلا ایڈیشن ندوہ المصنفین دہلی نے شائع کیا، اس کو مصر کے ایک مشہور عالم الدکتور عبد العزیز عزت عبد الجلیل نے عربی میں ترجمہ کیا اور ۱۹۷۴ء میں الہیہۃ المصریہ قاہرہ نے اس کو شائع کیا، سندھ (پاکستان) کی تنظیم فکر و نظر نے اس کا سندھی زبان میں ترجمہ کر کے ۱۹۸۲ء میں شائع کیا، کراچی کے ایک ادارہ مکتبہ عارفین نے اس کا ایڈیشن شائع کیا۔

(۲) ہندوستان میں عربوں کی حکومتیں (اُردو)

یہ کتاب ۳۳۰ صفحات پر مشتمل ہے اس کا پہلا ایڈیشن ۱۹۶۷ء میں ندوۃ المصنفین دہلی نے شائع کیا، اس کا دوسرا ایڈیشن مکتبہ عارفین کراچی نے شائع کیا، تنظیم فکر و نظر سندھ نے اس کا ایک اور ایڈیشن شائع کیا، مصر کے دکتور عبد العزیز عزت نے اس کا عربی میں الحکومات العربیہ فی الہند والسنڈ کے نام سے کیا اور اس کو اسلام آباد یونیورسٹی پاکستان کے مجلہ الدراسات العلمیہ نے قسطوار شائع کیا، پھر مکتبہ آل ید اللہ بکریہ ریاض نے اس کو تابی شکل میں شائع کیا۔

(۳) اسلامی ہند کی عظمت رفتہ (اُردو)

یہ کتاب ۲۲۳ صفحات پر مشتمل ہے، ندوۃ المصنفین دہلی نے اس کو ۱۹۶۹ء میں شائع کیا۔

(۴) خلافت راشدہ اور ہندوستان (اُردو)

یہ کتاب ۲۸۰ صفحات پر مشتمل ہے ۱۹۷۲ء میں ندوۃ المصنفین دہلی نے اس کو شائع کیا، بعد میں تنظیم فکر و نظر سندھ نے اس کا نیا ایڈیشن شائع کیا۔

(۵) خلافت عباسیہ اور ہندوستان (اُردو)

یہ کتاب ۵۵۸ صفحات پر مشتمل ہے، اس کا پہلا ایڈیشن ندوۃ المصنفین دہلی نے ۱۹۸۲ء میں شائع کیا، دوبارہ تنظیم فکر و نظر سندھ نے اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کیا۔

(۶) خلافت بنو امیہ اور ہندوستان (اُردو)

یہ کتاب ۱۷۶ صفحات پر مشتمل ہے، اس کا پہلا ایڈیشن ندوۃ المصنفین دہلی نے ۱۹۷۵ء میں شائع کیا، پھر تنظیم فکر و نظر سندھ اپنے یہاں اس کا نیا ایڈیشن شائع کیا۔

(۷) دمار پورب میں علم اور علماء (اُردو)

یہ کتاب ۲۸۲ صفحات پر مشتمل ہے، جس میں مشرقی ہندوستان میں علمی سرگرمیوں کا محققا نہ تذکرہ ہے، اس کو بھی ندوۃ المصنفین دہلی نے پہلی بار ۱۹۷۹ء میں شائع کیا۔

(۸) تذکرہ علماء مبارکبور (اُردو)

کتاب ۱۹۲ صفحات پر مشتمل ہے، اس کو دائرہ ملیہ مبارکبور نے ۱۹۷۲ء میں شائع کیا۔

(۹) آثار و معارف (اُردو)

یہ کتاب ۱۷۲ صفحات پر مشتمل ہے، اس کو ندوۃ المصنفین دہلی نے ۱۹۷۹ء میں شائع کیا، یہ قاضی صاحب کے پھیس مقالات کا مجموعہ ہے۔

(۱۰) آثار و اخبار (اُردو)

یہ کتاب ۱۵۰ صفحات پر مشتمل ہے، یہ قاضی صاحب کے کچھ مقالات کا مجموعہ ہے، جس کو ندوۃ المصنفین دہلی نے بڑے اہتمام سے ۱۹۸۵ء میں شائع کیا۔

(۱۱) تدوین سیر و مغازی (اُردو)

یہ کتاب ۳۲۰ صفحات پر مشتمل ہے، اپنے موضوع پر اردو میں یہ پہلی کتاب ہے جو علم و تحقیق کا شاہکار ہے، اس کو شیخ الہند اکیڈمی دارالعلوم دیوبند نے ۱۹۹۰ء میں شائع کیا۔

(۱۲) خیر القرون کی درس گاہیں (اُردو)

کتاب کا پورا نام ”خیر القرون کی درس گاہیں اور ان کا نظام تعلیم و تربیت“ ہے۔ یہ کتاب ۳۹۲ صفحات پر مشتمل ہے، شیخ الہند اکیڈمی دیوبند نے ۱۹۹۵ء میں اسکو شائع کیا۔

(۱۳) ائمه ارتعه (اُردو)

کتاب ۲۵۵ صفحات پر مشتمل ہے، جس کو شیخ الہندا کیڈمی دیوبند نے ۱۹۸۹ء میں اہتمام سے طبع کر کے شائع کیا ہے، اس کا پہلا ایڈیشن مکتبہ تنظیم اہل سنت لاہور نے ۱۹۸۲ء میں شائع کیا تھا۔

(۱۲) بنات اسلام کی علمی و دینی خدمات (اردو)

یہ کتاب خواتین اسلام کی دینی و علمی خدمات پر روشنی ڈالتی ہے، اس کو بمبئی کے مشہور مکتبہ شرف الدین لکھتی واولادہ نے شائع کیا تھا، دوبارہ اس کو دائرة ملیہ مبارکپور کی طرف سے بھی شائع کیا گیا۔

(۱۳) اسلامی نظام زندگی (اردو)

یہ کتاب ۲۵۶ صفحات پر مشتمل ہے، اس کو الحاج عبداللہ سمکری ابن حاجی احمد مکی نے رفاه عام کیلئے اپنی طرف سے ۱۹۵۵ء میں شائع کیا۔

(۱۴) افادات حسن بصری (اردو)

یہ ۵۶ صفحات کا کتاب چھ ہے، جس کو دائرة ملیہ مبارکپور نے ۱۹۵۵ء میں شائع کیا۔

(۱۵) مسلمان (اردو)

یہ بھی ایک کتاب چھ ہے، جو ۶۲ صفحات پر مشتمل ہے، جس کو جمیعتہ مسلمین جنگیرہ بمبئی نے ۱۹۵۳ء میں شائع کیا تھا۔

(۱۶) الصالحات (اردو)

یہ بھی ۶۲ صفحات کا کتاب چھ ہے، جو خاص طور پر خواتین کیلئے لکھا گیا تھا یہ پہلی بار بمبئی سے ۱۹۳۹ء میں شائع ہوا و بارہ انصار ایجوکیشنل اینڈ ولیفیر اکیڈمی نے ۱۹۶۶ء میں شائع کیا۔

(۱۷) تبلیغی و تعلیمی سرگرمیاں عہد سلف میں (اردو)

کاروان حیات مع قاعدہ بغدادی سے صحیح بخاری تک

یہ ایک مختصر سارسالہ ہے جو صرف ۳۵ صفحات کا ہے اس کو ۱۹۸۵ء میں مکتبہ الحق جو گیشوری بمبئی نے شائع کیا تھا دوبارہ شیخ الہندا کیڈمی دیوبند نے ۱۹۸۸ء میں شائع کیا۔

(۱۸) اسلامی شادی (اردو)

یہ ایک مختصر سارسالہ ہے جو صرف ۳۵ صفحات کا ہے اس کو ۱۹۸۵ء میں مکتبہ الحق جو گیشوری بمبئی نے شائع کیا تھا دوبارہ شیخ الہندا کیڈمی دیوبند نے ۱۹۸۸ء میں شائع کیا۔

(۱۹) معارف القرآن (اردو)

یہ ۵۰ صفحات کی کتاب ہے جس کو انجمن خدام النبی صابو صدقی مسافرخانہ بمبئی نے ۱۹۵۲ء میں شائع کیا تھا۔

(۲۰) طبقات الحجاج (اردو)

یہ ۱۹۵ صفحات کی کتاب ہے جس کو انجمن خدام النبی صابو صدقی مسافرخانہ بمبئی نے ۱۹۵۸ء میں شائع کیا تھا۔

(۲۱) علی و حسین (اردو)

یہ چھوٹے سائز کے ۳۳۶ صفحات پر مشتمل ہے ایک کتاب کی تاریخی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے اس کو ۱۹۶۰ء میں مکتبہ دائرة ملیہ مبارکپور نے شائع کیا تھا۔

(۲۲) حج کے بعد (اردو)

یہ مختصر سارسالہ ہے جو ۳۰ صفحات کا ہے، انجمن خدام النبی بمبئی نے ۱۹۵۷ء میں شائع کیا تھا،

(۲۳) خواتین اسلام کی علمی و دینی خدمات (اردو)

یہ کتاب پہلے بنات اسلام کی علمی و دینی خدمات کے نام سے شائع ہو چکی تھی

بعد میں کچھ حک و اضافہ کے بعد اس کو شیخ الہند اکیدمی دیوبند نے شائع کیا۔ کتاب میں مزید معلومات کا اضافہ ہے۔

(۲۶) قاعدہ بغدادی سے صحیح بخاری تک (اردو)

یہ قاضی صاحب کی خود نوشت نہایت مختصر آپ بتی ہے، پہلے اسکو دائرہ ملیہ مبارکبور نے شائع کیا تھا پھر اسکو مکتبہ صوت القرآن دیوبند نے دوسرا ایڈیشن صاف سترہ اشائع کیا اس کے صفحات ۵۶ ہیں۔

(۲۷) مسلمانوں کے ہر طبقہ اور ہر پیشہ میں علم و علماء (اردو)

کتاب ۲۲۸ صفحات پر مشتمل ہے، یہ ایک مقالہ تھا جو ”البلاغ“ کے تعلیمی نمبر کیلئے لکھا گیا تھا، جسے بعد میں قاضی صاحب نے مزید اضافہ کر کے کتابی شکل دی، قاضی صاحب کی وفات کے بعد شیخ الہند اکیدمی دیوبند نے مئی ۱۹۹۸ء میں اسکو شائع کیا۔

(۲۸) رجال السندا و الہند الی القرن السابع (عربی)

یہ کتاب عربی زبان میں ہے جو پہلے ۱۹۵۸ء میں ۳۲۸ صفحات میں محمد احمد میمن برادران بمبئی نے مطبع جازیہ سے شائع کیا تھا، پھر اس کتاب میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا اور ۱۹۷۵ء میں دارالانصار قاہرہ (مصر) نے دو جلدوں میں ۵۸۸ صفحات میں شائع کیا، آج وہی ایڈیشن جاز و مصراو پاکستان میں دستیاب ہے، پہلا ایڈیشن اب ناپید ہے، اس کتاب کو اہل علم نے بڑی اہمیت دی ہے، یہی کتاب مصروف جاز میں قاضی صاحب کے تعارف کا باوقار ذریعہ بنی۔

(۲۹) العقد الشمین (عربی)

کتاب کا پورا نام العقد الشمین فی فتوح الہند و من ورد فیها من الصحابة والتابعین ہے، یہ پہلی بار ۱۹۶۸ء میں ابناء مولوی محمد بن غلام رسول سوري

کاروان حیات مع قاعدہ بغدادی سے صحیح بخاری تک

بمبئی نے ۳۳۵ صفحات میں شائع کیا تھا، دوسری بار یہی کتاب دارالانصار قاہرہ (مصر) سے ۲۳۱ صفحات میں شائع ہوئی۔

(۳۰) الہند فی عهد العباسین (عربی)

یہ کتاب صرف ۸۷ صفحات پر مشتمل ہے اسکو بھی دارالانصار قاہرہ نے ۱۹۷۹ء میں شائع کیا۔

(۳۱) جواهر الاصول (عربی)

کتاب کا پورا نام جواهر الاصول فی علم حدیث الرسول ہے۔ اس کے مصنف ابو الفیض محمد بن محمد بن علی حنفی فارسی ہیں، یہ کتاب طبع نہیں ہوئی تھی، اس کا مخطوطہ قاضی صاحب کو بعض ذرائع سے دستیاب ہوا تو آپ نے اس مخطوطے کی تصحیح اور تحقیق کی اور بہت مفید تعلیقات لکھیں، اس کا پہلا ایڈیشن شرف الدین الكتبی واولادہ بمبئی نے ۱۹۷۳ء میں شائع کیا تھا جو ۱۲۰ صفحات پر مشتمل تھا۔ اس کا دوسرا ایڈیشن الدارالسلفیہ بمبئی نے شائع کیا، جب یہ کتاب جاز پہلو پنجی تو اس کا ایک خوبصورت ایڈیشن مکتبہ علمیہ مدینہ منورہ نے اہتمام سے شائع کیا اور جاز میں عام کیا۔

(۳۲) تاریخ اسماء الثقات (عربی)

یہ کتاب ابن شاہین بغدادی کی تصنیف ہے اور طبع نہیں ہوئی تھی، اس کا ایک مخطوطہ جامع مسجد بمبئی کے کتب خانے میں تھا جس سے قاضی صاحب نے نقل لی تھی، استاذی حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث الاعظمی نے دیکھا تو قاضی صاحب سے مانگ لیا پھر دوبارہ نقل کر کے اس کی تصحیح و تحقیق کی اور اس پر تعلیقات لکھیں۔ ۱۹۸۲ء میں شرف الدین اللتی واولادہ بمبئی نے اس کو شائع کر دیا، یہ کتاب ۲۳۵ صفحات پر مشتمل ہے، اس کی ابتداء میں قاضی صاحب نے ایک پرمغز مقدمہ لکھا، شاید محدث

اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تحقیق فرمائی ہے اور شاید ابھی تک کتاب طبع نہیں ہوئی ہے۔

(۳۲) دیوان احمد (عربی)

یہ قاضی صاحب کے جد مادری مولانا احمد حسین صاحب رسولپوری کی عربی نظموں کا مجموعہ ہے جس کو مرتب و مدون کر کے ۱۹۵۸ء میں شائع کیا ہے۔
(۳۲) منہ طہور (ఆردو) غیر مطبوعہ

قاضی صاحب کی نظموں اور غزاں کا مجموعہ جسے منہ طہور کے نام سے مرتب کر کے اس پر مقدمہ لکھ چکے تھے مگر پر لیں کوئی نہیں دے سکے۔

اس کے علاوہ ”سیرت رسول خود حضور کی زبانی“ کے عنوان سے مواد جمع کر رہے تھے، اموی خلفاء و امراء اور تدوین حدیث کے موضوع پر بھی معلومات جمع کر رہے تھے، یہ تمام مسودے نامکمل ہیں قاضی صاحب نے قیام لاہور کے زمانہ میں منتخب التفاسیر کے نام سے ایک ضخیم کتاب مرتب کر کے دانش بکڈ پولاہور کو دی تھی، مذکورہ دونوں کتابیں تقسیم ملک کی نذر ہو گئیں۔

(بشكري مجلہ ”ترجمان الاسلام“، بنارس ”قاضی اطہر نمبر“)



قاضی اطہر صاحب معاصر اہل علم کے خطوط کے آئینے میں

مولانا اعجاز احمد صاحب عظیمی مدظلہ

عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ المعاصرة اہل المنافرة، هم عصر ہونا ہمی منافرت کی بنیاد ہے، یہ کہاوت تجربہ کی روشنی میں بہت حد تک صحیح ہے، دیکھا یہی جاتا ہے کہ، لوگ اپنے ہم عصر اصحاب کمال کے اعتراف میں عموماً بخل سے کام لیتے ہیں، ان کی خوبیاں نظر انداز کر دیتے ہیں، بسا اوقات باہمی چشمک اور حسد کا ظہور ہوتا ہے۔ لیکن اس مثل سے وہ لوگ مستثنی ہیں جن کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے تواضع اور سادگی کا جذبہ فراواں رکھا ہے۔ یہ حضرات اپنی فطری تواضع کی بنا پر اصحاب کمال بلکہ بے کمالوں کے سامنے بھی جھکر رہتے ہیں، اور ان کے سامنے اپنے کو اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں، جیسے انھیں کوئی عظمت حاصل نہ ہو اوس سے کو تمام عظمتیں حاصل ہوں، اور یہ معاملہ از راہ قصنع نہیں ہوتا، انھیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں ہوں تو بڑا، لیکن از راہ تواضع خود کو چھوٹا بنا کر پیش کر رہا ہوں۔ ایسا کوئی شائیہ ان کے دل میں نہیں ہوتا، وہ واقعی دل و جان سے خود کو چھوٹا دوسروں کو بڑا دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے حق تعالیٰ کے دستور من تواضع اللہ رفعہ اللہ کا ظہور ہوتا ہے، کہ جو اللہ کے لئے پستی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔

حضرت قاضی اطہر مبارکپوری علیہ الرحمہ ایسی ہی مستثنی شخصیات میں ہیں، آپ کے جتنے بھی مضامین اس نمبر میں اور اس کے علاوہ دوسرے جرائد و مجلات میں مختلف

اہل علم حضرات کے قلم سے پڑھیں گے، سب قاضی صاحب کی تواضع، کسر نفسی اور سادگی کا ذکر کرتے ہیں، جن لوگوں نے قاضی صاحب کو دیکھا ہے، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ قاضی صاحب میں دینی غیرت اور خودداری گوکہ بہت تھی، مگر ان میں کربونخوت کا شائیبہ نہ تھا۔ بلکہ تھی تواضع اور بے نفیسی ان کی طبیعت اور مزاج میں رچی بسی ہوئی تھی، وہ بہت بڑے تھے، بہت نامور صاحب علم تھے، کثیرالتصانیف بزرگ تھے، اعلیٰ درجے کے محقق تھے، اور انھیں معلوم تھا کہ علم و تحقیق میں ان کا پایہ کتنا بلند ہے، مگر جب کسی سے ملتے، تو نہ اپنی کسی بڑائی کا اظہار کرتے، نہ اپنے علم کا دادا و دالتے، ہر شخص سے خواہ وہ کتنا ہی معمولی ہو، بے تکلف ملتے، بسا اوقات اسی کی زبان میں بات کرتے، جو انھیں پہلے سے نہ جانتا ہوتا اسے احساس بھی نہ ہوتا کہ وہ علمی دنیا کی ایک عظیم ہستی سے مل رہا ہے۔

قاضی صاحب کی اسی تواضع کا اثر تھا کہ معاصرین کو ان سے حسد کرنے اور ان کا رتبہ گھٹانا کا موقع ہی نہ مل پاتا تھا، قاضی صاحب کے انداز اور ان کے معاملات سے ہر شخص محسوس کرتا کہ، وہ اسے بلند رتبہ دے رہے ہیں، پھر کوئی کس بنان پر نفرت کرے۔ وہ تو محبت کا اسیر ہو کر رہ جاتا ہے، اس سلسلے میں اکابر تو خیر اکابر ہیں، وہ جو چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کے رتبے اور درجے سے بڑھ کر قاضی صاحب معاملہ فرماتے۔

قاضی صاحب کو معاصرین کس نگاہ سے دیکھتے تھے؟ قاضی صاحب کا رتبہ ان کے نزد یک کیا تھا؟ اس کی کچھ جملکلیاں ان مکاتیب و مدراسات میں دیکھی جاسکتی ہیں، جو معاصر علماء نے انھیں لکھے ہیں، قاضی صاحب کی عظمت بھی جملکلیتی ہے کہ انھوں نے خطوط کا بڑا ذخیرہ نہایت اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھا، ملک کے بہت سے نامور علماء اور بڑے اصحاب علم نے یہ خطوط لکھے ہیں۔ ہم اس مضمون میں ان معاصر علماء کے خطوط کے کچھ اقتباس نقل کرتے ہیں۔

محمد جلیل حضرت مولانا حبیب الرحمن الاعظمی علیہ الرحمۃ:

ہمارے علم میں ہندوستان کے بڑے علماء میں سب سے قدیم اور مستحکم تعلق محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن الاعظمی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ تھا۔ قاضی صاحب کے دل میں ان کی بڑی عظمت تھی، اور مولانا اعظمی بھی قاضی صاحب کے بڑے قدر داں تھے، دونوں حضرات میں ملاقاتوں کے علاوہ مراسلات کا سلسلہ بلا انقطاع جاری رہتا تھا، میرے پاس حضرت محدث کبیر کے خطوط کا ایک حصہ موجود ہے، یہ ۱۰ مارچ ۱۹۵۹ء سے ۳ مارچ ۱۹۸۱ء تک کے مکاتیب ہیں۔ ان کی تعداد ۲۸ ہے، اللہ چانے ان کے علاوہ اور کتنے خطوط ہوں گے۔ یہ خطوط زیادہ علمی تر کتابوں کی تحقیق و تفتیش، گھریلو بخی حالات اور سفر وغیرہ سے متعلق ہیں، ان کی سطح سطر عظیم ہستی سے مل رہا ہے۔

ہوتی ہے، چند ایک خطوط کے اقتباس بھی انقل کرتا ہوں۔

بیسویں صدی کی چھٹی دہائی میں، حضرت مولانا اعظمی اور قاضی صاحب کو یہ خیال ہوا کہ ایک علمی و تصنیفی اور نشر و اشاعت کا ادارہ قائم کیا جائے، جو علمی و تحقیقی کاموں کا مرکز ہو، اس کیلئے غور و فکر اور باہم مشورے ہوتے رہے۔ اس سلسلے میں دو جگہیں زیر غور تھیں، متواتر بمبئی، متواتر میں حضرت مولانا اعظمی تھے، بمبئی میں قاضی صاحب رہتے تھے، ایسا ادارہ غالباً مولانا چاہتے تھے کہ بمبئی میں ہو اور قاضی صاحب چاہتے تھے کہ متواتر ہو۔ قاضی صاحب نے اس کیلئے کوشش بھی کی تھی، مگر حضرت مولانا ادھر کے حالات سے مطمئن نہ تھے، چنانچہ ایک خط میں قاضی صاحب کو لکھتے ہیں:

”مالیگاؤں میں ۱۹ اردن لگ گئے، اس کے بعد بمبئی آنے کا موقع نہیں معلوم ہوا، نیز بڑا حمرک آنے کا یہ خیال تھا کہ آپ سے، بھی زیر سے بمبئی میں کسی ادارہ کیلئے بات ہوئی ہوگی، جب معلوم ہو گیا کہ یہ بات نہیں ہے، تو کوئی خاص محرك نہیں رہا، اپنے قرب و جوار میں اب بھی میرا خیال یہی ہے کہ جیسا

ادارہ آپ چاہتے ہیں، قائم ہونا مشکل ہے، اسی طرف (بمبئی میں) ایسے ادارے قائم ہو سکتے ہیں اور چل سکتے ہیں، اس طرف بخل، حسد اور بے ذوقی نے راستے بند کر کر کے ہیں لیکن ادھر جو خرابیاں ہیں ان کا انکار بھی ممکن نہیں، آپ دور رہتے ہیں اس لئے قرب مطلوب ہے، مگر مستقل قرب حاصل ہو جائے تو یقین ہے کہ یہاں کے حالات چند ہی دنوں میں بعد کو مرغوب و مطلوب بنادیں گے۔

میں آج کل کھانی سے بہت پریشان ہوں، آج خصوصیت سے بہت مضھل ہوں، بہت جر کر کے یہ خط لکھ رہا ہوں، میری صحت اتنی کمزور ہے کہ ہمس نہیں پڑتی، اگرچہ شوق بے نہایت ہے۔” ۱۹۶۰ء / اکتوبر ۱۹۶۱ء

ایک خط میں، جواں تو میرا کلکھا ہوا ہے، چند کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اس سے مکتوب نگار اور مکتب الیہ دونوں کے ذوق و مناسبت کا پتہ چلتا ہے، لکھتے ہیں:

”الحمد لله خیریت ہے، ادھر میرا ایک نواسہ سخت بیمار ہو گیا تھا، اس سلسلہ

میں بہت پریشان تھا، الحمد للہ اب وہ اچھا ہے، **العبر** جب واپس آجائے، عبارت نقل کر کے بھیجی گا، (۱) اب اعظم گذھ کیا لکھوں، مجمع البحرين جہاں تک یاد ہے محمد بن علی الطریحی (کثر شیعہ اثناء عشری) کی تصنیف ہے، ایران میں چھپی ہے، لکھنؤ میں غالباً میں نے اسے دیکھا تھا، الفاظ آیات و احادیث کی تفسیر تمام تک اہل سنت سے ماخوذ ہے۔

آپ نے جو عبارت لکھی ہے اس میں حلق کا فاعل متعین طور پر معلوم نہیں، اغلب یہ ہے کہ وہ حدیث مرفوع (فعلی) نہیں ہے، کسی صحابی یا تابعی کا واقعہ ہوگا۔ خیال میں رکھوں گا، کہیں کوئی بات نظر آئی تو لکھوں گا، فضائل

(۱) **العبر للذهبي** میں جگ صحن کے ذکر میں بدیری صحابی کی شرکت کا ذکر ہے، غالباً اس کی تعداد بتائی ہے، اسی عبارت کی نقل حضرت مولانا نے طلب کی تھی۔

اعمال انہوں نے مجھے دکھائی تھی..... اس کا ترجمہ بڑے کام کا ہوگا۔
حیدر آباد سے مولانا سید فضل اللہ نے سلام لکھنے کو لکھا ہے، وہ اپنی کتاب کا غلط نامہ چھپوار ہے ہیں، مجھ کو بار بار لکھا کہ کوئی خامی ہوتا لکھنے، آج ان کو چند باتوں کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔

آج سنن سعید بن منصور کی تیری جلد کے تین ورق کا عکس ایک صاحب نے بھیج کر دریافت کیا ہے کہ یہ کوئی کتاب ہے، افسوس ہے کہ بس اتنی ہی مل سکی، یعنی فقط ایک جلد، باقی جلد وہ کا انہی پتہ نہیں چل سکا۔
ایک خط میں مولانا لکھتے ہیں کہ:

”خط ملا، سب حالات معلوم ہوئے، خوشی ہوئی شیخ عبدالعزیز بن باز کا جواب آگیا، لکھتے ہیں کہ ۸۱ھ کے لئے داخلہ کی مدت ختم ہو گئی، لیکن خالد کمال (۲) ۸۲ھ کے داخلہ کیلئے اپنی درخواست مع شرائط قبول و موہلات سعودی سفیر کے پاس بھیج دیں، اسلئے آپ دوسری درخواست ۸۲ھ کیلئے مسجد تھے، اس کے بعد میں دوسر اخطابن باز کو لکھوں گا۔

مارچ ۱۹۸۱ء کے خط میں محدث کبیر لکھتے ہیں:

”ایک صاحب تاریخ گجرات خوب مفصل لکھوانا چاہتے ہیں، صوبہ کی تاریخ کے ساتھ تاریخی مقامات اور نامور گجراتیوں کا تذکرہ لکھوانا چاہتے ہیں، مواد فراہم کرنے کی ذمہ داری ان کی ہو گئی، میری نگاہ آپ پر پڑتی ہے، اگر آپ کی رضامندی معلوم ہو تو میں ان سے معاملہ طے کروں،

میں نے سنایا ہے کہ آپ مبارک پور جلد ہی آنے والے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ خطوط کے ان اقتباسات سے باہمی مناسبت اور بے تکلفی اور مخلصانہ تعلقات کی لاطافت کا احساس بخوبی ہوتا ہے۔

(۲) قاضی صاحب کے بڑے صاحبزادے مولانا خالد کمال صاحب، جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے ہندوستان سے ابتدأ گئے تھے۔

حضرت مولانا ابوالوفاء افغانی علیہ الرحمۃ:

حضرت مولانا ابوالوفاء افغانی علیہ الرحمۃ کا شماراس دور کے محقق اور جید علماء میں تھا، اصلًا افغانی تھے، مدرسہ نظامیہ حیدر آباد سے فارغ ہوئے، اور پھر وہیں کے ہو رہے، لجنة احیاء المعارف النعمانیہ کے نام سے فقہ حنفی کی امہات الکتب کی اشاعت کے لئے ایک ادارہ قائم کیا، جس سے امام ابوحنیفہ، امام ابویوسف اور امام محمد علیہم الرحمۃ کی کتابیں شائع ہوئیں، علم و فضل میں مولانا ابوالوفاء افغانی کا پایہ بہت بلند تھا، ادب و تاریخ اور فقہ و حدیث میں سند کا درجہ رکھتے تھے، بالخصوص فقہ حنفی کے ساتھ ان کا شغف مثالی تھا، علم کیلئے انہوں نے دنیا کو تن تھا، متعدد بیش قیمت کتابیں ان کی تعلیق و تحقیق سے شائع ہوئیں، جن میں سے اکثر فقہ حنفی سے متعلق نوادرات کی تعلیق و تحقیق رکھتی ہیں، مولانا کے ساتھ قاضی صاحب کے نہایت گھرے اور ملخصانہ روابط و تعلقات تھے۔

مولانا ابوالوفاء صاحب افغانی کا ایک گرامی نامہ قاضی صاحب کے نام ملاحظہ ہو۔ تبرکات من عن نقل کرتا ہوں۔

از:- جلال کوچہ ۳۶۵- حیدر آباد کن، یوم شنبہ ۲۰ رب جب ۱۳۹۲ھ
عزیزم قاضی جی! رفعۃ اللہ الی الدرجۃ العلیا واطال عمرہ مع

السلامة

السلام علیکم ورحمة اللہ

کل آپ کا ہدیہ عالیہ موصول ہو کر موجب سرست ہوا، بارک اللہ فی قلمک و شکرک مساعیک۔ آپ نے ماشاء اللہ قوم کی ایسی خدمت کی، جس کو اب تک کسی نے نہیں کیا تھا اور ایسے مضائق سے جواہر پارے نکالے کہ جن کی روشنی سے عالم منور ہوا، یہ خدمت آپ کے مقصوم میں تھی۔
ایں سعادت بزور بازو نیست تانہ خشید خداۓ بخشندہ

پھر اس پر اللہ جل شانہ نے آپ کو ادب سے نواز ہے، کہ کسی کا نام بغیر احترام کے نہیں لیا، جزاک اللہ خیراً

حضرت مولانا محمد فخر الدین صاحب علیہ الرحمۃ:

حضرت مولانا محمد فخر الدین صاحب علیہ الرحمۃ مراد آباد کے رہنے والے تھے، عرصہ دراز تک مدرسہ شاہی مراد آباد میں شیخ الحدیث رہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدینی نور اللہ مرقدہ نے اخیر عمر میں دارالعلوم دیوبند بلا یا تھا۔ حضرت شیخ کے انتقال کے بعد دارالعلوم میں کامیاب شیخ الحدیث رہے، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحبؒ اور علامہ انور شاہ کشمیریؒ کے تلامذہ میں تھے، قاضی صاحب نے بخاری شریف اٹھیں سے پڑھی تھی۔ قاضی صاحب ان کا بہت احترام کرتے تھے، اور شیخ کو بھی ان سے بہت تعلق تھا۔ ایک مکتوب ان کا ملاحظہ ہو:

”میرا جی چاہتا ہے کہ میں مدینہ منورہ جا کر زیارت رسول ﷺ سے مشرف ہو کر خالد کمال سے بھی ملاقات کروں، سنائے کہ وہ مدینہ یونیورسٹی میں ہیں، میری حج کی درخواست نامنظور ہو گئی ہے، قد وائی صاحب سے کہلوایا ہے، امید ہے کہ منظور ہو جائے گی، آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس بارے میں سعی فرمائیں۔ شعبان ۱۳۸۵ھ“

حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب علیہ الرحمۃ:

حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب علیہ الرحمۃ قاضی صاحب کے خاص اساتذہ میں ہیں، جنہوں نے لکھنے پڑھنے کے معاملہ میں قاضی صاحب کی بہت کچھ رہنمائی اور حوصلہ افزائی فرمائی ہے، مدرسہ شاہی مراد آباد میں استاذ تھے، اور ایک رسالہ وہیں سے بنام ”قادم“ نکالا کرتے تھے، اس میں قاضی صاحب کے مضامین شائع فرماتے تھے، قاضی صاحب نے ان سے اخیر تک طالب علمانہ تعلق برقرار رکھا۔ قاضی صاحب نے جب بھبھی چھوڑنے کا ارادہ کیا، تو مولانا محمد میاں صاحب کو اس کی اطلاع

دی۔ اس پر مولانا لکھتے ہیں:

نامہ عزیز باعثِ مسرت ہوا..... اچھا آپ کا دل بمبئی سے گھبرا گیا، اب کیا
ارادہ ہے؟ وطن میں دل لگتا ہے، تو کیا پارچہ بانی کا کارکانہ قائم کریں گے،
یامدرسہ احیاء العلوم میں تعلیمی اور تدریسی خدمت انجام دیں گے؟ اگر ایسا ہے تو
بمبئی سے دل گھبرا جانا مبارک ہو، مگر شاید یہ بھی نہ ہو سکے، تو پھر کیا؟

احقر کے ذہن میں آپ کے مناسب چند کام ہیں،

(۱) انسائیکلو پیڈیا آف انڈیا، بہت بڑا کام ہے، اگر وسائل مہیا ہوں تو حکومت
سے اس میں امداد بھی مل سکتی ہے۔

(۲) اگر یہ نہ ہو تو دوسرا کام ہے، تاریخ مذاہب ہند، یہ پہلے کے مقابلے میں
آسان ہے،

(۳) تیسرا کام جوان دونوں کے مقابلے میں آسان ہے، تاریخ علماء و مشائخ
ہند،

تینوں کاموں کیلئے جاں فشانی اور ہمت مردانہ کی ضرورت ہے

حضرت مولانا محمد يوسف صاحب بنوری:

امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری کے ممتاز شاگرد اور ان کے علوم کے شارح تھے،
علم حدیث میں خصوصی کمال انھیں حاصل تھا، عربی زبان و ادب پر بڑی قدرت رکھتے
تھے۔

۷۴۳ھ میں ان کا وصال ہوا، معارف السنن کے نام سے ترمذی شریف کی
بہترین شرح لکھی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت مولانا حبیب الرحمن الاعظی الحدیث
نے لکھا تھا:

اس دور قحط الرجال میں مولانا کا فقدان اتنا بڑا خسارہ ہے کہ اس کی تلافي کی
کوئی صورت نظر نہیں آتی، ایسا کامل مذوق میں پیدا ہوتا ہے۔

مولانا محمد یوسف بنوری[ؒ]، قاضی صاحب کے ایک خط کے جواب میں تحریر
فرماتے ہیں:

تقریباً ایک ماہ کے بعد نامہ گرامی کا جواب دے رہا ہوں، اس اضطراری
تا خیر کے لئے معافی چاہتا ہوں، رجال السنداں والہند کا شکریہ، ماشاء اللہ خوب
زیور طبع سے آرستہ ہوئی، جزاً کم اللہ خیر اُ۔ رجال السنداں والہند کے سلسلے میں
ایک بہت بڑے محقق، جو امام صاغانی کے معاصر ہیں، گزرے ہیں، مسعود بن
حسین بن شیبہ ہندی صاحب کتاب التعلیم، جنہوں نے امام ابوحنیفہ کی حمایت
میں، امام الحرمین وغزالی کی سخت ترددی کی ہے، غالباً اسکو میں نے دیکھا ہوگا،
اس وقت مزید کچھ یاد نہیں، تقریباً عند الفرصة لکھ کر ارسال خدمت کر دوں گا
ان شاء اللہ۔

ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں:

نامہ گرامی نے ممنون فرمایا، کل ان شاء اللہ معارف السنن خالد صاحب
کے یہاں پہنچا دی جائے گی، سنن سعید بن منصور کا کام مکمل ہو گیا، الحمد للہ،
خوشخبری آپ سے سنی۔

جو اہر الاصول للتقى الفاسى المکى کا مجھے بالکل علم نہیں، دیکھے
لیجئے کہ اگر فوائد ہوں تو اس پر کام کیجئے، بہر حال یہ فن تواب بہت عین ہو گیا،
اچھا ذخیرہ مطبوعات میں آگیا ہے۔

آپ کے صاحبزادے سے مل کر بہت خوشی ہوئی، ماشاء اللہ ذکری اور با وقار
ہیں، اللہ تعالیٰ جید عالم بنائے۔

حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی:

دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی مفتی، ولی صفت، پاک فطرت حضرت مولانا مفتی
عزیز الرحمن صاحب قدس سرہ کے صاحبزادے تھے، دین و سیاست دونوں میدانوں

میں صاف اول کے لوگوں میں رہے، بڑے مدبر صاحب فراست اور صاحب علم تھے، قاضی صاحب سے خصوصی تعلق تھا، قاضی صاحب کی اردو کی تمام اہم کتابیں انہوں نے اپنے قائم کردہ ادارہ ندوۃ امصنفین سے شائع کیں، اور ہر کتاب میں پیش نظر کے طور پر باہترین تعارف لکھا۔ ایک خط میں قاضی صاحب کو لکھتے ہیں:

مکرمت نامہ ملا، مضمون گرامی پہنچ گیا تھا، یہاں یہی خیال رہا کہ رسید روانہ کر دی گئی ہے، بہر حال معذرت خواہ ہوں، ان شاء اللہ جنوری کے برہان میں مضمون شائع ہوگا، آپ کا مضمون برہان کے معیار پر پورا نہ اترے یہ کیسے ہو سکتا ہے، جماعت میں آپ کا وجود قسمتی ہے، علماء کی شان کے بہت سے جو ہر آپ کی ذات میں پہنچاں ہیں۔ ۱۹۶۰ء راکتوبر

حضرت مولانا فضل اللہ صاحب:

بہار کے مشہور بزرگ حضرت مولانا محمد علی مونگیری یکے از بانیان ندوۃ العلماء لکھنؤ کے پوتے ہیں، بڑے بزرگ صاحب علم اور نیک نفس تھے، امام بخاری کی تصنیف الادب المفرد کی شرح فضل اللہ الصمد کے نام سے لکھی، اس پر قاضی صاحب نے البلاغ میں تبصرہ کیا، تو انہوں نے خط لکھا:

آپ کا مرسلہ البلاغ بڑھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزاۓ خیر دے، آپ یقین مانع کر آپ نے تبصرہ لکھنے میں دریکی، اس کا ذرا مالا نہیں، انسان شے کی خوبی کو دیکھتا ہے، نہ یہ کی وہ چیز جلد حاصل ہوئی یاد دیرے سے۔ حافظ مجتبی اللہ نے ایک سال سے زیادہ، ہی دریگائی، بڑے اچھے الفاظ میرے متعلق اور کتاب کے متعلق لکھے، مگر پھر بھی کتاب کا حق ادا نہیں کیا، ”زندگی“ نے بڑی ہوشیاری برتنی، کتاب کے شروع میں جو تعارف کتاب کا ہے، اسکو مختصر کر کے تبصرہ کا نام دے دیا۔

مولانا عبدالماجد دریابادی بڑے لوگوں میں ہیں، مجھ فقیر کو ان کی بارگاہ

میں بارکہاں مل سکتا تھا، آپ نے تمام ہندوستانی جریدوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر دیا ہے۔ ۲۰ اپریل ۱۹۶۳ء۔

حضرت مولانا عبدالباطن صاحب جو پیوری:

حضرت مولانا عبدالباطن صاحب جوں پوری ان خاصان خدا میں تھے، جنہیں دیکھ کر خدا کی یادوں میں تازہ ہو جاتی ہے، جن کی مجلس میں پیٹھ کر مجلس نبوت کی خنک حاصل ہوتی ہے، جو پیور کے مشہور صاحب کرامت بزرگ، مصلح بنگال حضرت مولانا کرامت علی جوں پوری کے پوتے، حضرت مولانا عبدالاول صاحب جو پیوری کے فرزند گرامی ہیں، ایک بار ان کی خدمت میں اس خاکسار کی حاضری ہوئی ہے، طالب علمی کا دور تھا، نوجوانی کا زمانہ تھا، مگر انہوں نے ایسی خاطر مدارات کی، اور اتنی تواضع و فروتنی کا معاملہ فرمایا کہ حیرت ہو گئی، چہرہ انتاروشن اور نورانی تھا کہ اب تک اس کی تابانی آنکھوں میں محفوظ ہے۔ بلکہ دلیش بننے کے بعد وہاں تشریف لے گئے اور وہیں انتقال ہو گیا، اتنا بڑا جنازہ اب تک دیکھنے اور سننے میں نہیں آیا۔ اخبارات کی خبر تھی کہ چوبیں لاکھ سے زائد مجمع نے ان کی نماز جنازہ ادا کی تھی، ان کے چھوٹے چھوٹے متعدد رسائل ہیں جو بہت موثر اور دلاؤزیز ہیں۔ ایک مکتوب اس بزرگ ہستی کا بھی قاضی صاحب کے ذریعے میں ملا، برکت کے واسطے اسے نقل کرتا ہوں:

البلاغ کے پرچے آجاتے ہیں، اور آپ سے غائبانہ علمی ملاقات ہو جاتی ہے، مارچ کے البلاغ کے شذرات میں جو مضمون دوسرا سے صفحہ پر ارقام فرمایا ہے، جس میں ہندوپاک کے اہل علم کی کس مپرسی کارونارویا گیا ہے، وہ ہو بہو میرے حسب حال ہے، کتاب ”واقعات النبی“، مکمل ہو کر مسودہ صاف ہو کر رکھا ہوا ہے، لیکن طباعت و اشاعت کی نوبت نہیں آئی، اس کی طباعت کے لئے چند مشہور اداروں اور مستند ہستیوں کو خط لکھا اور متوجہ کیا، افسوس کہ کہیں سے اطمینان بخش جواب نہیں آیا، بعض حضرات نے تو جوابی خط کا جواب تک

نہ دیا، واقعات النبی، میری جملہ تالیفات میں محبوب ترین کتاب ہے، آنحضرت ﷺ کے دوسو منصب واقعات جو کہ سبق آموز دلچسپ اور لائق مطالعہ ہیں، دل کی خواہش ہے کہ کیسے امت مسلمہ کے سامنے پیش کردے جائیں۔ تعلیقات میں کشکول کے حصہ سے بھی انتخاب فرماسکتے ہیں، اگر میری دی ہوئی کتابیں ساتھ ہوں تو ان پر تبصرہ بھی فرمادیجھے۔ آپ نے اپنی قیمتی تالیفات مجھے دے کر جو عزت و محبت فرمائی اس کا دل سے شکریہ، یقین استاذ مرحوم کی روح اس تعلق سے خوش ہوئی ہوگی،

ڈاکٹر حمید اللہ صاحب مرحوم:

فرانس کے مشہور شہر پیرس میں رہ کر اسلامی علوم و فنون کے بلند پایہ مخلص خدمت گزار، مشہور حیدر آبادی عالم و محقق جناب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو کون نہیں جانتا، دنیا نے اسلام کی یہ عجیب و غریب مایہ ناز ہستی ایک عرصہ تک یورپ کے کفرستان میں اسلام و ایمان کی روشنی بکھیرتی رہی، ان کا بھی ایک خط قاضی صاحب کے نام ملاحظہ فرمائیے:

آج نوازش نامہ ملا، سرفراز ہوا..... آپ کی فاضلانہ کتاب کا ذکر سن چکا ہوں خاص کر بمبئی کے پروفیسر عبد الرحمن مؤمن صاحب سے، لیکن ادھر کی ڈاک اب انگریزوں کے زمانے کی طرح نہیں ہے، مشیۃ اللہ غالبة، کتاب آپ کی اور تالیفوں کی طرح نفس اور مفید ہی ہوگی، اور اس کی قطعات ہتھ ج نہیں کرایک ناچیز اس کا تعارف کرائے

عطر آنست کہ خود بپیدنہ کہ عطار بگوید ۲۶ رذی الحجه ۱۴۰۱ھ
شبلی اکاڈمی دار المصنفین اعظم گذھ کے سابق ناظم مشہور اہل علم و اہل قلم مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی قاضی صاحب کو لکھتے ہیں کہ:
آپ کے مضامین محفوظ ہیں ان شاء اللہ جنوری یا فروری سے چھپیں گے، بمبئی

کے ماحول وہاں کی زندگی اور معاشری جدوجہد میں علمی ذوق کا قائم رکھنا آپ ہی کا کام ہے۔
علی گذھ مسلم یونیورسٹی کے سنسنی شعبہ دینیات کے ناظم مولانا تقی امینی مرحوم نے ایک خط میں لکھا:
اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، آپ کے حال پر، جو اس قسم کے علمی کام (آپ سے) لے رہا ہے، بمبئی میں رہ کر یہ کام کرتے رہنا محض آپ کی کرامت ہے۔ ۲۵ رجب ۱۹۷۳ء
حافظ غلام رضا پروفیسر الہ آباد یونیورسٹی ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:

کل لاہوری میں ”صدق جدید“ نظر آیا، اس میں ”حکومت کویت کی جانب سے ایک ہندوستانی عالم کو اعزاز“ کے عنوان کے تحت یہ خبر پڑھ کر بے حد مسرت ہوئی کہ حکومت کویت نے آپ کو اپنے یہاں کے نشریاتی شعبہ کا معتمدار مشیر قرار دیا ہے، میں اس موقع پر آپ کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ ایک سادہ لیکن مصروف زندگی گزارتے ہوئے جو نمایاں علمی خدمات انجام دے رہے ہیں، اس کے پیش نظر آپ واقعی اس اعزاز کے بجا طور پر مستحق ہیں۔ میں نے آپ کی قابل قدر تصنیف رجال السنداں والہند کو بغداد میں جن جن اساتذہ کی خدمت میں پیش کیا، انھوں نے اس کی بے حد تعریف کی، اور جب اس کا ایک نسخہ المحتف العراقي کی لاہوری میں رکھوانے کے لئے لے گیا، تو اس کے ناظم جناب کو کیس عواد نے فرمایا کہ مجھے یہ بخوبی تھی کہ آج بھی ہندوستان میں عربی کے ایسے جلیل القدر علماء موجود ہیں۔ ۳۱ مارچ ۱۹۶۳ء

حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ بھی قاضی صاحب کے بڑے قدر داں تھے، اس سلسلے میں ان کا ایک مکتوب گرامی پڑھئے:

”افسوس ہے کہ ۸/۸ جوں کو جب میں بمبئی واپس ہوا تو آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، صرف چند گھنٹے قیام رہا، ایک خاندانی حادثہ کی اطلاع پا کر بے عجلت وہاں سے روانہ ہو گیا، محمد بھائی کے یہاں آپ کا لفافہ ملا، جس میں انقلاب کے دو تین تراشے تھے، پڑھ کر بہت خوشی ہوئی، پہلی مرتبہ آپ کے قلم سے الہند فی العہد الاسلامی کا ایک کثیر الاشاعت اخبار میں نام آیا، اور اس کا مختصر لیکن وقیع تعارف ہو گیا، اس کا ایک فوری فائدہ تو یہ ہوا کہ لکھنؤ کے قومی آواز میں ادارتی صفحہ پر ایک اچھا نوٹ، اس کتاب کی اشاعت کے متعلق دیا گیا، جو اول سے آخر تک آپ ہی کے مضمون پر مبنی اور اس سے ماخوذ تھا، اگرچہ ظاہر یہ ہوتا تھا کہ ان کو براہ راست اس کتاب کی طباعت کی اطلاع ملی ہے، اور وہ اس کو ایک علمی خبر کے طور پر شائع کر رہے ہیں۔ اس سے بھی بہت سے اہل علم اور اہل ذوق کو کتاب کے مکمل ہونے کی خبر مل گئی، یہ کتاب کا پہلا مطبوعہ نسخہ تھا، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، میری اس وقت بھی نیت ہدیہ کی تھی، معلوم نہیں آپ کو کیوں تردد رہا؟

ابھی تک میرے پاس اس کا کوئی دوسرا نسخہ نہیں پہنچا.....

مجھے تو پہلے خیال نہ تھا اور نہ کتاب پیش کرتے وقت یہ نیت تھی کہ آپ سے اس کتاب پر کچھ لکھنے کی فرمائش کروں، لیکن آپ کے اس مختصر مضمون کو پڑھ کر دل میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ آپ سے اس کتاب پر ایک مفصل مضمون اور تبصرہ کی درخواست کروں، جس کو آپ اشاعت کے لئے معارف میں بھیجیں، ہندوستان میں اس کتاب پر تبصرہ کرنے کا جن چند گنی چنی ہستیوں کو حق ہے، ان میں آپ ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں، اس لئے کہ آپ کی ہندوستان کے اسلامی عہد کی تاریخ پر گہری نظر بھی ہے، اور آپ کا یہ موضوع بھی ہے، آپ مصنف کی کاوش و محنت کا پورا اندازہ کر سکتے ہیں، پھر آپ کا قلب اور قلم گروہی

عصبیوں سے بھی پاک ہے، جو ہمارے اہل علم، اور اہل قلم کا پر انا مرض ہے، اس لئے اگر آپ کی طبیعت پر بارہ ہو، تو آپ پوری کتاب پر نظر ڈال کر ایک علمی مضمون معارف کے لئے پر قلم فرمائیں۔ والسلام

مخلص ابو الحسن علی

مولانا ابو محفوظ الکریم صاحب موصوی لکھ رہ تاریخ مدرسہ عالیہ مکلتہ..... ان کے متعلق قاضی صاحب فرماتے تھے کہ میری نگاہ میں یہ ہندوستان کے عظیم ترین عربی کے اسکارلوں میں ہیں، اور انہوں نے میری کتاب ”رجال السندا و الہند“ حرف بحرف پڑھی ہے..... ایک خط میں لکھتے ہیں:

محترم المقام مولانا قاضی اطہر مبارک پوری صاحب

حرسہ اللہ و متعنا بطول بقائہ

السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ

مزاج شریف بعافیت تمام باد، امید کہ آپ دیوبند شہار نپور سے بخیریت والپیں پہنچ چکے ہوں گے، آپ کے عائینہ راقم نے مبارک پور کی سیر کی، آپ سے نہ ملنے کا فسوس رہا، لیکن صاحبزادگان مولانا ظفر مسعود اور حسان مسعود حفظہمہ اللہ نے مہمان نوازی کا حق پوری مستعدی و اشراع صدر سے ایسا ادا کیا جس کی توقع بہمنہ میں کی جا سکتی، فخر اہم اللہ حسن الجزا وزادہم خیر اور میرا۔

دارا مصنفین کی دعوت پر اعظم گذھ کا سفر کرنا پڑا۔ ۱۸ اپریل دوشنبہ کو یہاں سے روانہ ہوا، ۱۹ اپریل سہ پہر کے لگ بھگ شاہ کنخ اتراء، اعظم گذھ کی ٹرین جانے ہی والی تھی اس پر بیٹھ کر اعظم گذھ پہنچا، دارا مصنفین پہنچنے پہنچنے ساڑھے چار شام کا وقت ہو چکا تھا، موئرخہ ۲۰ اپریل دارا مصنفین کی نذر ہوا، ۲۱ کو مبارک پور جانا طے کر لیا کہ اب کی دفع آپ کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، علاوہ بریں یہ خیال بھی ہوا کہ زندگی میں تو مولانا عبد اللہ

مبارکپوری سے ملاقات میسر نہ آسکی، کم از کم سنت تعزیت تو مولانا عبدالرحمن صاحب سے مل کر ادا ہو جائیگی، مولانا ضیاء الدین اصلاحی صاحب نے بڑی فراخ دلی اور محبت سے کتب خانہ دارا مصنفین کے جواں سال ملازم مولوی ابو البرکات اصلاحی کو رہنمائی کے لئے ساتھ کر دیا، غرض مبارکپور کی آمد و رفت میں سہولت پیدا ہو گئی اور بڑا آرام رہا، آپ کو پیشگوی اطلاع نہیں دی کہ دراصل یہ سفر تذبذب کے عالم میں کیا گیا، اور خود دارا مصنفین کو اپنے پہوچنے کی خبر صرف ٹیلیگرام کے ذریعہ ہجھی، ٹیلیگرام کی رفتار بھی ایسی ثابت ہوئی کہ اس سے پہلے بندہ خود دارا مصنفین جا پہنچا، اور مبارکپور سے واپسی پر ۲۲ اپریل کی صبح تک شاید ہمارا ٹیلیگرام نہیں پہوچ پایا۔

مبارکپور کی یاداں مشہود ہونے کے بعد تو نقش بر جھر ہے، واپسی میں اعظم گلڈھ پہوچنے کے پہوچنے کچھ اشعار موضوع ہوئے جو گلکتہ پہوچ کر اتمام کو پہوچنے، آپ کو مولانا ظفر مسعود نے کچھ تفصیلات بتائی ہوں گی، ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے اپنی موڑ بائیک پر بیٹھا کر رسول پور کی بھی سیر کرادی، فخر اہل اللہ خیر ا۔

باقی باقتوں کا اندازہ اس شعری دستاویز سے کیجئے جو اپنی ناہلی کی دلیل ہے:

قصة المسير إلى مبارك فور

(في اليوم التاسع من ذى القعدة ۱۴۱۳هـ وفق الحادى والعشرين من شهر ابريل ۱۹۹۵م)

اعظم بیوم سرت من "اعظم کر" امعی أبو البرکات، خریت حری
کانت (مبارک فور) غایة مذهبی حتى انتهیت أيام منزل (أطہر)
ای الشیخ المؤقر مولانا القاضی اطہر حرسہ اللہ و متعنا ببقائه الطویل

فوجدتہ عن دارہ متنائیاً
إذ لم يكن أخبرته بتصدری
ما بین کتب خزانہ والمحبر
هو في (سہارنفور) أو جنباتها
غورا یؤلف درها وعیقه
فی سلک منتظم بھی المنظر
فلقیت حساناً وبعد هنیہ
فلقیت حساناً وبعد هنیہ "ظفر"
حسان بن مسعود و ظفر مسعود حرسہما اللہ من أنجال صدیقنا
القاضی الأطہر حفهم اللہ بن عمانیہ
فاستوقفانی دون ما متکلف
واسبشارا بی، دون ای تأخیر
طبعوا على کرم و طيبة عنصر
الله درهمما و درأبیهما
ومضی بنا 'ظفر' إلى دار المحمد
ومضی بنا 'ظفر' إلى دار المحمد دیث، من توفی قبل عدة أشهر
أی الشیخ الكبير مولانا عبد الله المبارکفوری رحمه اللہ
قابلت نجلیہ علی وجہ العزا، وفاح طیب الأصل من فرع طری
أحدھما مولانا عبد الرحمن وهو وأخوه کلاھما من الفضلاء حفظھما
الله
وإذا أبو الحسن الإمام، برهطه وافی هنالک واستحث، بمحضری
أی الشیخ العلامہ الہمام ابوالحسن علی الندوی أبقاء اللہ ورفاقہ
الکرام

فمضوا إلى غایاتهم، ومضیت من
مغنى "المحدث" صوب مغنى "اطہر"
حيث استرحننا من کلال یعتري
فأتی بنا 'ظفر' إلى دھلیزہ
ل اطایب و مطایب المتھیر
وأتی عقیب (الاظہر) غدانہ بکل
هذا، وأردفني على دراجة
فخرجت نحو مقابر معہودہ
ذاقبر مولانا عبد الله، من
آلية قد ساقھا بتھر
وتهمنی منها ثلاثة أقرب
خدم الحديث وعاش غير مقصّر

متورعاً، متواضعاً، متخشعاً
نشر الحديث بفكرة والمزمر
'مرعاته' دلت على إحرازه من سنة الهادي بحظ أوفر
وهناك قبر الشيخ صاحب "تحفة" ضمن شفاء مزورا وممترى
أي الشيخ المحدث مولانا عبد الرحمن المباركفورى رحمه الله
المتوفى في ٦١٣٥ هـ وفق ١٩٣٥ م
'رسول فور' ضريح (أحمد) حائز عربية وطراز شعر البحتري
أي الشیخ الأدیب الكبير مولانا أحمد حسين بن عبد الرحيم رحمه
الله کان من أصدقاء أبي غفر لهما الله وقد رأيته في طفولتي وهو جد
صديقنا 'قاضي أطهر' من جهة أمه المرحومة

زهدًا وعلمًا آخرًا وتورعاً
وجمال معروف ورد المنكر
بطلاقة بدوية وطلاؤة
حضرية، وبهاء جودة عبقر
نا دار هذا المضرحي العقري
و"العصر" صلينا بمسجدها، وزرْ
حوت القبور معالماً علمية
بحبوحة الفردوس يدخلهم وجم
سردي لقصتي العجيبة مني
حياهمو رب الورى بيامهو
ثم انصرفنا شاكرين لجمعهم

ترجمہ

مبارکپور کا سفر

۹ روزی قد ۱۴۱۷ھ مطابق ۲۱ اگسٹ ۱۹۹۲ء
☆ وہ دن کتنا برکت اور عظمت والا تھا، جب میں اعظم گلہ شہر سے روانہ ہوا، اور
میرے ساتھ ایک معتبر رہب مولوی ابوالبرکات صاحب تھے۔

- ☆ قصبه مبارکپور میرے اس سفر کی منزل تھا، میں قاضی اطہر صاحب کے مکان پر پہنچا۔
- ☆ مجھے معلوم ہوا کہ وہ گھر سے باہر دور گئے ہوئے ہیں، پہلے سے میں نے انھیں آنے کی اطلاع نہ دی تھی۔
- ☆ وہ سہارنپور میں یا اسی علاقہ میں کہیں قرطاس قلم کے درمیان ہیں۔
- ☆ جہاں وہ علم و فن کے حسین موتیوں اور جواہر پاروں کو تصنیف و تالیف کی لڑی میں پرو رہے ہیں۔
- ☆ وہاں میری ملاقات پہلے حسان سے ہوئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد مولوی ظفر مسعود سے ہوئی، دونوں بہت ہی خندہ پیشانی سے ملے۔
- (حسان احمد اور مولوی ظفر مسعود، قاضی صاحب کے صاحبزادگان گرامی ہیں)
- ☆ صاحبزادگان محترم نے بے تکلفی اور بثاشت کے ساتھ مجھے اپنے گھر تھرا�ا، انھیں اس سے بڑی مسرت ہوئی۔
- ☆ دونوں کیا خوب فرزند ہیں، اور ان کے والد محترم بھی کیا خوب ہیں، نہایت شریف اور پاک طینت لوگ ہیں۔
- ☆ پھر مولوی ظفر مسعود مجھے ان محدث کے گھر لے گئے، جن کا ابھی چند ماہ پہلے انتقال ہوا ہے۔
- (یعنی شیخ کبیر مولانا عبد اللہ رحمانی مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ)
- ☆ میں ان کے دو صاحبزادوں سے بطور تعزیت کے ملا، اس تازہ شاخ سے اصل کی خوشبو محسوس ہوئی۔
- (ایک مولانا عبد الرحمن صاحب اور دوسرا ان کے بھائی مولانا عبد العزیز صاحب دونوں عالم و فاضل ہیں)

☆ وہاں اتفاقاً مولانا سید ابو الحسن علی ندوی بھی موجود تھے، میری حاضری سے وہ خوش ہوئے۔

☆ پھر سب لوگ اپنی اپنی منزل کی طرف چلے گئے، اور میں بھی وہاں سے قاضی اطہر صاحب کے گھر آگیا۔

☆ ظفر مسعود اپنے گھر لے آئے اور ان کی بیٹھک میں ہم نے آرام کیا۔

☆ ظہر کی نماز کے بعد انہوں نے کھانا کھلایا، عمدہ اور لذیذ کھانا۔

☆ پھر انہوں نے اپنی موڑ سائکل پر مجھے بیٹھایا، اور بڑی مہارت سے چلا کر لے گئے۔

☆ یہ مولانا عبد اللہ صاحب کی قبر ہے، جنہوں نے حدیث کی بڑی خدمت کی ہے، اور اچھی خاصی با برکت زندگی گزاری ہے۔

☆ صاحب ورع تھے، متواضع اور خاشع و خاضع تھے، انہوں نے حدیث کی نشر و اشاعت اپنی فکر و ذہانت سے بھی کی اور تحریر و کتابت سے بھی۔

☆ ان کی کتاب مرعاۃ المفاتیح، اس بات کی دلیل ہے کہ ہادی اکرم محتیل اللہ کی سنتوں سے انہوں نے حظ و افری پایا تھا۔

☆ وہیں صاحب تحفۃ الاحوذی کی بھی قبر ہے، تحفۃ الاحوذی جو ہرشک و تزویر کے لئے شفایہ۔

(یعنی شیخ محدث مولانا عبد الرحمن مبارکپوری علیہ الرحمہ متوفی ۱۶ رشوال ۱۹۳۵ء مطابق ۱۴۷۰ھ)

☆ رسول پور میں مولانا احمد حسین صاحب کا مرقد ہے، جو علوم عربیت کے ماہر اور بحتری کے طرز کے شاعر تھے۔

(یعنی شیخ ادیب کبیر مولانا احمد حسین ابن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد محترم کے دوستوں میں سے تھے، میں نے بچپن میں ان کی زیارت کی تھی، وہ ہمارے دوست قاضی

اطہر صاحب کے ناناتھے)

☆ وہ صاحب زہد و ورع تھے، علم کے بحاذہ خارج تھے، نیکی و سعادت کے جمال اور برائی کی سرپا ترددید تھے۔

☆ انھیں بدوسی طلاقت، شہری جگہ گاہٹ اور عمدگی کی رونق حاصل تھی۔

☆ ہم نے عصر کی نمازوں ہیں کی مسجد میں پڑھی، اور ان بزرگ کے گھر کی زیارت کی۔

☆ یہ قبریں ایسے علمی و عملی کمالات کو سمیٹنے ہوئے ہیں جن کے بیان سے زبانیں قاصر ہیں۔

☆ اللہ تعالیٰ ان پر بھی اور ہم پر بھی رحم فرمائے اور اپنے فضل عظیم سے سب کی مغفرت فرمائیں۔

☆ انھیں اور تمام مسلمانوں کو اپنے دین یسیر کے طفیل باغ فردوس میں جگہ عطا فرمائیں۔

☆ میرے اس بیان واقعہ سے قاضی اطہر صاحب کے خاندان کے امتیازات نمایاں ہیں۔

☆ رب کائنات انھیں انہٹائی خوشحالی اور پھلتی پھلوتی زندگانی عطا فرمائے۔

☆ پھر ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جہاں سے چلے تھے وہیں یعنی اعظم گذر ہشہ روٹ آئے۔

میری یادوں گوئی سے درگذر فرمائیے اور دعا فرمائیے کہ بقیہ زندگی لاف زنی کے بجائے فکر آخترت میں گذرے۔ ابھی ایک بڑے سانحہ سے یوں دوچار ہوا کہ میری بیوی ۱۴ ربیع الاول (۱۹۹۲ء) یعنی ۲۲ رمضان ۱۴۲۱ھ کو صبح ۹ ربیع انتقال کر گئی، اللہ و انا الیہ راجعون

وہم رفروری کو اچانک بیہوش ہو گئی، آج کل کی زبان میں جس کو ”کوما“ میں چلا جانا کہتے ہیں، فوراً اسپتال میں داخل کیا اور انہٹائی احتیاطی وارڈ T.A. میں رکھ کر

تدبیریں کی گئیں جو لاحصل رہیں اور مشیدت ایزدی کے آگے سرخ کرنا، ہی پڑا، محمد اللہ علّاج کی دوا دوش بھی دا ووا عباد اللہ "الحدیث" کے تحت شروع کی تھی اور نتیجہ جو نکلا اس پر بھی انسالہ و انسالیہ راجعون ہی موجب سکون و خل ہے۔ آپ بھی رحمت و مغفرت کی دعا فردیں۔ عزیزان کو میں نے دانستہ اس کی اطلاع غمین دی تھی اب جو آپ دعا فرمائیں گے تو وہ بھی آمین کہنے میں شریک ہو جائیں گے، جملہ عزیزان و متعلقین کو علیٰ قادر مراتب سلام و دعا، اور مولانا ظفر مسعود اور حسان مسعود صاحبان کو خصوصی سلام و شکریہ۔

اپنی اور عزیزان کی خیریت و عافیت سے حسب موقع مطلع فرمائیں

والسلام

ابو حفص عاصمی

جمعہ ۱۷ ذوالقعدہ ۱۴۲۳ھ۔ ۲۹ اپریل ۱۹۹۲ء

700014-33-سی، ہرے کرشنا کونا ناروڈ کلکتہ۔

جناب اصغر مجاهد صاحب سکریٹری تنظیم فکر و نظر، سندھ، پاکستان لکھتے ہیں:

محترم حضرت مولانا قاضی اطہر مبارکپوری صاحب
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ
امید ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر طرح بعافیت ہوں
گے۔

حضرت قاضی صاحب! بر صغیر پاک و ہند کے سب اہل علم، اہل فکر و نظر،
مورخ، محقق، آپ کے شکر گذار ہیں کہ آپ نے "مسلمانوں کی عظمت رفتہ"
کو جس طریقے سے اجاگر کیا ہے کہ مسلمانوں کا تابناک و شاندار ماضی، چاند
وسورج سے بھی زیادہ روشن نظر آ رہا ہے، دنیا کے چاند و سورج تو ابھرتے

وڈوبتے ہیں گے، مگر آپ کاروشن کیا ہوا محققاً نہ سورج رہتی دنیا تک یونہی چمکتا دمکتا رہے گا، خشک و سوکھے ہوئے ذہنوں کو آب حیات کی طرح سیراب کرتا رہے گا۔ یہ علم و ادب کی ایسی روشنی ہے جو بھی بھی مانندیں ہوتی، آپ کا تاریخ انسانیت پر عموماً اور تاریخ اسلام پر خصوصاً بڑا احسان اور قرض ہے، جو اتارے نہیں اترتا۔ یہ قرض اس طرح اتر سکتا ہے کہ آپ کی سب کتب کا دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ کرا کے شائع کیا جائے، تاکہ مسلمانوں کی تاریخ عزیمت سے مسلم تو کیا غیر مسلم بھی باخبر ہو جائیں، بلا مبالغہ آپ تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلام کے محسن ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین!

آپ کی دو کتابیں سندھی میں ترجمہ ہو کر شائع ہو گئی، جو انشاء اللہ عنقریب آپ کی خدمت میں ارسال کی جائیں گی۔

پاکستان کے معروف اہل قلم و مصنف اور صحابہ کرام ﷺ کے ذکر و فکر کے داعی حضرت علامہ طالب ہاشمی صاحب کو صدر تنظیم جناب پروفیسر اسد اللہ بھٹو صاحب نے ان کی علمی و دینی خدمات کے پیش نظر آپ کی کتابوں کا سیٹ تھافتا دیا، جنھیں پڑھ کر موصوف نے جناب بھٹو صاحب کے نام شکریہ کا خط لکھا ہے، اور فرمایا ہے کہ "مجھے قاضی صاحب کی کتابوں سے اپنی زیر تالیف کتب کی تکمیل کیلئے بہت بڑا مواد ملا ہے، (ہاشمی صاحب کے خط کی نقل پیش خدمت ہے)"

علامہ ہاشمی صاحب نے آپ کی کتاب "اسلامی ہند کی عظمت رفتہ" کے حصول کیلئے اشد ضرورت کا اظہار فرمایا ہے، اس خط کی روشنی میں ہم آپ کی خدمت عالیہ میں ادب و احترام سے عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنی بلند پایہ کتاب "اسلامی ہند کی عظمت رفتہ" کی کچھ کا پیاں ارسال فرمائیں، ہم آپ کے منون و مشکور ہوں گے۔

آن جناب سے استدعااء ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ساتھ ہی میرا پر خلوص سلام میرے پیارے بھائی اور دوست جناب حسان احمد صاحب تک پھونچائیں، اللہ کرے آپ ہمیشہ خیر و عافیت سے ہوں۔ والسلام

آپ کا مخلص، احقر اصغر مجاهد

جوائنٹ سکریٹری تنظیم فکر و نظر سندھ (پاکستان)

محترم جناب طالب ہاشمی صاحب کے خط کا اقتباس پیش خدمت ہے:

جناب مخدوم و معظم مجاهد اسلام پروفیسر صاحب! زید محمد کم

السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ

لا ہو رہیں آپ کی صحبت میں جو لمحات میسر آئے وہ ہمیشہ یاد رہیں گے۔

آپ نے مولانا قاضی اطہر صاحب مبارکبوری کی تالیفات کی صورت میں جن گرانقدر ہدیوں سے نوازا، ان کیلئے صمیم قلب سے سپاس گزار ہوں۔

میرا احساس تشكرا اور بھی بڑھ گیا جب ان بلند پایہ کتابوں کو اپنی زیر تالیف کتابوں کی تکمیل کیلئے نہایت کارامہ پایا، بخدا آپ کیلئے دل سے دعا میں نکلیں۔ یہ کتابیں اور دوسرا طریق پڑھ کر معلوم ہوا کہ آپ جو ہم تم بالشان ملی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی مثال نہیں ملتی۔

علاوه ازیں مجھے قاضی اطہر مبارکبوری صاحب کی کتاب ”اسلامی ہند کی عظمت رفتہ“ کی اشد ضرورت ہے، اگر یہ کتاب یا اس کی فوٹو اسٹیٹ مہیا فرمائیں تو آپ کا احسان ہوگا، اس پر جو خرچ بھی آئے اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہوگی۔

ہماری دلی دعا میں آپ کے ساتھ ہیں، امید کہ آپ مع الخیر ہوں گے۔

والسلام مع الکرام

دعا گو، طالب ہاشمی غفرلہ

مولانا القمان سلفی صاحب ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

دارالافتاء۔ الریاض ذوالجُدُّ والکرم حضرت قاضی صاحب، مدظلہ
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ
۵ جون ۱۹۶۸ء

امید کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے، میں بھی آپ کی دعاؤں سے بخیر ہوں۔
کل ”المنهل“ میں آپ کا خط عبد القدوں انصاری صاحب کے نام پڑھا، بے حد خوشی ہوئی، انھوں نے آپ کو بھی عدد نذکور کا ایک نسخہ بھیجا ہے، امید ہے کہ مل گیا ہوگا۔

آپ کی تحقیقی کتابیں اصحاب علم و دانش کیلئے خزینہ کی حیثیت رکھتی ہیں، امید ہے کہ آپ کی کتاب ”العقد الشمین“، جلد زیور طباعت سے آراستہ ہو کر آجائے گی، میں اپنے کو خوش قسم سمجھوں گا اور میرے احساس کی رفتہ کا باعث ہو گا اگر ایک نسخہ سے مجھے بھی نواز جائے۔

میری تواریخ ہے کہ آپ مملکت سعودیہ کے محلوں اور جرائد میں گاہے گا ہے اپنے مضامین ضرور بھیجتے رہیں، علمی حلقوں میں اچھا اثر پیدا کریں گے، اب آہستہ آہستہ یہ علم کی قدر پہچانے لگے ہیں۔

کل بھائی خالد کمال کا خط آیا تھا، خیریت سے ہیں، اور مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے تعاقد کے بعد فوراً ہی خط کیوں نہ لکھا، میں نے ان کو خط لکھ دیا ہے، اور معدرن تکی ہے، ان کی چھٹی ۸ ربیع الثانی سے شروع ہو گی، انکے کام سے نائب مفتی خوش ہیں، خدا مزید کی توفیق دے،

میں دارالافتاء میں مستقل ہو گیا ہوں، یہ خدا کا کرم ہے، اب کوئی قانونی پریشانی باقی نہیں رہی ہے، امید ہے کہ جواب سے ضرور نوازیں گے، میں

آپ کو اپنا بزرگ اور نہایت مخلص بزرگ مانتا ہوں، آپ کی علمی گیرائی کے ساتھ بے حد سادگی اور تقویٰ مجھے ہمیشہ دعوت فکر و عمل دیتے رہتے ہیں
- جناب قمر صاحب اور دیگر پرسان حال کو سلام کہیں۔

طالب دعا
محمد لقمان سلفی

قاضی صاحب کے نام ایک تعزیتی مکتوب

محترم المقام جناب الحاج مولانا قاضی اطہر صاحب مبارکپوری السلام علیکم

ایک خط روانہ کر دیا ہوں، ملا ہو گا، ابھی مبارکپور سے حاجی ظفر مسعود سلمہ کا خط ملا جس سے معلوم کر کے بیہد افسوس ہوا کہ آپ کے والد محترم کا (۱) انتقال ہو گیا، مرحوم کا ایسے وقت جدا ہو جانا جب کہ آپ نہ صرف وطن بلکہ ملک سے ہزاروں میل دور ہیں۔ ظاہر ہے آپ کے لئے زبردست اور ناقابل برداشت المیہ ہے مگر مرضی مولیٰ کے آگے ہر انسان مجبور ہے۔ آپ اور خالد کمال سلمہ، صبر کیجئے۔ میں بحثیت ایک دیرینہ رفیق اور قریبی دوست اور اگر کہوں تو سب سے زیادہ مخلص ہونے کے ناطے اس حادثہ پر بے خدمت زدہ ہوں آپ سب لوگوں کو صبر جیل کے لئے تلقین کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین منزل عنایت فرمائے، آمین!

ظفر مسعود سلمہ کے خط کا ایک روشن پہلو بڑا ہی خوش کن رہا کہ جب والد مرحوم کی قبر کی کھدائی آپ کی والدہ مرحومہ (۲) (جن کو انتقال فرمائے ہوئے ۲۳۲ سال گزرے ہیں) کے پہلو میں ہو رہی تھیں تو ایک سوراخ نظر آیا، کفن تو کالا ہو چکا تھا مگر پھٹا نہیں تھا، اور والدہ کی نعش مبارک بالکل صحیح و سالم حالت میں پائی گئی، اس سے ان کے عذاب قبر سے محفوظ رہنے اور جنتی ہونے کی دنیا ہی میں سب لوگوں کو بشارت ہو گئی، اور لوگ جو حق اس منظرو کو دیکھنے کے لئے جمع ہونے لگے، اس سے آپ کے گھر والوں نے غم و اندوہ کے ساتھ ساتھ خوشی و سرگفتاری کے آنسو بھی بھائے،

اس لئے آپ کی تربیت دینے والی اس جنتی ماں کے دنیا میں ہی ثبوت پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، جن کے نیک اور.....خون کی آمیزش آپ کے ایک ایک قطرہ خون میں گردش کر رہی ہے، اور جن کی دعاؤں کے طفیل آپ کو تمام ممالک اسلامیہ میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، خدا آپ کی ساری خدمات دینیہ کو قبول فرمائے اور پھر مکر طور پر میری جانب سے میرے ساتھیوں اور رفقاء کا رکی جانب سے آپ کو صبر کی تلقین ہے، کمال حبیب الرحمن، ائمۃ الرحمن، صلاح الدین اور عرفان سلام کہتے ہیں، مولوی خالد کمال کو بھی سب کا سلام قبول ہو،

والسلام

قر (مولانا عبد الرحمن صاحب قمر) مبارکپوری
بھائی۔ ۳ مارچ ۱۹۷۵ء

- (۱) میاں جی محمد حسن، متوفی ۲۸ فروری ۱۹۷۸ء
(۲) حمیدہ بنت حضرت مولانا حکیم احمد حسین صاحب، (متوفیہ ۲۲ ربیعی ۱۳۵۲ھ)

قاضی صاحب^ر اور اہل سندھ

ضیاء الحق خیر آبادی، مدرسہ شیخ الاسلام شیخوپور

قاضی صاحب کو جس چیز نے علم و تحقیق کی دنیا میں شہرت و عروج اور بقاءے دوام عطا کیا وہ ان کا خاص موضوع ”عرب و ہند و سندھ کے تعلقات“ ہے، اس موضوع پر سب سے پہلے علامہ سید سلیمان ندویؒ نے قلم اٹھایا، اس کے بعد قاضی صاحب نے اسے مستقل موضوع بنانا کر اسے مختلف ادوار میں تقسیم کر کے نہایت تفصیل و تحقیق سے اس پر بحث کی، اور اس موضوع کا حق ادا کر دیا، اور اس زبردست تاریخی خلاء کو پُر کر دیا جو صدیوں پر محیط تھا۔

اس اہم تاریخی سلسلے کی ابتداء بھی ایک عجیب و غریب انداز سے ہوئی جس پر چل آگے علم و تحقیق کی یہ عظیم الشان عمارت کھڑی ہوئی، اس داستان کو خود قاضی صاحب، ہی زبانی سنئے:

ایک روز احمد امین کی ”ضیختی الاسلام“ کا مطالعہ کر رہا تھا جس میں مشہور امام لغت و ادب ابن الاعربی کے متعلق کان اصلہ سندیاً دیکھا تو ہن میں فوراً یہ بات آئی کہ اتنا عظیم امام لغت سندی اصل ہے، معلوم نہیں کیسے کیسے اہل علم و قضل سندی ہندی ہوں گے جن کا ہم کو علم نہیں ہے، وقت وقت کی بات ہے، ورنہ اس سے پہلے دیوان حماسہ وغیرہ میں ابو عطاء السندي کے اشعار بار بار نظر سے گزرے مگر اس کا احساس نہیں ہوا، لہس اسی وقت ابن الاعربی کا تذکرہ نقل کیا اور اس کا سلسلہ چل پڑا جو آخر میں و رجال السند و الہند کی شکل میں

سامنے آیا، ”تهیج صغیرات الامور کبیرها“ بالکل صحیح ہے، اب رات دن چلتے پھرتے حتیٰ کہ کھانا کھاتے وقت بھی تاریخ و رجال کی کتابیں مطالعہ کرنے لگا، ایک دن میں کئی کئی کتابیں سرسری طور سے دیکھتا اور جہاں کوئی سندھی اور ہندی شخصیت نظر آتی فوراً نقل کر لیتا، ایک دن کتب خانہ کے ناظم نے کہا کہ مولانا ساری کتابیں کمرے میں لیجا یے تاکہ بار بار داخل خارج نہ کرنا پڑے، رجال السند و الہند کے مسودے کے پہلے صفحہ پر یہ عبارت درج ہے۔ ”ابتداء التاليف في ۱۲ / جمادی الاخری ۱۳۶۸ھ و ذلك في الجامعة الإسلامية، داہبیل (سورت) التدوین جار“

اس موضوع پر قاضی صاحب نے آٹھ نہایت محققانہ کتابیں تیار کر دیں، جس میں پہلی کتاب رجال السند و الہند ہے، جس کا تفصیلی تعارف اسی شمارہ میں درج ہے، (۲) عرب و ہند عہد رسالت میں (۳) ہندوستان میں عربوں کی حکومتیں (۴) العقد الشمین فی فتوح الہند و من ورد فیها من الصحابة والتابعین (اس کا تعارف بھی اس خاص نمبر میں موجود ہے) (۵) اسلامی ہند کی عظمت رفتہ (۶) خلافت راشدہ اور ہندوستان (۷) خلافت امویہ اور ہندوستان (۸) خلافت عباسیہ اور ہندوستان۔

اس علمی سلسلہ کی پذیریائی تو تمام علمی دنیا نے کی اور قاضی صاحب کی تلاش و تحقیق اور نکتہ رسی کی داد دی، مگر اہل سندھ کو اس عموم میں خصوص حاصل ہے، اس لئے کہ ان کتابوں کا موضوع ہندوستان میں اسلام کی پہلی چار صدیوں کی تاریخ ہے جس کا زیادہ تر تعلق سندھ و مکران وغیرہ سے ہے، اس لئے اہل پاکستان (سندھ) نے اسے اپنی تاریخ قرار دیا، اور اب تک اس علاقہ اور اس دور کی اتنی مفصل و مرتب تاریخ نہیں لکھی گئی تھی اس لئے اس کو ایک نادر دریافت کی حیثیت حاصل ہو گئی، سکھر کی فعال

وتحرک تنظیم، ”تنظیم فکرو نظر“ نے ان تمام کتابوں کو نہایت اعلیٰ معیار پر شائع کیا اور اس کا سندھی زبان میں ترجمہ کیا، اور اس کے رسم اجراء کے موقع پر مصنف کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کیا اور ان کی حد درجہ عزت افزائی کی، اور انھیں ”محسن سندھ“ کا خطاب دیا، اس مضمون میں ہم اہل سندھ کے مکاتیب، تحریروں اور ان کے پیانات کے اقتباسات پیش کریں گے، جس سے قاضی صاحب کے تین اہل سندھ کی شیفتگی و فناگی اور عقیدت و محبت کا پتہ چلتا ہے، اس کی ابتداء صدر پاکستان جزل محمد ضیاء الحق مرحوم جو قاضی صاحب کے بڑے قدر دال تھے کے ایک خط سے کہا ہے ہیں جو انھوں نے تنظیم فکرو نظر سندھ کے صدر پروفیسر اسد اللہ بھٹو صاحب کو لکھا، صدر سندھ کی روایتی ٹوپی اور تنظیم فکرو نظر کا اعزازی نشان دیا گیا،

قاضی صاحب کا تیسرا سفر پاکستان اگست ۱۹۸۶ء میں ان کتابوں کے رسم اجراء اور تعارفی تقریب کے سلسلے میں ہوا جسے تنظیم فکرو نظر نے شائع کیا تھا، قاضی صاحب تحریر فرماتے ہیں : ۲۰ اگست کو ڈیڑھ گھنٹہ کی پرواز کے بعد ۷ ربیع شام کو کراچی ہوائی اڈے پر اترے، تنظیم فکرو نظر کے صدر پروفیسر اسد اللہ بھٹو اور سکریٹری قربان علی اور دیگر کئی ارکان موجود تھے، ان حضرات نے بے پناہ خلوص و محبت سے استقبال کیا اور ہوٹل جیز JABIES (جنت جیز) کراچی میں قیام کا انتظام کیا، کتابوں کا اجراء اور تعارفی جلسہ ۷ راگست کو ہونے والا تھا، مگر صدر جلسہ سید غوث علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ کے پروگرام میں تبدیلی کی وجہ سے ۱۰ اگست کو ہوا، اسلئے دو دن آرام اور ملاقات کیلئے مل گئے،

پروفیسر اسد اللہ بھٹو سندھ کے سکریٹریٹ اول اگئے اور کئی اہم شخصیتوں سے تعارف کرایا، تمام لوگ بڑے خلوص و محبت سے ملے، اور سب ہی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہندوستان میں رہ کر ہمارے ملک سندھ کی اسلامی تاریخ پر وہ کام کیا ہے جو اب تک نہیں ہوا تھا اور ہم اپنے ما پنی سے بے خبر تھے، ہمارے پاس تجھ نامہ کے علاوہ

محمد ضیاء الحق

قاضی صاحب کی پہلی ملاقات صدر مرحوم سے ۱۹۸۶ء میں ہوئی، جب قاضی صاحب تیسرا عالمی قرآن کانفرنس اور سرکاری سیرت کانفرنس میں شرکت کیلئے اسلام آباد تشریف لے گئے تھے، قاضی صاحب صدر محترم کے بارے میں لکھتے ہیں ”کانفرنس میں جزل محمد ضیاء الحق مرحوم شریک تھے، ان سے بار بار ملاقات ہوتی تھی،

مرحوم سے جو شخص ایک بار ملتا تھا محسوس کرتا تھا کہ وہ اس سے خاص تعلق رکھتے ہیں، یہ مرحوم کے اخلاق کی خوبی تھی، میں بھی یہی محسوس کرتا تھا، انھوں نے مجھے ایک نہایت قیمتی یہ پس، عمدہ کشمیری مصلی اور ایک جمال شریف ہدیہ دیا ہے، ان سے خصوصی مجلدوں میں بار بار ملاقات ہوتی رہی،

قاضی صاحب کی دوسری ملاقات ۱۹۸۷ء میں ہوئی، جب قاضی صاحب مارچ ۱۹۸۷ء میں تنظیم فکرو نظر سندھ (سکھر) کی طرف سے منعقدہ ایک عظیم الشان میں الاقوامی ادبی میلے میں شریک ہوئے، قاضی صاحب تحریر فرماتے ہیں : ”جزل محمد ضیاء الحق مرحوم صدر پاکستان کی زیر صدارت جلسہ ہوا، جس میں صدر محترم کے ہاتھوں سندھ کی روایتی ٹوپی اور تنظیم فکرو نظر کا اعزازی نشان دیا گیا،“

یہاں کی اسلامی تاریخ کے بارے میں کچھ نہیں تھا، ہم سب آپ کے احسان منداور شکرگذار ہیں،

(جن اہم شخصیات سے ملاقات ہوئی ان میں پاکستان کے مشہور دانشورین الاقوامی حیثیت کے مالک جناب خالد ایم اسحاق صاحب،.....ان کے بارے میں قاضی صاحب لکھتے ہیں: بڑے علم دوست بلکہ علم پرور شخص ہیں، بلا مبالغہ لاکھوں کتابیں ان کے ذاتی کتب خانہ میں ہیں، اور ہر سال لاکھوں روپیہ کتابوں کی خریداری پر خرچ کرتے ہیں،..... پروفیسر ذیشان خٹک سابق و اکیل چانسلر گول یونیورسٹی پشاور، سراج منیر صاحب ڈائرنر ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور، اور عبدالرحمن صاحب وغیرہ تھے،)

فاران کلب کی تقریب: - فاران کلب کراچی میں اہل علم اور ارباب ذوق کا ادارہ ہے جو موقع بحوث علمی اور ثقافتی پروگرام پیش کرتا رہتا ہے، عبدالرحمن صاحب اس کے روح رواں ہیں، کلب کی طرف سے مہماں کے اعزاز میں ظہرانہ کا انتظام کیا گیا۔ اس تقریب میں بہت سے اہل علم، دانشور اور صحافی شریک ہوئے، کھانے کے بعد ہال میں جلسہ ہوا، موضوع عنین میری کتابیں تھیں،

جناب سراج منیر اور پروفیسر ذیشان خٹک اور دوسرے مقررین نے بڑی فراغی سے حوصلہ منداہ باتیں کیں، اور بر ملا اعتراف کیا کہ ہم آج تک اپنی تاریخ کے اس قدیم سرمایہ سے محروم تھے، ہم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس ملک میں صحابہ و تابعین کی آمد ہوئی ہے، اور عہد رسالت ہی سے اس ملک کو اسلام اور مسلمانوں سے تعلق پیدا ہو گیا تھا، ان کتابوں نے ہماری آنکھیں کھول دیں اور اب ہم اپنی تاریخ کے انقلابی موز پر آگئے ہیں اور ہمارے سوچنے کا انداز بدل گیا ہے، ہمارے پاس محمد بن قاسم سے پہلے اور ان کے بعد کی تاریخ پر کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ ان کتابوں کو لکھ کر ایک شخص نے ایک ادارے کا کام کیا ہے۔ غرض سب ہی مقررین نے میری کتابوں کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کیا۔“

کتابوں کی "تعارفی تقریب" کی تفصیلات

تاریخ:-	۱۰ اگست ۱۹۸۶ء بروز التوار وقت ۷ ربیعہ شام
مقام:-	تاج ہوٹل۔ شاہراہ فصل کراچی
صدارت:-	جناب جسٹس غوث علی شاہ (وزیر اعلیٰ سندھ)
مہمان خصوصی:-	محترم مولانا قاضی اطہر صاحب مبارک پوری (بھارت)
خطبہ استقبالیہ:-	پروفیسر اسد اللہ بھٹو، صدر تنظیم فکر و نظر سندھ

مُقَدَّسَةِ زَرْدِين

جناب خالد ایم سحاق صاحب، سرپرست تنظیم فکر و نظر سندھ	☆☆☆
جناب ڈاکٹر جمیل جاہی و اکس چانسلر کراچی یونیورسٹی	☆☆☆
جناب پروفیسر ذیشان خٹک سابق و اکس چانسلر گول یونیورسٹی	☆☆☆
جناب پروفیسر ایاز قادری صاحب صدر شعبہ سندھی کراچی	پشاور
جناب سراج منیر صاحب ڈائرنر ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور	☆☆☆

خطبہ استقبالیہ کے چند اقتباسات

عزت مآب جسٹس سید غوث علی شاہ صاحب، قابل صد احترام مولانا اطہر مبارک پوری صاحب، محترم خالد اسحاق صاحب!.....	☆☆☆
حضرت مولانا قاضی اطہر مبارک پوری صاحب ایک عہد ساز انسان، اخلاص و محبت اسلامی کردار اور اخلاق کا ایک پیکر ہیں، خاص طور پر اس تقریب میں شرکت کیلئے اعظم گذھ (بھارت) سے تشریف آوری ایک ایسا احسان عظیم ہے، جس کا شکر یہ ہم الفاظ میں ادا نہیں کر سکتے، اس مردو رویش نے بسمی میں تمیں سال علم تحقیق کے موئی بکھیرے ہیں، اور نہایت اعلیٰ معیار پر بائیس کتابیں لکھی ہیں، جن کی علیمت	☆☆☆

اور دنائی کا پورے عالم اسلام میں چرچا ہے، ان کی لافانی تصنیف ”رجال السنداہنڈ“ نے عرب و جنم میں بے پناہ مقبولیت حاصل کی، ان کی دوسری کتب (۱) ”عرب و ہند عہد رسالت میں“ (۲) ”خلافت راشدہ اور ہندوستان“ (۳) ”خلافت امویہ اور ہندوستان“ کی دوبارہ اشاعت کا عظیم شرف تنظیم فکر و نظر سنده کو حاصل ہے، ان کتابوں میں تاریخ اسلام کے ایسے موضوع پر قلم اٹھایا گیا ہے جس کا حق شاید اس سے پہلے ایسے جامع و بلیغ اور اعلیٰ معیار پر کسی نے اداہ کیا ہو۔

حضور اکرم ﷺ کے عہد مبارک سے لے کر عبادی دور تک عرب اور سنده و ہند کے تعلقات اور اسلام کی شاعت، جہاد، تہذیب و ثقافت، تجارت اور محدثین، مفسرین، فقہائے کرام، صوفیائے عظام، علمائے دین اور بزرگوں کی خدمات اور کارناموں کے متعلق یکجا اتنی کثیر اور نایاب معلومات دوسرا کوئی مصنف نہیں کر سکا ہے، مولانا محترم نے برسہ برس تک خون اور لپیٹ کی محنت سے قرآن و سنت، سیرت و فقہ اور تاریخ و مغارزی کی سیکڑوں کتابوں کا مطالعہ کر کے یہ موتی اور لعل و جواہر قارئین کے دامن میں پیش کئے ہیں نہ صرف یہ بلکہ ماذدوں اور حوالوں کی تفصیل دیکر آئندہ کیلئے دانشوروں اور تشنگان علم کیلئے تحقیق کے دروازے کھوی دئے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے تاریخ اسلام کا ابتدائی لیکن اہم ترین باب جو اہل سنده اور اہل ہند.....واقع نہیں تھا اور ائمکوں کے گھوڑے دوڑائے جاتے تھے مولانا موصوف نے تاریخ کے ان گمshedہ سلسلوں کو تلاش کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سرز میں سنده کو صحابہ کرام کے قدم چومنے کا بھی شرف حاصل ہوا ہے جس کے نتیجے میں تاریخ اسلام کا حقیقت اور نیاز اویہ سامنے آیا ہے۔

مولانا محترم کی سرز میں سنده سے محبت اور عقیدت کا یہ عالم ہے کہ کل فرما رہے تھے کہ تاریخ سنده لکھنے کے جنوں میں تصور ہی تصور میں میں نے بزرگان سنده،

محدثین، فقهاء اور اولیاء کرام سے ملاقاتیں کرتا رہا ہوں اور سنده کے میدانوں، سبزہ زاروں، پہاڑوں، مکران کی وادیوں اور گیزاروں میں منازل طے کی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے آج مولانا محترم عالم بیداری میں بخشش نفس اہل سنده سے ملاقات کر رہے ہیں۔

ہمارے آباء و اجداد کا یہ پیش بہا سر ما یہ پیش کر کے مولانا محترم نے بڑا احسان کیا ہے، اس لئے ہم ان کو محسن سنده قرار دیتے ہیں۔

ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور کے ڈائریکٹر جناب سراج منیر صاحب نے کہا:

قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اشرف الخلوقات کو استحکام بخشنے کے لئے پہاڑ قائم کیا ہے۔ مولانا قاضی اطہر مبارکپوری نے بھی اپنی کتاب ”عرب و ہند عہد رسالت میں“ اور دوسری کتابیں لکھتے وقت علم و دانش اور دوسرے مبارک واقعات کے چھوٹے چھوٹے ذرے جمع کر کے پہاڑ قائم کر دیے ہیں، اور پورے عالم اسلام کو استحکام فراہم کر کے بیش قیمت خزانہ فراہم کیا ہے۔

ڈاکٹر ایاز حسین قادری صدر شعبہ سندهی، کراچی یونیورسٹی نے کہا کہ اس کتاب کا عنوان ”عرب و ہند عہد رسالت میں“ کے بجائے ”عرب و سنده عہد رسالت میں“ ہونا چاہئے تھا، کیونکہ زیادہ مواد سنده کے بارے میں ہے۔

پروفیسر ذیشان خٹک و اس چانسلر گول یونیورسٹی پیشاور نے کہا کہ: مولانا قاضی اطہر مبارکپوری کی تصنیف پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ انھوں نے ان کتابوں کو مرتب کرنے میں بڑی عرق ریزی کی ہے، یہ بات ان کی کتابوں کے حوالے سے ملتی ہے کہ قدیم زمانے میں سنده ایک بڑا ملک تھا جس کی سرحدیں ایک طرف کابل اور دوسری طرف سببی سے ملی ہوئی تھیں۔

متاز قانون داں جناب خالد ایم اسحاق صاحب نے کہا کہ: تاریخ عظمت کا نشان ہوتی ہے، جو فرد کو راہ بتلاتی ہے۔ انھوں نے کہا کہ خلافت عباسیہ کے بعد اب

تک کے حالات اور واقعات کو مکمل، کرنے کا کام باقی ہے جو حکومت سندھ کی سرپرستی میں ہونا چاہئے۔ قاضی اطہر مبارکپوری کے انگریزی اور سندھی ترجیح کی ضرورت پر بھی انھوں نے زور دیا۔

تقریب کے صدر سندھ کے وزیر اعلیٰ سید غوث علی شاہ نے کہا کہ: مولانا قاضی اطہر مبارکپوری نے بیش بہا کتب لکھ کر تاریخ میں اپنے لئے ایک مقام پیدا کر لیا ہے، انھوں نے مسلمانان عالم اور پاکستان کے عوام کی ان کتب کے ذریعے جو خدمت کی ہے وہ قبل ستائش ہے، انھوں نے مولانا سے کہا کہ وہ تاریخ اسلام سے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لئے اپنے کام میں مزید وسعت پیدا کریں۔ آخر میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عباسی دور کے بعد سے اب تک سندھ کی تاریخ قلمبند کرنے کا کام باقی ہے۔ اگر کوئی اس کام کا بیڑا اٹھائے تو حکومت سندھ اس کے تمام اخراجات برداشت کرنے کے لئے تیار ہے۔

آخر میں تقریب کے مہمان خصوصی مولانا قاضی اطہر مبارکپوری نے اپنی تقریب میں کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں ہندوستان کا نام اس لئے دیا ہے کہ اپنے یروں ملک کے دوروں کے دوران مجھے یہ تاثر ملا کہ وہاں کے لوگ بھارت، پاکستان اور بُگلا دلیش میں رہنے والوں کو صرف انڈین تصور کرتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ ۱۹۵۵ء میں حج کے موقع پر مقدس مقامات پر جا کر میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی تھی کہ وہ مجھ سے اسلام کی خدمت کا کام لیں۔ چنانچہ میری کوشش اور محنت کے بغیر تنظیم فکر و نظر کے زیر اہتمام یہ کتابیں بڑی خوبی اور دلکشی کے ساتھ شائع ہوئیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیک کام میں معاونت کرنے والوں کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمين!



ماہنامہ ضیاء الاسلام کا

قاضی اطہر مبارکپوری رحم نمبر

حضرت مولانا قاضی اطہر صاحب مبارکپوری کی یاد میں
ماہنامہ ضیاء الاسلام کا خاص نمبر
”قاضی اطہر مبارکپوری نمبر“ شائع

کیا جا رہا ہے۔

یہ خاص نمبر انشاء اللہ تبرکات کے آخری ہفتہ یا اکتوبر کے پہلے ہفتہ میں منظر عام پر آجائے گا، قارئین کرام سے گذارش ہے کہ اس کی اشاعت کے لئے سعی و کوشش کریں، خود بھی اس کے خریدار بینیں اور اپنے متعلقین کو بھی اس کا رخیر کی ترغیب دیکر اپنی علم دوستی کا ثبوت دیں۔ اس خاص نمبر کی خصامت تقریباً چار سو صفحات تک ہو نے کی توقع ہے۔

المشہر: نیجر ماہنامہ ضیاء الاسلام، مدرسہ شیخ الاسلام شیخو پور،
اعظم گدھ (یوپی) 276121